

شست مجازی کی سپاہ کا بیان

امام ابن جوزیؓ ۵۹ھ کی شاہکار تصنیف

ذَهْرُ الْحَوَى

شہوات اور عشق مجازی کی خرابیاں

شادی اور نکاح کی ترجیب

عورتیں اور لڑکوں کے ساتھ بد نظری

عاشقتوں پر عشق کی ویاہی آفات

عشق مجازی اور بد نظری کا علاج

لیلی اور محبوں کے واقعاتِ عشق

زنا اور لواطت کی حرمت اور سزا میں

عاشقتوں اور معشوقوں کے خطرناک واقعات و حالات

اردو ترجمہ و تائیقیص

مولانا امداد اللہ انور
استاذ جامعہ قاسم العلوم، ملتان

دارالمحافف

عشقِ مجازی کی تباہ کاریاں

امام ابن جوزیؓ ۹۵۹ھ کی شاہکار تصنیف
ذہر الْهَوَى

اردو ترجمہ و تلخیص
مولانا امداد اللہ انور
أُسْتَاذِ جامِعَةِ قاسمِ الْعُلُومِ، مُلَٹَانِ
سابق مُعین لتحقيق بفتی حبیل احمد بختانوی جامعہ شرفا لہ بہو

ڈار المعارف

عنایت پور تجھیل جلال پور پیر والا، مُلَٹَانِ

کالی رائٹ کے تمام حقوق محفوظ ہیں

عشقِ مجازی کی تباہ کاریاں
کالی رائٹ رجسٹریشن نمبر : 10258

ادنی اور فنی تمام قسم کے حقوق ملکیت مولانا مفتی امداد اللہ انور صاحب کے نام پر
 رجسٹرڈ اور محفوظ ہیں۔ اس لئے اس کتاب کی مکمل یا مختب حصہ کی طباعت، فوٹو
 کالی، ترجمہ، نئی کتابت کے ساتھ طباعت یا اقتباس یا کپیوٹر میں یا انٹرنیٹ میں
 کالی وغیرہ کرنا اور چھاپنا مفتی امداد اللہ انور صاحب کی تحریری میں اجازت کے بغیر کالی
 رائٹ کے قانون کے تحت ممنوع اور قابل مذاہدہ جرم ہے۔

امداد اللہ انور

نام کتاب : عشقِ مجازی کی تباہ کاریاں (اردو)

ترجمہ : ذمالسوئی (عربی)

از تالیف امام ابن جوزی، سن وفات ۷۵۹ھ

علامہ مفتی محمد امداد اللہ انور دامت برکاتہم

رئیس التحقیق والتحقیف دارالعارف ملتان

استاذ العلوم والفنون جامعہ قاسم العلوم ملتان

سابق معین التحقیق، مفتی جمیل احمد تھانوی جامعہ اشراقیہ المذہب

سابق معین التحقیق مولانا محمد یوسف لدھیانوی شمید کراچی

سابق معین مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان

کالی رائٹ رجسٹریشن نمبر : 10258

ناشر : عزیز اللہ رحمانی دارالعارف ملتان

تاریخ اشاعت : ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

صفحات : ۲۸۰ رائٹی طباعت، خوجہورت جلد

روپے :

ہیں

ملنے کے پتے

| | |
|--|--|
| نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی | مکتبہ رحمانیہ افراسنٹر اردو بازار لاہور |
| بیت القرآن اردو بازار کراچی | مکتبہ العلم اردو بازار لاہور |
| اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی | صابر حسین شعیب ایجنسی اردو بازار لاہور |
| مکتبہ رشید یہ اردو بازار کراچی | مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور |
| مکتبہ زکریا بنوری ٹاؤن کراچی | مکتبہ الحسن حق شریعت اردو بازار لاہور |
| مکتبہ فرید یہ جامعہ فرید یہ ۷-E۔ اسلام آباد | ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور |
| مکتبہ رشید یہ راجہ بازار اول پنڈی | بک لینڈ اردو بازار لاہور |
| مکتبہ رشید یہ کوئٹہ | مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور |
| مولانا اقبال نہمانی سابقہ طاہر نوزیم مدرسہ کراچی | مکتبہ عارفی جامعہ امدادیہ ستیانہ روڈ فیصل آباد |
| مکتبہ مدینہ بیرون مرکز رائے وغ | منظہری کتب خانہ گلشن اقبال کراچی |
| درسہ نصرت العلوم مکتبہ گھر گوجرانوالہ | فیرود سنگڑ لاہور۔ کراچی |
| مکتبہ رشید یہ نزد جامعہ رشید یہ ساہیوال | مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳ |
| ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملماں | قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی |
| مکتبہ امدادیہ نزد خیر المدارس ملماں | اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی |
| حقیقی اکیڈمی بوہرگیت ملماں | دارالاشاعت اردو بازار کراچی |
| بیکن بکس اردو بازار گلشت ملماں | ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی ۱۲ |
| مکتبہ حقانیہ نزد خیر المدارس ملماں | فضلی سنگڑ اردو بازار کراچی |
| مکتبہ مجید یہ بیرون بوہرگیت ملماں | درخواستی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی |

اور ملک کے بہت سے چھوٹے بڑے دینی کتب خانے

فهرست عنوانات

| عنوان | صفحہ |
|-------------------------------|------|
| حالات امام ابن جوزیؒ | |
| نام و نسب | 22 |
| پدائش | 22 |
| ابن الجوزیؒ کی نسبت | 22 |
| ابتدائی حالات اور تحصیل علم | 23 |
| مشائخ (اساتذہ) | 23 |
| مجالس و عزط | 24 |
| تصنیفات | 26 |
| علوم قرآن میں تصانیف | 28 |
| اصول دین میں تصانیف | 29 |
| علم حدیث و رزہدیات میں تصانیف | 30 |
| علم فقہ میں تصانیف | 30 |
| تاریخ میں تصانیف | 30 |
| علم و عزط میں تصانیف | 30 |
| مختلف فنون میں تصانیف | 33 |
| تلانہ | 34 |
| وفات | 35 |
| آغاز کتاب | |

عقل کی حقیقت اور فضیلت

| | | |
|----|-------|-------------------------------|
| 38 | | محل عقل |
| 39 | | احناف کا نہ ہب |
| 39 | | فضیلت عقل |
| 40 | | عقل سب سے خوبصورت |
| 41 | | عقل پوری ہونے کا زمانہ |
| 41 | | حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا |
| 42 | | عقل اور جاہل شیطان کے نزدیک |
| 42 | | بے عقل کے لئے موت بہتر ہے |
| 43 | | پاؤں کا پرده اور عقل |

نمہت خواہش نفسانی

| | | |
|------|-------|--------------------------------------|
| 44 | | عشق و شہوت کا اعلان |
| 45 | | چھٹی نہیں کافر یہ منہ کو گلی ہوئی |
| 45 | | خواہشات نفسانی کا اعلان |
| 46 | | ابیاع خواہشات کی نہمت قرآن میں |
| 47 | | موسمن کامل کی نشانی |
| 48 | | حضور کا خوف |
| 48 | | زمین کا بڑا خدا |
| 49 | | ہوا میں عبادت کرنے والے (پہلی حکایت) |
| 51 | | دوسری حکایت |
| 52 | | بڑا بہادر کون؟ |
| 52 | | ہوا میں ایک اور بزرگ |
| 52 * | | خواہش عمل کاملا پ |
| 53 | | کفر چار چیزوں میں |
| 53 | | حقیقی جوان |

53

عبدات کا مزہ

مجاہدہ و محاسبہ نفس

56

شہوت پوری کرنا دوزخی کا کام ہے

57

اصل پہلوان

57

بڑا جہاد

58

مجاہدہ نفس بڑا جہاد کیوں ہے؟

58

حضرت عمرؓ کی نصیحت

59

مومن دنیا میں قیدی ہے

59

انگلی آگ پر

60

یہ قدم طواف کے قابل کہاں

60

ایک سال تک نہ سوئے

61

بہترین لمحہ

61

فضل الاعمال

61

حور کا مہر

62

نفس کا قیدی

62

حسین و حمیل لوٹڈی اور عمر بن عبد العزیزؓ کی کنارہ کشی

65

نصیحت

65

عمر بن عبد العزیزؓ اور منکر نکیر

تعريف و ترغیب صبر

گمراہی کے فتنوں سے دل کی حفاظت

دل کیسے زنگ آلو دھوتا ہے

دل سے زنگ ہٹانے کا طریقہ

اصلاح دل کی دعا

دل کے اندر سے نصیحت کرنے والا

صرف اللہ کی محبت چاہئے

| | |
|----|-----------------------------|
| 75 | حضرت ابو سلیمان دارانیؓ |
| 75 | حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؓ |
| 76 | حضرت محمد بن افضلؓ |
| 76 | حضرت ضیغمؓ |
| 76 | حضرت ابو بکر الہلاکیؓ |
| 77 | حضرت ابراہیم جبلیؓ |
| 77 | حضرت احمد بن خضرہ یہؓ |
| 77 | حضرت ابو بکر شبلیؓ |
| 78 | حضرت ابن سمنونؓ |
| 78 | حضرت رقیہ عابدہؓ |

حافظت نگاہ

| | |
|----|--------------------------|
| 80 | اچانک نگاہ پڑ جانا |
| 80 | چھ چیزوں کی حفاظت سے جنت |
| 81 | حضرت معروف کرخیؓ |
| 81 | حضرت ذوالنون مصریؓ |
| 82 | حضرت جنیدی بغدادیؓ |

فضول دیکھنے کی نہ مت

- 83 حضرت داؤد طائیؑ
84 حضرت حسان بن ابی سنانؓ

نظر کے فتنوں سے حفاظت

- 85 آنکھ زنا کرتی ہے
85 زہر آلو دیر
86 ابلیس کا تیر
86 حفاظت نظر میں مبالغہ
87 شیطان تمیں جگ پر
87 خیانتی آنکھیں اللہ کی نگاہ میں
87 کاش کہ میں اندھا ہوتا
88 عورت کے پیچھے پیچھے مت چل
88 نظر کی آزادی
88 عورت کے کپڑے بھی مت دیکھ

**بے ریش اڑکوں کی طرف دیکھنے
اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت**

- 90 امام احمد بن صالحؓ کی احتیاط
91 امام مالکؓ کی احتیاط
92 حضرت یحییٰ بن معینؓ اور امام احمد بن حنبلؓ
92 اسلاف امت کا طرز عمل
92 تمکن ابدالوں کی نصیحت

| | |
|---|----------------------------|
| چالیس برس تک آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والے | |
| 93 | بزرگ کا عمل |
| 93 | ایک بزرگ کی دعا |
| 93 | تین قسم کے لواطت کرنے والے |
| 94 | اولاد کی حفاظت |

لڑکوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے والے

| | |
|----|--------------|
| 95 | حکایت نمبر ۱ |
| 96 | حکایت نمبر ۲ |
| 97 | حکایت نمبر ۳ |

بدنظری کا گناہ اور اس کی سزا

| | |
|-----|--|
| 100 | بدنظری کی اچانک سزا |
| 100 | بغیر اجازت گھر میں جھانکنے والے کا حکم |
| 101 | لباس کے نیچے کسی عورت کو سوچنا |
| 101 | اندھا ہو گیا |
| 101 | قرآن پاک بھول گیا |
| 102 | غیب کا تھیز |
| 102 | منہ کالا ہو گیا (عجیب حکایت) |
| 103 | سیاہ داغ |

اپنے آپ کو بدنظری کی سزا دینے والے

| | |
|-----|---|
| 105 | بلاء رادہ نظر پڑنے سے اپنی آنکھ نکال دی |
| 106 | اعتراض |
| 106 | جواب |
| 107 | عذاب دینے والی چیز کو کیوں دیکھیں |

10

107

رورو کر آنکھیں کھو بیٹھے

نظر کے فتنہ سے حفاظت کے لئے بینائی
چھین لینے کی دعا کرنے والے

109

حکایت

حفاظت نظر کا انعام

110

حفاظت نظر سے لذت عبادت

111

قیامت میں نہ رونے والی آنکھ

111

حفاظت نظر سے محبت الہی

112

حفاظت نظر نے بڑا ولی بنادیا (عظمیم حکایت)

بدنگاہی سے پیدا ہونے والے اثرات کا علاج

عورت دلکھ کر ہیجان ہوتا کیا کریں

اجنبی عورت سے تہائی حرام ہے

119

اجنبی مرد و عورت کے ساتھ تیرا شیطان ہوتا ہے

121

تمن چیزوں سے ہمیشہ بچو

121

خود کو معصوم جانے والوں کے لئے عبرت

عورتوں کے فتنہ کی خطرناکیاں

122

خطرناک فتنہ

123

آنحضرت عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے

123

عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا درست نہیں

شیطان کے فتنے اور مکاریاں

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 124 | زن میں پھنسنے والے عابد کا عبرناک قصہ |
| 128 | عورت کو دیکھ کر صبر نہیں ہوتا |
| 129 | خطرناک امانت |
| 129 | حضرت سفیان ثوریؓ کی احتیاط |
| 129 | بلیس کا نشانہ پر بیٹھنے والا تیر |

گناہ اور ان کے اثرات بد سے احتیاط

| | |
|-----|-----------------------|
| 131 | گناہ کی خطرناکیاں |
| 132 | اللہ کے غصہ کی انتہاء |
| 132 | قیمتی نصیحتیں |
| 134 | عبدات کا انعام |

نمذمت زنا

| | |
|-----|----------------------------------|
| 135 | زن کے قریب بھی نہ جائیں |
| 135 | زن کرتے وقت آدمی مومن نہیں رہتا |
| 136 | ہر انسان کا زنا میں حصہ |
| 136 | زن کار پر خدا کو بڑی غیرت آتی ہے |
| 137 | دوزخ میں زانیوں کی بدحالی |
| 138 | اللہ کی سب سے زیادہ ناراضگی |
| 138 | زانی کا ایمان کب واپس ہوتا ہے |
| 139 | شرک کے بعد بڑا گناہ |
| 139 | زن کے چھنگھسان |
| 140 | زانیوں کی گندی بدبو |
| 141 | شرم گاہوں کی بدبو |

| | |
|-----|--|
| 141 | زن اور لواطت کی شامت |
| 142 | عورت کا مرد کو گناہ میں بتا کرنے کا عذاب |
| 143 | شرم گاہ انسان کے پاس امانت ہے |
| 143 | دوخ خ کا خطرناک دروازہ |
| 143 | سخت ترین گناہ |
| 144 | پڑوی کی بیوی سے زنا |
| 144 | مسلمان کی بیوی سے زنا |

لواطت کی خطرناکیاں

| | |
|-----|-------------------------------|
| 146 | لوٹی ملعون ہے |
| 147 | حضور کا خوف |
| 147 | اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے |
| 148 | لوٹی پر مخلوقات کا غصہ |
| 149 | عورت کی عورت سے بد فعلی |

لواطت کی سزا دنیا میں

| | |
|-----|---|
| 150 | قتل کیا جائے |
| 151 | صحابہ کرامؐ کا فیصلہ، لوٹی آگ میں جایا جائے |
| 152 | حضرت علیؓ کا عمل |
| 152 | حضرت عمرؓ کا ارشاد |
| 152 | حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد |
| 153 | آنہہ اسلام کی آراء |
| 153 | امام ابو حنیفہؓ کا نہ ہب |
| 154 | لوٹی کا جج قبول نہ ہونے کی حکایت |
| 155 | شریعت کی سزا میں دینا عوام کا کام نہیں |

لوطی کی قیامت اور دوزخ کی سزا میں

| | |
|-----|---|
| 156 | دوزخ میں آگ کے تابوت ہیں |
| 157 | سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے |
| 158 | لوطی بغیر توبہ کے کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا |
| 159 | لوطی قوم لوط میں شامل کر دیا جاتا ہے |
| 160 | لوطی، بندروں اور خزیروں کی شکل میں |
| 160 | لوطی کی بدترین حالت |

گناہوں کی سزاوں سے بچنے کی ضرورت

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 161 | جیسی کرنی ویسی بھرنی |
| 162 | ایک گناہ پر چالیس سال کے بعد بھی غم |
| 162 | عورت کی کلائی سے مرد کی کلائی چپک گئی |
| 163 | شکل میں بدل گئیں |

توبہ اور استغفار کی ترغیب

| | |
|-----|---|
| 164 | حضور روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتے تھے |
| 164 | سید الاستغفار اور اس کی فضیلت |
| 165 | ابلیس کا چیلنج اور اللہ تعالیٰ کا جواب |
| 166 | سیاہ و سفید اعمال نامہ |
| 166 | رونے کا گناہوں پر اثر |
| 166 | رونے والے کے گناہوں کو محافظہ فرشتے بھول جاتے ہیں |
| 166 | تمس سال تک گناہوں پر روتے رہے |

خدایاد آنے سے گناہ سے کنارہ کش ہونے والوں کا ثواب

| | |
|-----|-------------------------|
| 169 | اللہ کے عرش کے سایہ میں |
| 170 | پاکد امنی کا انعام |
| 170 | دوسرانیم |
| 171 | اللہ تعالیٰ کا افضل ذکر |
| 171 | صدق ایمان کی نشانی |

بد کاری پر قدرت کے باوجود بازر ہنے والوں کی حکایات

| | |
|-----|--|
| 172 | حکایت نمبر ۱ |
| 175 | حکایت نمبر ۲ |
| 176 | فاحشہ نے کیسے توبہ کی (حکایت نمبر ۳) |
| 177 | زن کے لئے نکلنے والے پاؤں کو عبرتاک سزا (حکایت نمبر ۴) |
| 178 | ہاتھ جلا ڈالے مگر زنانہ کیا (حکایت نمبر ۵) |
| 179 | شہزادی کی دعوت گناہ سے بچنے والے کی شان (حکایت نمبر ۶) |
| 180 | بڑھیا عورت کا مکرا اور اللہ کی حفاظت (حکایت نمبر ۷) |
| 182 | حضرت عطاء بن یسارؓ کی حکایت (حکایت نمبر ۸) |
| 184 | عاشق و معشوق قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے (حکایت نمبر ۹) |
| 186 | دو گناہ گاروں کو رحمت خداوندی نے کیسے بچایا (حکایت نمبر ۱۰) |
| 189 | دو عاشقوں کا حال محبت خدا میں یکساں ہونا چاہئے (حکایت نمبر ۱۱) |
| 191 | عورت کالی سیاہ ہو گئی (حکایت نمبر ۱۲) |
| 191 | ایک ولی کو بتا کرنے کی کوشش اور اس کا عجیب اثر (حکایت نمبر ۱۳) |
| 193 | گناہ سے بچنے پر بادل نے سایہ کیا (حکایت نمبر ۱۴) |
| 195 | تہمت لگانے والوں کو آگ نے جلا دیا (حکایت نمبر ۱۵) |
| 196 | اللہ کا دروازہ تو بند نہیں (حکایت نمبر ۱۶) |

| | |
|---|-----|
| خدا کے سامنے میں حلال نہیں کر سکتی تو حرام کا ارتکاب کیسے کروں؟ (حکایت نمبر ۱) | 197 |
| لذت گناہ لینے کے بجائے ہاتھ جلانا منظور ہے (حکایت نمبر ۱۸) | 197 |
| بادشاہ کو نصیحت (حکایت نمبر ۱۹) | 198 |

شادی کی ترغیب و اہمیت

| | |
|---|-----|
| نکاح کا فائدہ | 199 |
| نوجوان کی شادی پر شیطان کا واویلا | 200 |
| اولاد گناہ میں بتلا ہوتا باپ بھی گناہ گار ہو گا | 200 |
| منگیت کو دیکھنا | 201 |
| حسن کے ساتھ منگیت کا دیندار ہونا قابل ترجیح ہے | 201 |
| عاشق کس سے شادی کرے | 202 |
| بلا محبت کی شادی | 202 |

بیوی کو خاوند کے خلاف کرنے کی نہ مت

| | |
|--|-----|
| بادشاہ اندھا ہو گیا (حکایت نمبر ۱) | 203 |
| ابو مسلم خولانی کی بد دعا نے اندھا کر دیا (حکایت نمبر ۲) | 204 |

عشق کیا ہے؟

| | |
|-----------------------|-----|
| حکماء زمانہ کے اقوال | 207 |
| ارسطاطالیس | 207 |
| فیٹاغورس | 207 |
| سترات | 208 |
| ایک فلسفی | 208 |
| علمائے اسلام کے نزدیک | 208 |
| ایک دیہاتی کہتا ہے | 209 |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 209 | ایک عورت کے نزدیک |
| 209 | عشق کے درجات |
| 210 | محبت جنس ہے اور عشق اس کی نوع ہے |

اسباب عشق و محبت

| | |
|-----|------------------------------|
| 211 | حکماء قدیم |
| 211 | اسباب عشق |
| 212 | دو قلب یک جان عاشق و معشوق |
| 213 | بے عقل جنس میں میلان ہوتا ہے |
| 213 | عشق کب جڑ پڑتا ہے |

نمذ عشق

| | |
|-----|----------------|
| 215 | عشق کے نقصانات |
| 215 | دین کا نقصان |
| 215 | دنیا کا نقصان |

ابتلاء عشق کے بعد خود کو گناہ سے بچانے کا ثواب

عشق کی آفات (مہلک یا میری، بدحالی، دیوانگی وغیرہ)

| | |
|-----|--|
| 218 | مرتے دم تک گونگارہا (حکایت نمبر ۱) |
| 218 | معشوق کے گمراہی کرنے سے ہی نیند آتی تھی (حکایت نمبر ۲) |
| 219 | پھر مارنے والا مجنوں (حکایت نمبر ۳) |
| 219 | اپنے بازو کا نہ والانگا عاشق (حکایت نمبر ۴) |
| 220 | ہارون رشید عاشق ہو گیا (حکایت نمبر ۵) |
| 221 | دوران طواف عاشقوں پر رحمت کی دعا (حکایت نمبر ۶) |
| 223 | میرا دل عاشق نہ ہو جائے (حکایت نمبر ۷) |

| | |
|-----|---|
| 224 | بد کاری کو چھپاتے ہوئے مرگی (حکایت نمبر ۸) |
| 224 | عشق میں باپ کو داؤ پر لگانے والی کے نکڑے نکڑے ہو گئے (حکایت نمبر ۹) |
| 226 | آگ پر چڑھی ہاندی میں چبج کی جگہ ہاتھ ہلانے لگا (حکایت نمبر ۱۰) |
| 226 | ابیں کروڑ کی شادی (حکایت نمبر ۱) |

معشوق کی خاطر عاشقوں کے حیلے اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے والے خطرات کی حکایات

| | |
|-----|--|
| 228 | محل سے چھلانگ لگا کر جان دیدی (حکایت نمبر ۱) |
| 232 | عاشق و معشوق کا عجیب ترین واقعہ (حکایت نمبر ۲) |
| 244 | عاشق زندہ دفن کر دیا گیا (حکایت نمبر ۳) |
| 246 | مقصد تک پہنچنے والا چالباز عاشق (حکایت نمبر ۴) |

لیلی مجنوں کے حالات عشق

| | |
|-----|---|
| 248 | نام و نسب مجنوں |
| 249 | لیلی کا نام و نسب |
| 249 | حکایت نمبر اعشق کیسے پروان چڑھا |
| 250 | حکایت نمبر ۲ |
| 250 | مجنوں طوف میں کیا دعا کر رہا تھا (حکایت نمبر ۳) |
| 252 | حج کے دوران مجنوں کا جنون (حکایت نمبر ۴) |
| 253 | مجنوں کی دیوانگی کا سبب (حکایت نمبر ۵) |
| 255 | مجنوں اپنا گوشت کھانے لگا (حکایت نمبر ۶) |
| 257 | مجنوں کی خاطر لیلی کی تڑپ (حکایت نمبر ۷) |
| 258 | مجنوں کی لیلی کے خاوند سے ملاقات (حکایت نمبر ۸) |

| | | |
|-----|-------|---|
| 259 | | حکایت نمبر ۹ لیلی کی قبر چوتے چو متے مر گیا |
| 260 | | عاشقوں کا انجام |

عاشقی کے پیچھے کافر بننے والوں کی حکایات

| | | |
|-----|-------|--|
| 261 | | تمن سو سالہ عبادت گزار کی حکایت |
| 262 | | عاشق کا فر ہو گیا معشوقہ مسلمان ہو گئی |
| 263 | | بے دین عاشق کی لاش گندگی کے ذہیر پر |

عشق کی خاطر لوگوں کو قتل کرنے والے عاشقوں کے واقعات

| | | |
|-----|-------|--|
| 266 | | حق مہر میں مقتولوں کے سر پیش کرنے والا خبیث عاشق |
| 266 | | دو قاتلوں کا انجام |
| 266 | | بیٹی نے باپ کو قتل کر دیا |
| 267 | | خطرناک حکایت |
| 268 | | زانی شیطان کو قتل کر کے جلا دیا گیا |

معشوق کو قتل کرنے والے عاشقوں کی حکایات

| | | |
|-----|-------|--|
| 274 | | دوستی لگانے والی کا انجام (حکایت نمبر ۱) |
| 275 | | قدرت کا انتقام (حکایت نمبر ۲) |
| 276 | | محبوبہ کے نکڑے نکڑے کر دیئے (حکایت نمبر ۳) |
| 281 | | حکایت نمبر ۴ |
| 283 | | بے گناہ کے قاتل کا انجام (حکایت نمبر ۵) |

عشق کے سبب قتل ہونے والے عاشق

| | | |
|-----|-------|---|
| 284 | | دھوکہ باز کو نیک خاتون نے قتل کر دیا (حکایت نمبر ۱) |
| 286 | | ڈنڈا مار کر بھیجاں کاں دیا (حکایت نمبر ۲) |
| 287 | | بہادر شہسوار (حکایت نمبر ۳) |

| | |
|-----|--|
| 288 | عزت کی حفاظت میں خاتون کی جرأت (حکایت نمبر ۲) |
| 289 | ایسی غیرت مند خواتین بہت ہوئی چاہیں (حکایت نمبر ۵) |
| 291 | غیرت مند خاوند (حکایت نمبر ۶) |

عشق کے مقتول

| | |
|-----|--|
| 292 | عاشق خاتون کا دماغ درست کرنے والا عابد (حکایت نمبر ۱) |
| 296 | عشق کا سیلان اس ہو (حکایت نمبر ۲) |
| 296 | عشق اور خدا کا خوف (حکایت نمبر ۳) |
| 298 | اگر مرنا ہی ہے تو خاوند کی محبت میں مرد (حکایت نمبر ۴) |
| 299 | اے عاشقو! اس لڑکی سے سبق سیکھو (حکایت نمبر ۵) |

خودکشی کرنے والے عاشق

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 305 | پہیٹ پھاڑ کر مر گیا (حکایت نمبر ۱) |
| 307 | تو بے کا انوکھا ڈھنگ (حکایت نمبر ۲) |
| 308 | خودکشی کا عذاب |
| 309 | خودکشی کا ایک واقعہ |

عشق کا علاج

| | |
|-----|------------------------------|
| 310 | کوتاہی نمبر ۱ اور علاج |
| 311 | کوتاہی نمبر ۲ اور علاج |
| 311 | حکایت |
| 311 | کوتاہی نمبر ۳ اور اس کا علاج |
| 312 | کوتاہی نمبر ۴ اور اس کا علاج |
| 313 | کوتاہی نمبر ۵ اور اس کا علاج |
| 313 | کوتاہی نمبر ۶ اور اس کا علاج |
| 314 | محبت کیا ہے؟ |

| | |
|-----|--|
| 315 | محبوب کے پاس چل کر جانا |
| 315 | محبوب سے باتیں کرنا |
| 317 | اللہ سے حیاء کرو |
| 318 | اللہ کے بندے |
| 319 | قیمتی جو ہر |
| 319 | عشق کا بہترین علاج |
| 319 | مردوں کی تمنا |
| 320 | خدا کے سامنے شرمندگی |
| 321 | اللہ کی پردہ پوشی |
| 322 | زمین گناہ گار کے گناہ کی گواہی دے گی |
| 322 | خود کو دوزخ میں ڈالنے والا سمجھ کر باز آ جا |
| 323 | دوزخ کی آگ کی خطرناکی |
| 324 | دوزخیوں کے آنسوؤں میں کشتمیاں بہہ سکتی ہیں |
| 324 | قیامت میں پہاڑوں کی فریاد |
| 324 | سب سے کم عذاب والا دوزخی |
| 325 | پچاس ہزار سال تک بھوکے پیاسے |
| 325 | عشق کا اصل علاج محبوب سے شادی ہے |
| 326 | نگ دستی کی وجہ سے محبوب سے شادی نہ ہوتی کیا کرے؟ |
| 326 | حکایت |
| 327 | غیبی آواز |

محبوبوں سے شادی حاصل کر لینے والوں کی حکایات

| | |
|-----|--------------------------------|
| 328 | حضرت علیؓ نے شادی کراوی |
| 329 | حکایت نمبر ۲ |
| 331 | ہارون رشید کی شادی کا عجیب قصہ |

عشق حرام کے آخری درجہ کا علاج

ظاہری علاج

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 337 | حسن کا معیار |
| 337 | حکایت |
| 339 | ایک علاج یہ ہے |
| 339 | باطنی علاج |
| 341 | عشق چھوڑ کر صبر کرنے کا انعام |
| 341 | حضرت جنید بغدادیؒ |

مجھے ضرور پڑھیں

| | |
|-----------|--|
| 342 | حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ارشاد |
| 342 | حضرت ابن مسعودؓ کا ارشاد |
| 343 | پھر پرکنده عبارت |
| 343 | امام او زاعمیؑ کی نصیحت |
| 344 | حضرت داؤد طائیؑ کی نصیحت |
| 344 | جاننے والا انجان کی طرح نہیں |
| 345 | اصل سرمایہ کو تباہ کرنے والا |
| 345 | بدن گھل رہے ہیں عمر فنا ہو رہی ہے |
| 346 | تیرے سانس گن گن کر پورے کئے جا رہے ہیں |
| 347 | خاتمه |

مختصر حالات

امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ

نام و نسب

آپ کا نام عبد الرحمن ہے، لقب جمال الدین، کنیت ابو الفرج، اور ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے:

عبد الرحمن بن ابی الحسن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ بن حمادی بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزی بن عبد اللہ بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، قرشی تہمی بکری بغدادی صنبلی۔

ابن الجوزی کی نسبت

جوزی کی نسبت میں اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ آپ کے دادا جعفر بصرہ کے ایک فرضہ کی طرف منسوب تھے جس کا نام جوزہ تھا۔ فرضۃ النیر، نہر کے دہانے کو کہتے ہیں جہاں سے پانی لیا جاتا ہے اور فرضۃ البحر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کشتمیاں بندھتی ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کا قول ہے۔ اور منذری کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام کی طرف نسبت ہے جس کو فرضۃ الجوز کہتے ہیں۔

اور شیخ عبدالصمد بن ابی حییش کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے ایک محلہ کی طرف نسبت ہے جس کا نام ” محلہ الجوز“ ہے بعض کا قول ہے کہ یہ نہیں بلکہ شہرواسط میں ان کے اجداد کے گھر میں جوز یعنی اخروٹ کا ایک درخت تھا، جس کے سوا وہاں اور کوئی اس کا درخت نہیں تھا۔

پیدائش

آپ کے سن پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ۵۰۸ھ ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۹۵۰ھ ہے، اور بعض کا قول ہے کہ ۱۵۰ھ ہے۔ خود ان کی تحریر میں تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ کو اپنی پیدائش کا سن ٹھیک معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ والد صاحب کا ۱۲۵ھ میں انتقال ہوا تھا، اور والدہ کہتی تھیں کہ اس وقت تمہاری عمر تقریباً تین برس کی تھی۔ اس بناء پر آپ کا سن پیدائش ۱۵۰ھ یا ۱۲۵ھ ہو گا۔ آپ بغداد میں درب حبیب میں پیدا ہوئے تھے۔

ابتدائی حالات اور تحصیل علم

آپ کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھوپھی نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے ہاں تانبے کی تجارت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی بعض قدیم سندوں میں ابن الجوزی الصفار لکھا ہوا ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی پھوپھی حافظ ابوالفضل ابن ناصر کے ہاں لے گئیں تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو حدیث سنائی۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ۶۱ھ میں ہوئی تھی۔ قرآن مجید حفظ کیا اور انہمہ قراءۃ کی ایک جماعت سے تحصیل علم کی۔ بڑے ہونے کے بعد شہرواسط میں علی ابن البارقلاوی سے قرآن مجید روایات کے ساتھ پڑھا۔

مشائخ (اساتذہ)

آپ نے اپنے مشائخ میں ستائی اشخاص کو ذکر کیا ہے حالانکہ ان کے سوا بھی کئی اور علماء سے علم حاصل کیا چند بڑے بڑے اساتذہ کے نام یہ ہیں۔

ابو القاسم بن الحصین، قاضی ابو بکر الانصاری، ابو بکر محمد بن الحسین المرزقی (المزرقی)، ابو القاسم الحجری، علی بن عبد الواحد الدینوری، ابو السعادات احمد بن احمد المتولی، ابو غالب بن البتا، اور ان کے بھائی یحییٰ، ابو عبد اللہ الحسین بن محمد البارع، ابو الحسن

علی بن احمد الموحد، ابو عالیٰ ب محمد الحسن الماوردی، فقیہ ابو الحسن ابن الزاغونی، ابو منصور بن خیرون، ابو القاسم بن اسرار قتدی، عبدالوہاب الانماطی، عبد الملک الکروجی، خطیب اصبهان ابو القاسم عبد اللہ بن محمد، ابو سعید الزروزی، ابو سعد البغدادی، سیحی بن الطراح، اسماعیل بن ابی صالح المؤذن، ابو القاسم بن علی بن علی العلوی الہروی الوعاظ، ابو منصور القناز، عبد الجبار بن ابراہیم بن عبد الوہاب ابن منده، ہبۃ اللہ بن الطبر او را ابوالوقت الجزیری۔

مجالس وعظ

۲۵۶ھ میں آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ باب بدر میں سلطان کی موجودگی میں وعظ کے لئے بیٹھیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ چاشت کے وقت سے لے کر عصر کے بعد تک لوگ اپنے لئے جگہ کا انتظام کرتے رہے۔ وہاں پر چند چبوترے تھے جو کرایہ پر لئے گئے۔ چنانچہ ایک آدمی کی جگہ دو تین قیراط پر ملتی تھی۔ آپ باب بدر میں عرفہ کے روز وعظ کے لئے تشریف لے گئے تو لوگ چاشت ہی کے وقت سے حاضر ہونے لگے گرمی سخت تھی اور لوگ روزہ سے تھے اس روز کے عجیب امور میں سے یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سر پر سایہ تانا جس کو دس آدمی ظہر سے عصر تک پکڑ رہے رہے۔ اور لوگوں نے ان کو پائی قیراط دیئے۔ بہت سے سنکھے دو گنی قیمت پر خریدے گئے۔ اس روز ایک شخص چلا یا کہ اس بھیز میں ابھی مہرے سودینار چوری ہو گئے تو سلطان نے اس کو اپنی طرف سے سودینار دیئے شیخ کہتے ہیں کہ اسی سال میں نے علامہ ابن الجوزی کے لئے عاشورا کے روز جامع مسجد منصور میں وعظ کی ایک مجلس قائم کی، اس میں اتنے لوگ حاضر ہوئے جن کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ تھا۔ اور ایسا ہی واقعہ تقلیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ سے اہل حریثیہ نے چاہا کہ میں ان کے لئے رات کو وعظ کی مجلس قائم کروں۔ میں نے ۶ ربیع الاول جمعرات کے روز کا وعدہ کیا۔ بغداد وغیرہ کے لوگوں کی وہاں اس قدر کثرت ہوئی جو نصف شعبان کی کثرت سے کہیں زیادہ تھی۔ میں باب بصرہ سے چل کر مغرب کے بعد حریثیہ میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگ بہت سی مشعلیں ہمراہ لئے مجھ سے ملے، اور میرے ساتھ ہوئے۔

جب میں باب بصرہ سے نکلا تو میں نے حرбیہ والوں کو دیکھا کہ اتنی مشعلیں لے کر آ رہے ہیں جن کا شمار ممکن نہ تھا میں نے دیکھا کہ میدان روشنی سے جگمگار ہا ہے، اور محلہ کے لوگ، عورتیں اور بچے دیکھنے کیلئے نکلے ہیں میدان میں اس قدر بھیز تھی جیسے بدھ کے روز بازار میں بھیز تھی ہے۔ میں حربیہ میں داخل ہوا تو سڑک آدمیوں سے بھر رہی تھی۔ اگر کہا جائے کہ جو لوگ مجلس وعظ کی غرض سے آئے اور حربیہ اور باب بصرہ کے درمیان میں چلے وہ تمیں لاکھ تھے، تو یہ بات بعید نہ ہوگی۔

حاصل یہ کہ آپ کی مجالس وعظ کی نظیر نہ تو دیکھی گئی اور نہ سنی گئی۔ ان سے بڑا نفع پہنچتا تھا غال نصیحت حاصل کرتے تھے، جاہل علم کی باتیں سمجھتے تھے، گنہگار توبہ کرتے تھے، مشرق مسلمان ہوتے تھے، آپ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ وعظ کیا تو تقریباً دوسو آدمی اسی مجلس میں تائب ہوئے۔ اور ان میں سے ایک سو بیس کی پیروں کے نام کی چوٹیاں کالئی گئیں۔

آپ نے کتاب القصاص والمدح کرین کے آخر میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو وعظ کرتا رہا اور ان کو توبہ اور تقویٰ کی ترغیب دلاتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کتاب میں ایک لاکھ آدمیوں سے زیادہ کی فہرست جمع کر لی۔ اور دس ہزار سے زیادہ بچوں کی پیروں کے نام کی رکھی ہوئی چوٹیاں کالئی گئیں اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

آپ کے پوتے ابوالمحظفر کہتے ہیں کہ آپ کے وعظ میں کم سے کم دس ہزار آدمی حاضر ہوتے تھے اور بسا اوقات یہ تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی قبولیت اور ہیبت پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو دنیا سے رغبت نہ تھی میں نے آپ کو آخر عمر میں سنا، منبر پر فرمایا ہے تھے کہ

”میں نے اپنی ان دونوں انگلیوں سے دو ہزار جزو لکھے ہیں،
میرے ہاتھ پر ایک لاکھ آدمیوں نے توبہ کی ہے اور نیس ہزار یہود

و نصاریٰ مسلمان ہوئے۔

آپ ہفتہ وار قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ مکان سے صرف جامع مسجد کو جمعہ اور وعظ کیلئے نکلا کرتے تھے کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا۔ اور نہ کبھی کوئی مشتبہ چیز کھائی۔ اسی طرح تمام عمر گز اردا۔ ابن القطبی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے کلام سے بہت فائدہ اٹھایا۔ بعض مرتبہ ایک ایک مجلس میں سوسا اور اس سے زیادہ آدمی گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ سال میں دو ایک روز جامع مسجد منصور میں وعظ کے لئے بیٹھا کرتے تھے تو اعلان کیلئے اشتہارات تقسیم ہوتے تھے۔ اور ایک ایک لاکھ آدمی جمع ہو جاتے تھے۔

الغرض آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کے انقلاب انگلیز مواعظ اور مجالس درس ہیں ان مجالس وعظ نے سارے بغداد کو زیریز پر کپڑہ کھا تھا۔ خلفاء، سلاطین، وزراء اور اکابر علماء، ان میں بڑے اهتمام اور بڑے شوق سے شرکت کرتے۔ تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگ غش کھا کھا کر گرتے لوگوں کی چینیں نکل جاتیں۔ اور آنسوؤں کی جھٹریاں لگ جاتیں۔

علامہ ابن الجوزی نے اپنی مجالس وعظ میں بدعتات و منکرات کی کھل کر تردید کی۔ عقائد صحیحہ اور سنت کا اظہار کیا۔ اپنی بے مثل خطابت، زبردست علمیت اور عام رجوع کی وجہ سے اہل بدعت کو ان کی تردید کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنت کو ان کے مواعظ و درس اور تصنیفات سے بہت فروغ ہوا۔

..... تصانیف

علامہ ابن الجوزی نے زبانی وعظ و تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے متعدد کتابیں ایسی لکھیں جنہوں نے علمی طبیعت پر بڑا اثر ڈالا۔ اور غلط رجحانات کی اصلاح کی۔ حافظ ابن الدینی نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے شیخ امام جمال الدین ابن الجوزی کی بہت سی تصانیف مختلف فنون میں ہیں۔ جیسے تفسیر، فقہ، حدیث، وعظ، رقائق، تاریخ وغیرہ۔ حدیث اور علوم حدیث کی معرفت، صحیح وضعیف حدیث کی واقفیت میں آپ کو درجہ

کمال حاصل تھا۔ اور اس فن میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ جیسے مسانید، ابواب اور اسماء الرجال، اور ان احادیث کی معرفت جن سے احکام اور فقہ میں استدلال کیا جاتا ہے۔ اور ان احادیث کی معرفت جو قابل استدلال نہیں ہیں، جیسے ضعیف و موضوع حدیثیں اور جیسے انقطاع اور اتصال کا بیان۔ وعظ میں آپ کی تقریر شستہ ہوتی تھی، اشارات عمدہ، معانی لطیف، اور استعارات نفس۔ آپ کا کلام اپا کیزہ ہوتا تھا، اندازِ کلام شاستہ، زبان شیریں اور بیان اعلیٰ تھا۔ آپ کے علم اور عمر میں برکت دی گئی تھی۔

ابن الصفار آپ کی چند تصانیف کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جس نے آپ کی تالیفات میں غور کیا اس کو آپ کا حفظ، ضبط اور علمی مرتبہ معلوم ہے۔ آپ باوجود ان فضائل اور وسیع علوم کے وظائف اور عبادات کے بھی پابند تھے۔ آپ کو ذوقِ صحیح کا حصہ اور شیرینی مناجات کا بہرہ بھی تھا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے "اجوبہ مصریہ" میں لکھا ہے کہ آپ مفتی اور بڑے صاحب تصنیف و تالیف تھے۔ بہت سے فنون میں آپ کی تصنیفات ہیں میں نے ان کی تالیفات شمار کیں تو ہزار سے زیادہ پایا اور اس کے بعد اور بھی دیکھیں جو پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ حدیث و فنون حدیث میں آپ کی ایسی تصنیفات ہیں جن سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اور اس میں آپ کو کمال مہارت تھی۔ وعظ اور فنون وعظ میں آپ کی ایسی تصنیفات ہیں کہ ان جیسی کوئی تصنیف نہیں ہوئی۔ اور بہتر تصنیف آپ کی وہ ہے جس میں سلف کے حالات جمع کئے ہیں۔ مثلاً وہ مناقب جو آپ نے تصنیف کئے ہیں کیوں کہ آپ معتبر تھے، لوگوں کی تصنیفات سے آپ کو بہت واقفیت تھی۔ ترتیب اور تفصیل اچھی کرتے تھے جمع کرنے اور لکھنے پر قادر تھے۔ ان فنون میں آپ کو دیگر مصنفوں سے اچھی تمیز تھی کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی اس فن میں تصانیف ہیں۔ لیکن ان کو چ اور جھوٹ میں تمیز نہیں ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی تصنیف اس وقت ہوئی سے جب میری عمر تقریباً تیرہ برس کی تھی۔

ابن القطبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن الجوزی نے مجھ کو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا

ایک رقعہ دیا اور کہا کہ یہی میری تصنیفات کی فہرست ہے وہ فہرست یہاں درج کی جاتی ہے۔

قرآن اور علوم قرآن کے متعلق چند تصنیفات

(۱) المغنی فی تفسیر القرآن (۲) زاد المسیر فی علم الشیر (۳) تیسیر البیان فی تفسیر القرآن (۴) تذکرة الاریب فی تفسیر الغریب (۵) غریب الغریب (غریب العزیز) (۶) نزبۃ العین (النواظر فی علم الوجوه والنظائر) (اس میں مفردات امام راغب کی طرز پر معانی قرآن کا بیان ہے) (۷) الوجوه النواضر فی الوجوه والنظائر (۸) مختصر کتاب نزبۃ العین (۹) الاشارة الی القراءۃ المختارۃ (۱۰) تذکرہ المتنبہ فی عيون المشتبہ (یعنی قراءۃ میں ہے) (۱۱) فنون الافنان فی عيون علوم القرآن (۱۲) ورد الاغصان فی فنون الافنان (۱۳) عمدۃ الرائخ فی معرفۃ المنسوخ والناسخ (۱۴) المصفی باکف اہل الرسون من علم الناسخ والمنسوخ۔

اصول دین میں چند تصنیفات

(۱۵) متفق المعتقد (۱۶) منهاج الوصول الی علم الاصول (۱۷) بیان غفلة القائل بعدم افعال العباد (۱۸) غوامض الالہیات (۱۹) مسلک العقل (۲۰) منهاج اہل الاصابہ فی صحیۃ الصحابة (۲۱) العبر المقصون (۲۲) دفع شبهۃ التشہیہ (دفع شبہ المشتبہ) (۲۳) الرد علی المتعصب العنید۔

علم حدیث اور زہدیات میں تصنیفات

(۲۴) جامع المسانید (والالقاب) باختصار المسانید (۲۵) الحدائق (الابل الحقائق فی الموعظة) (۲۶) نقل العقل (نفس النقل) (۲۷) الجھنی (فی انواع من العلوم) (۲۸) النزہہ (۲۹) عيون الحکایات (۳۰) ملقط الحکایات (۳۱) ارشاد المریدین فی حکایات (سلف) الصالحین (۳۲) روضۃ النقل (۳۳) غرر الاثر (۳۴) التحقیق فی احادیث اعلیٰ (الخلاف) (۳۵) المدقع (۳۶) الم الموضوعات من الاحادیث المرفوئات (۳۷)

العلل المتناهية في أحاديث الواهية (الواهيات) (٣٨) الكشف لمشكل (حديث)
الجسرين (٣٩) مشكل الصحيح (٤٠) الضعفاء والمتزكيين (٤١) اعلام العالم بعد رسوخ
حقائق ناسخ الحديث ومسنوده (٤٢) اخبار اهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ
(من الحديث) (٤٣) ائمهم المصيب (٤٤) اخبار الذخائر (٤٥) الفوائد عن الشيوخ
(٤٦) مناقب اصحاب الحديث (مناقب جماعة) (٤٧) موت الخضر (٤٨) مختصر موت
الخضر (٤٩) امسيخ (٥٠) امسلسلات (٥١) امتحن في النسب (٥٢) تحفة الكليات
(٥٣) تنوير لمblem السدف (٥٤) الالقاب (٥٥) فضائل (مناقب) عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه (٥٦) فضائل (مناقب) عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه (٥٧) سيرة
عمر بن عبد العزيز (يہ علیحدہ بڑی کتاب ہے) (٥٨) فضائل سعید بن المسيب رحمة الله
عليه (٥٩) فضائل الحسن البصري رحمة الله عليه (٦٠) مناقب الفضيل بن عياض رحمة الله
عليه (٦١) مناقب بشر الحافني (٦٢) مناقب ابراهيم بن ادريس (٦٣) مناقب سفيان
الثورى (٦٤) مناقب احمد بن حنبل (٦٥) مناقب معروف الكرخي (٦٦) مناقب رابع
العدوي (٦٧) مشير الغرام الساکن الى اشرف الاماکن (٦٨) صفوۃ الصفوۃ (جوحدیة
الاولیاء کا مختصر ہے) (٦٩) مشہاج القاصدین (یہ کتاب احیاء علوم الدین کے اسلوب پر
ہے) (٧٠) المختار من اخبار الاخیار (٧١) القاطع لمحال المباحث القاطع بمحال احوال
(٧٢) عجالة الممنتظر في شرح حال الخضر (٧٣) النساء وما يتعلّق بهن بما دا بهن (احکام
النساء) (٧٤) بیان علل الحديث المنسوق في ان ابا بکر امام الرسول (٧٥) الجواہر (جوہر)
المواعظ (٧٦) امقلق۔

علم فقه میں چند تصنیفات

- (٧٧) الانصار في مسائل الخلاف (٧٨) (الانتصار في مسائل الخلاف)
- (٧٩) جنة النظر وجنۃ المنتظر (یہ متوسط تعلیق ہے) (٨٠) مختصر المختصر في مسائل النظر
(یہ اس سے چھوٹی تعلیق ہے) (٨١) عمدة الدلائل في مشتهر المسائل (الدلائل في

مشہور المسائل) (۸۲) المذہب فی المذہب (۸۳) مسیوک الذہب فی المذہب (۸۴) العبادات الخمس (۸۵) اسباب الہدایہ لارباب البدایہ (۸۶) کشف الظلمة عن الفباء، فی رد الدعوی کمیا (۸۷) درء اللوم والضیم فی صوم یوم الغیم۔

علم تاریخ میں چند تصنیفات

(۸۸) تلخیق فہوم اہل الاشتر فی عیون التاریخ والسر (ابن قتیبہ کی المعارف کی طرز پر)
 (۸۹) منتظم فی تاریخ الملوك والامم (۹۰) شذور العقود فی تاریخ العبود (۹۱) طرائف
 الظرائف فی تاریخ السوالف (۹۲) مناقب بغداد (۹۳) الذہب المسوک فی سیر الملوك)۔

علم وعظ میں چند تصنیفات

(۹۴) الیوقیت فی الخطب (المواقیت فی الخطب الوعظیہ) (۹۵) منتخب فی النوب
 (۹۶) نخب منتخب (۹۷) منخل منتخب (۹۸) نیسم الریاض (فی الموعظة) (۹۹) الملوّلة (فی الموعظة)
 (۱۰۰) کنز المذکرین (فی الموعظة) (۱۰۱) الارج (فی الموعظة)
 (۱۰۲) اللطیف (فی الوعظ) (۱۰۳) اللطائف (۱۰۴) کنز الرموز (۱۰۵)
 انفیس (۱۰۶) زین القصص (۱۰۷) موافق المرافق (۱۰۸) الشاہد والمشہود (۱۰۹) واسطات
 العقود من شاہد مشہود (۱۱۰) المذهب (۱۱۱) المذهب (فی الحاضرات) (۱۱۲) صبانجد (فی
 الموعظة) (۱۱۳) محاوی العقل (۱۱۴) لقط الجمان (۱۱۵) مغافل المعانی (۱۱۶) فتوح الفتوح (فی
 فتوح الفتوح) (۱۱۷) التعازی الملوكیہ (۱۱۸) المقدع المقصیم البداییہ (۱۱۹) ایقاظ الوستان
 (۱۲۰) الدففات باحوال الحیوان والنبات (۱۲۱) نکت الجناس البداییہ (۱۲۲) نزہۃ الاریب
 (۱۲۳) (نیسم احر) (۱۲۴) (روح الارواح) (۱۲۵) مشتبی منتخبی (۱۲۶) تبصرۃ المبتدی (تبصرۃ)
 (۱۲۷) الیاقوتة (فی الوعظ کشف الظنون میں اس کا نام "یاقوتة الموعظ
 والموعظة" درج ہے) (۱۲۸) تختۃ الوعظ (ونزہۃ الملاحظ)۔

مختلف فنون میں چند تصنیفات

(۱۲۹) ذم البوی (عشقِ مجازی کی تباہ کاریاں اسی کتاب کا ترجمہ ہے)
 (۱۳۰) صید الخاطر (اس کا ترجمہ بھی ہمارے کتب خانہ کے اہتمام سے طبع ہو گیا ہے)
 (۱۳۱) احکام الاشعار باحکام الاشعار (۱۳۲) القصاص والمد کرین (۱۳۳) تقویم
 اللسان (فی سیاق درة الغواص) (۱۳۴) الاذکیاء (۱۳۵) (اخبار) الحجۃ والمعفلین
 (۱۳۶) تلپیس البلیس (۱۳۷) لقط المนาفع فی الطب (منافع الطب) دو جلد (۱۳۸) مختار
 المنافع (یہ لقط المنافع کا مختصر ہے) (۱۳۹) حسن الخطاب فی الشیب والشہاب
 (۱۴۰) اعمار الاعیان (فی التاریخ والترجم) (۱۴۱) الثبات عند الهمات (۱۴۲) تنور
 الغیث فی فضل السوادن والحبش (تنور الغیث فی احوال الاعیان من الحبش)
 (۱۴۳) الحث علی حفظ (طلب) العلم وذکر کبار الحفاظ (۱۴۴) اسراف الموالی (اشراف
 الموالی) (۱۴۵) اعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء (للغرالی) (۱۴۶) تحریم المکروه
 (۱۴۷) المصباح الحمیضی لدعوة الامام الحمیضی (۱۴۸) عطف العلماء علی الامراء والامراء علی
 العلماء (۱۴۹) النصر علی المصر (۱۵۰) الحمید العهدی (۱۵۱) الفجر النوری (الفخر النوری)
 (۱۵۲) مناقب الستر الرفیع (۱۵۳) ماقلت من الاشعار (۱۵۴) المقامات (الجوزیہ فی
 المعافی الوعظیہ وشرح الكلمات اللغویہ) (۱۵۵) من رسائلی (۱۵۶) (عجائب النساء یا
 اخبار النساء) (۱۵۷) الطب الروحانی (۱۵۸) (عجائب البدائع) (۱۵۹) (منتی
 المشتغی) (۱۶۰) (المثور فی المواقع) (۱۶۱) المرتع (۱۶۲) مولد النبی (۱۶۳) تنبیہ
 النائم لغفر علی (حفظ) مواسم العمر۔

یہ ان کتابوں کی فہرست تھی جنہیں ابن القطبی نے خود ان کے خط سے نقل کیا ہے اور
 ان کو سنایا ہے ہمارا خیال ہے کہ ابن القطبی نے اس میں کچھا بھی طرف سے اضافہ کیا ہے۔
 آپ کی اس فہرست کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ وہ آپ کی بعد کی تصانیف ہیں۔ ان میں بعض کے نام یہ ہیں:

(۱۶۴) بیان الخطأ والصواب من احادیث الشہاب (۱۶۵) البازی الاشہب
 لمحقق علی مخالفی المذهب (۱۶۶) الوفاء فی فضائل المصطفی علیہ السلام (۱۶۷) النور فی

فضائل الایام والشهر (۱۲۸) تقریب الطریق الابعد فی فضل مغفرة احمد بن علی اللہ (۱۶۹) مناقب الامام الشافعی (۱۷۰) العزلة (۱۷۱) الریاضۃ (۱۷۲) فنون الالباب (۱۷۳) مناقب (الصدیق الی بکر) (۱۷۴) مناقب علی (۱۷۵) فضائل العرب (۱۷۶) درة الکلیل (فی التاریخ) (۱۷۷) الامثال (۱۷۸) المخفع فی المذاہب الاربعه (۱۷۹) المختار من الاشعار (۱۸۰) روؤس القواریر (فی الخطب والمحاضرات والوعظ والتدکیر (۱۸۱) المرحل فی الوعظ (۱۸۲) کبیر نیم الریاض (۱۸۳) ذخیرۃ الوعظ (۱۸۴) الزجر الخوف (۱۸۵) الانس والمحبہ (۱۸۶) المطر بلمذنب (۱۸۷) الزند الوری فی الوعظ الناصری (۱۸۸) الفاخر فی ایام الامام الناصر (۱۸۹) الحمد الصلاحی (۱۹۰) لغۃ الفقه (۱۹۱) عقد الخناصر فی ذم الخليفة الناصر (یہ بھی آپ کی طرف منسوب) ہے (۱۹۲) غریب الحدیث (۱۹۳) بلح الاحادیث (لح الموعظ) (۱۹۴) فصول (المائی) الوعظیۃ (حروف کی ترتیب پر ہے) (۱۹۵) سلوٹ الاحزان (سلوٹ الاخوان بما ورد عن ذوی العرفان) (۱۹۶) الشوق فی الوعظ (۱۹۷) المجالس الیوسفیہ فی الوعظ یہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے یوسف کے لئے لکھی تھی (۱۹۸) المقربی (۱۹۹) قیام المیل (۲۰۰) الحادیث (۲۰۱) المناجات (۲۰۲) جواہر الزواہر فی الوعظ (زاہر الجواہر) (۲۰۳) النجاة بالخواتیم (۲۰۴) الرقی لمن آتی (۲۰۵) اخبار الظراف والمستاجنین۔

کہا جاتا ہے کہ (۲۰۶) صحاح الجوہری پر آپ کا حاشیہ ہے۔ اور آپ نے اس پر بعض مقامات میں گرفت بھی کی ہے۔ (۲۰۷) نیز آپ نے تین سو جلدیں پر مشتمل کتاب الفنون لابن عقیل کو کچھ اور پر دس جلدیں میں مختصر کیا ہے۔

اسا عیل پاشا البغدادی نے اپنی تالیف ہدیۃ العارفین میں ابن الجوزی کے تذکرہ میں ان کی تصانیف میں ان کتابوں کو بھی درج کیا ہے:

(۲۰۸) آقوٰ اصحاب الحدیث والرد علی عبدالمغیث (۲۰۹) اخبار الاخبار (۲۱۰) اخبار البرامکۃ (۲۱۱) اسباب النزول (۲۱۲) انس الفرید وبغیۃ المرید (۲۱۳) بستان الصادقین (۲۱۴) بستان الوعظین وریاض الساعین (۲۱۵) البلغۃ فی الفرع

(۲۱۶) تذكرة الخواص (۲۱۷) تقریر القواعد و تحریر الفوائد (۲۱۸) الاجمال فی اماء الرجال (۲۱۹) الجلیس الصالح والابنیس الناصح (۲۲۰) حسن السلوك فی مواعظ الملوك (۲۲۱) الدرالشیمین من خصائص النبی الامین (۲۲۲) الدرالفاائق بالمحاسن والاحادیث الرقاائق (۲۲۳) دررالاثر (۲۲۴) الدلائل فی منشور المسائل (۲۲۵) دریاق الذنوب فی الموعظة (۲۲۶) دواء ذوى الغفلات (۲۲۷) الذیل علی طبقات الحنابله (۲۲۸) روضۃ المجالس وزہبۃ المستانس (۲۲۹) روضۃ المریدین (۲۳۰) الزہر الانسق (۲۳۱) سیرۃ المستغفی (۲۳۲) شرف المصطفی ﷺ (۲۳۳) شم الرياض (۲۳۴) عجب الخطب (۲۳۵) عقائد المرافق (۲۳۶) فضائل المدينة (۲۳۷) قصيدة فی الاعقاد (۲۳۸) كتاب البر والصلة (۲۳۹) كتاب الفروض (۲۴۰) كتاب متعلقات (۲۴۱) كتاب الملقط (۲۴۲) کماۃ الذہر و فریدۃ الدھر (۲۴۳) کنز الملوك فی كيفية السلوك (۲۴۴) اللائی فی خطب الموعظ (۲۴۵) لباب فی فضائل الانبیاء (۲۴۶) لفتة الکبد الی نصیحة الولد (۲۴۷) لقط فی حکایات الصالحین (۲۴۸) ما یکن فیه العامة (۲۴۹) مشیر الغرام ساکنی الشام (۲۵۰) المقترح الشامل (۲۵۱) المقتضب فی الخطب (۲۵۲) مناقب الحسین (۲۵۳) منتخب الزیرین من روس القواریر فی الموعظ التذکیر (۲۵۴) منشور العقود فی تحریر الحدود (۲۵۵) منظومة فی الحدیث (۲۵۶) منعش مختصر المذاہش (۲۵۷) منہاجۃ النظر و جنة الفطر (۲۵۸) المورد العذب فی الموعظ والخطب (۲۵۹) نرجس القلوب والدلال علی طریق الحکوب (۲۶۰) انطعک المفہوم (۲۶۱) نظم الجمان (۲۶۲) فتح الطیب (۲۶۳) حادی الارواح الی بلا دالا فراج۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کس عالم نے ایسی تصنیفات کیں جیسی آپ نے کیں۔

تلامذہ

آپ کے تلامذہ میں آپ کے صاحبزادے محی الدین اور پوتے شمس الدین یوسف بن فرغی واعظ اور حافظ عبد الغنی، ابن الدینی، ابن البخاری، ابن خلیل، اتنی الیلدانی، ابن

عبد الدائم اور الجیب عبداللطیف، قابل ذکر ہیں۔

وفات

آپ کے پوتے ابو المظفر شمس الدین یوسف کہتے ہیں کہ میرے داداے رمضان ۱۹۵ھ کو ہفتہ کے روز سلطان کی والدہ کی قبر کے نیچے جو معروف کرنی کے متصل ہے وعظ کے لئے بیٹھے تھے میں وہیں موجود تھا۔ آپ نے چند اشعار پڑھے جن پر مجلس ختم ہو گئی۔ پھر آپ منبر سے اترے اور پانچ روز تک بیمار رہے۔ بالآخر ۱۲ رمضان کو جمعرات کے روز مغرب و عشاء کے درمیان اپنے گھر میں وفات پائی۔ والدہ کہتی تھیں کہ میں نے ان کو مرنے سے پہلے سنا کہ بار بار کہہ رہے تھے۔ میں کیا کتابوں پر عمل کروں گا، کتابیں تو میرے لئے ختم ہو گئیں۔ آپ کے غسل کے لئے ہمارے شیخ ناصر الدین بن سکینہ اور رضیاء الدین بن خبیر صبح کے وقت تشریف لائے اور بغداد کے لوگ جمع ہوئے، دکانیں بند ہو گئیں۔ اور ہم نے جنازے کو رسیوں سے باندھ کر ان کے سپرد کر دیا۔ جنازہ اسی قبر کے نیچے لے جایا گیا جہاں آپ آخری مرتبہ وعظ کے لئے بیٹھے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کی نماز، آپ کے صاحبزادے ابوالقاسم علی نے پڑھائی، کیوں کہ مشاہیر ان تک چشم سکے۔ پھر جنازے کو جامع مسجد منصور لے جایا گیا۔ اور لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ لوگوں کا سخت اثر دحام تھا گویا میلے کا دن معلوم ہوتا تھا۔ مقبرہ باب حرب میں امام احمد بن حبل کی قبر کے پاس جنازہ نماز جمعہ کے وقت تک نہ پہنچ سکا۔ گرمی کا موسم تھا بہت سے لوگوں نے شدت کی تاب ن لا کر روزے توڑ دیئے اور خندق ظاہریہ میں پانی میں جا گرے تمام لوگوں کو آپ کی مفارقت کا سخت صدمہ تھا، بہت روئے اور آپ کی قبر کے پاس تمام رمضان قرآن خوانی کرتے رہے۔

آپ کے حالات زندگی پندرہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ "طبقات ابن رجب" میں مذکور ہیں۔ جن میں بڑے بڑے علمی معرفوں کا بھی بیان ہے۔
 (ما خوذ از مقدمہ مترجم تلہیس ابیس از علامہ عبد الحق عظیم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳۵ تا ۱۴۵)



الحمد لله حمد الشاكرين وصلواته على
سيد المرسلين محمد النبي الامن واله
الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً

ایک شخص نے جو کسی آزمائش اور عشق شہوانی میں بتلا تھا اس نے مجھ سے
اپنی حالت کا شکوہ کیا اور اپنی بیماری کے علاج کی تفصیل میں مبالغہ کا تقاضا
کیا۔ اس کی وجہ سے مجھے اس کتاب کو جمع کرنے کی ہمت بڑھی۔ میں نے
اس کو اس کتاب کا محبت بھرا ہدیہ بننا کر پیش کیا۔

میں نے اس کی ترتیب و تالیف میں بہت محنت کی جبکہ توفیق اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہے اور وہی مشکلات کا حال کرنے والا ہے۔

اے بھائی! جان لو! اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی رضا کے اعمال نصیب
فرمائے اور ہمیں اور تمہیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، جس مرض کا تم نے
مجھ سے شکوہ کیا ہے اس سے شفاء کی امید باقی ہے تم دوا کے استعمال میں
سبقت کرو اور پرہیز میں مبالغہ کرو شفاء ہوگی۔

اگر تو عشق میں جوں کا توں بتلا رہے گا اور اپنی بیماری کے علاج میں صبر
سے کام نہ لے گا تو مجھے بھی کتاب کی تصنیف میں تھکا دے گا اور خود بھی
مشکلات میں گرفتار ہو گا۔

میں تیری خاطر اس کتاب کی تصنیف میں مصروف ہوا ہوں اور اس کی

تفصیلات کے بیان میں اس مرض سے نجات پر شوق دلانا چاہتا ہوں تاکہ تجھے سلامتی اور عافیت نصیب ہو، بعض مقامات میں میں نے نفس کی خواہش کے مطابق کچھ تفصیل کر دی ہے کیونکہ تیرے جیسا یہاں واقعات و حکایات میں بہت دلچسپی لیتا ہے تاکہ تمہیں اس کا علم ہو کہ مرض میں کیسی کیسی خطرناک بلاں میں ہیں۔

یہ کتاب تیرے لئے ایک یادگار ہو گی جن امور کا میں تجھے اس کتاب میں امر کروں گا ان پر عمل کرنا تیری ذمہ داری ہو گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والے ہیں، وہ اسی کی حفاظت کرتے ہیں جس پر حرم فرماتے ہیں۔ اس کتاب کے پچاس ابواب ہیں (جن کے عنوانات فہرست عنوانات میں ملاحظہ فرمائیں)۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی

آلہ وسلم تسليما



باب 1

عقل کی حقیقت اور فضیلت

عقل کیا ہے

حضرات اہل علم نے عقل کی حقیقت میں بہت اختلاف کیا ہے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ

”یہ علوم ضروریہ کی ایک قسم ہے“

ایک جماعت کہتی ہے کہ

”یہ ایک فطرت ہے جس کے ساتھ علوم کا ادراک و شعور حاصل

ہوتا ہے۔“

ایک جماعت کہتی ہے

”یہ ایک قوت ہے جس کے ذریعے معلومات کے حقائق کی

تفصیل معلوم ہوتی ہے۔“

ایک جماعت کہتی ہے کہ

”یہ جو ہر بیط ہے۔“

ایک جماعت کہتی ہے کہ

”یہ شفاف جسم ہے۔“

حارت محاسی کہتے ہیں:

”یہ ایک قسم کا نور ہے۔“

ہمارے حضرات میں سے ابو الحسن تمہیٰ بھی یہی فرماتے ہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ

”عقل ایک فطری چیز ہے۔“

علامہ مجاہی سے بھی اس طرح کی ایک روایت منقول ہے۔

اس کے متعلق تحقیقی بات یہ ہے کہ ”عقل ایک فطری چیز ہے گویا کہ یہ ایک نور ہے جو دل میں اتارا جاتا ہے اور وہ اشیاء کے شعور میں چوکس ہو جاتا ہے اس سے یہ ممکنات کا جواز اور محالات کا محال ہونا اور انجام کار کے اشارات کو پالیتا ہے۔

یہ نور کم بھی ہوتا ہے زائد بھی، جب یہ قوی ہو تو انجام کی فکر کئے بغیر اپنی خواہشات کی تجھیل میں جلدی کرتا ہے۔

محل عقل

ہمارے اکثر حضرات (حنابلہ) فرماتے ہیں اس کی جگہ دل ہے، حضرت امام شافعیؓ سے بھی یہی مردی ہے، ان حضرات کی دلیل یہ فرمان خداوندی ہے:

فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

(ترجمہ) ان کے دل ہوتے تو ان کے ساتھ بحثتے۔

(سورۃ الحج آیت ۳۶)

اور ارشاد ہے:

إِنَّ رِفِيْ ذِلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

(ترجمہ) اس میں اس کیلئے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے۔

(ق ۳۷)

یہ حضرات فرماتے ہیں ان آیات میں دل کو عقل کی جگہ تعبیر کیا گیا ہے اس لئے یہ دل عقل کا محل ہے۔

احناف کا نہ ہب

فضل بن زیاد نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے۔ امام ابو حنفہ کے اصحاب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے (امام رازی نے تفسیر بکیر میں دل کو عقل کا محل بھہرا یا ہے)۔

فضیلت عقل

(حدیث) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لقد سبق الی جنات عدن اقوام، ما کانوا باکثر الناس صلاة وصياما ولا حجا ولا اعتمارا ولكنهم عقلوا عن الله وجل مواعظه فوجلت منهم قلوبهم واطمانت اليه النفوس وخشعتم منهم الجوارح، ففاقوا الخلائق بطيب المنزلة وحسن الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة。(۱)

(ترجمہ) جنات عدن کی طرف بہت سے لوگ سبقت لے جائیں گے حالانکہ وہ دوسرے حضرات سے نماز روزہ، حج اور عمرہ کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعظ و نصیحت کو سمجھا اور اس سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اسی کی طرف نفوس کو اطمینان اور ان مواعظ سے ان کے اعضاء نے عاجزی کا اظہار کیا۔ اسی وجہ سے وہ شاندار منزل اور

(۱) حدیث ضعیف، فيه: - الباعندي، وهو ضعیف من جهة حفظه۔ - أحمد بن المُفضل الحَفْرِي، أبو علي الكوفي: صدوق في حفظه شيء۔ التقریب ص ۸۴۔ حبیب بن ابی ثابت الأَسْدِي الكوفي: ثقة فقيه، لكنه كثير الإرسال والتداليس، التقریب ص ۱۵۰۔

بہترین درجہ میں لوگوں کے نزدیک فائز ہوئے اور اللہ کے نزدیک آخرت میں فائز ہوئے۔

(فائدہ) عقل کی فضیلت میں آنحضرت ﷺ سے بہت کچھ منقول ہے مگر سب ثبوت سے بعید ہے۔ (ابن جوزیٰ)

عقل سب سے خوبصورت ہے

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ

”جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے فرمایا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی پھر فرمایا آگے ہو جا، تو آگے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے غلبہ کی قسم میں نے تمھے سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ تیری وجہ سے عطا کروں گا، تیری وجہ سے کبڑوں گا اور تیری وجہ سے عذاب دوں گا۔“ (۲)

(۲) اثر موقوف موضوع، لأجل الهيثم بن عدي الطائي: قال عنه البخاري: ليس بشقة كان يكذب۔ وكذبه أيضاً ابن معين وأبو داود وغيرهم۔ انظر ميزان الاعتدال ۴/۳۲۵-۳۲۶۔ وقد ورد هذا الأثر عن كثيرون من مولى ابن عباس، وفي آخره: وعزّتني وجلالي لا أجعلك إلا فيمن أحب، وما خلقت شيئاً هو أحب إلي منك۔ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله (۱۶) ص ۴۰۔ وفي إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق تغیر حفظه لما قدم بغداد، والراوي عنه: محمد بن بكار من أهل بغداد، فالأثر ضعيف۔ والله أعلم۔ * وورد مرفوعاً عن النبي ﷺ من طريق عدد من الصحابة، منهم: أبو هريرة رضي الله عنه: رواه عنه ابن عدي في الكامل، وابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله (۱۵)، والطبراني في الأوسط ۳۱۵، وفي إسناده: الفضل بن عيسى، قال فيه يحيى بن معين: رجل سوء۔ وفيه أيضاً: حفص بن عمر قاضي حلب، قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به بالإجماع۔

عقل پوری ہونے کا زمانہ

حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ بچہ سات سال میں دانت توڑتا ہے، چودہ سال میں بالغ ہوتا ہے، قد اکیس سال تک بڑھتا ہے، عقل انھائیں سال میں کامل ہوتی ہے اس کے بعد تجربات ہوتے ہیں۔ (عقل نہیں بڑھتی) (۳)

حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا

بعض علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر نازل کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس تین چیزیں لے کر نازل ہوئے (۱) دین (۲) عقل (۳) حسن اخلاق، اور عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ان تین میں سے کسی ایک

= ورواه الدارقطنی من وجوه آخر عنده ، وفي إسناده: سيف بن محمد؟ وهو كذاب . والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أخرى، وقال: هذا إسناد غير قوي . - أبو أمامة: رواه العقيلي ، وفي إسناده مجهولان . - عائشة: رواه أبو نعيم ، وقال: لا أعلم له راوياً عن الحميدى إلا سهلاً، وأراه واهماً فيه . - الحسن البصري مرسلاً: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد ، وفيه: سيار بن حاتم ، قال العقيلي: أحاديثه منا كثيرة . * وبالجملة فقد قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ . وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات بعد ذكر طرق الحديث المذكورة: "وله طرق أخرى لم تصح" . - وقال البيهقي عن الحديث: وهو مشهور من قول الحسن البصري . (قال محقق الفوائد المجموعة: بأسانيد واهية) . انظر: الموضوعات لابن الجوزي ۱۷۴/۱، والمواضيع للصفاني ص ۳۵، والتذكرة للفتنى ص ۲۸، والمنار المنير لابن القبيم ص ۶۶، واللآلئ المصنوعة ۱۲۹/۱، والفوائد المجموعة ص ۴۷۷-۴۷۸، وكشف الخفاء للعلوني ۳۱۰-۳۰۹/۱، ومجمع الزوائد للهيثمي ۲۸/۸ .

(۳) أثر موضوع، لأجل الهيثم بن عدي، كان يكذب، كما تقدم قريراً .

کے لینے کا اختیار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبریل! ان میں خوبی تو میں تب دیکھتا جب یہ جنت میں ہوتیں پھر انہوں نے عقل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے ساتھ چمٹالیا اور باقی دو کو فرمایا تم اوپر (آسمان کی طرف) چلی جاؤ، انہوں نے عرض کیا ہم نہیں جائیں گے، آپ نے فرمایا کیا تم میری نافرمانی کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتیں بلکہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جہاں عقل ہو ہم بھی اسکے ساتھ رہیں۔ اس طرح سے یہ تینوں چیزیں حضرت آدم کو حاصل ہوئیں۔ (۳)

عقل اور جاہل شیطان کے نزدیک

حضرت وہب بن منبهؓ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو ایک ایک چٹان کر کے یا ایک ایک پھر کر کے ہٹانا شیطان پر آسان ہے عقل مند مومن کو گراہ کرنے سے، جب شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا تو جاہل کی طرف پلٹ جاتا ہے اور اس کو قابو کر کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو کوڑوں یا طوق یا منہ کالا کرانے یا ہاتھ کٹانے یا سنگار ہونے یا پھانسی چڑھنے میں ہلاک کر دیتا ہے۔ دو انسان نیک اعمال کرنے میں تو برابر ہوتے ہیں مگر ان کے درمیان مشرق و مغرب یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے زیادہ عقل مند ہو۔ سمجھ اور عقل کے ساتھ جتنا عبادت ہو سکتی ہے اللہ کی اس سے بہتر عبادت نہیں ہو سکتی۔

بے عقل کے لئے موت بہتر ہے

امام ابن مبارکؓ سے سوال کیا گیا کہ انسان کو سب سے بہتر کوئی نعمت عطا فرمائی گئی ہے۔

(۴) رواہ ابن أبي الدنيا فی کتاب العقل وفضله (۲۷-۲۸)، وابن حبان فی روضة العقول، ص ۲۰ نحوه، من طریق رجل مُبْهَم لم یُذَکَّر اسمه، بالإضافة إلى وجود عدد من الرواۃ الذين لم أقف على ترجمة لهم۔ فالتأثر ضعيف۔

آپ نے فرمایا: ”فطرتی عقل“
 عرض کیا گیا اگر یہ نہ ہو تو؟ حسن ادب
 عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو؟ فرمایا:
 ”کوئی نیک دوست ہو جس سے یہ مشورہ حاصل کرتا رہے۔“
 عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ فرمایا:
 ”طویل خاموشی اختیار کر لے۔“
 عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا:
 اس وقت اس کو موت آ جانا چاہئے

پاؤں کا پرده اور عقل

حکیم حسن کہتے ہیں مجھے شاہی محل میں بلا یا گیا جب میں کمرہ میں داخل ہوا تو پرده لٹک رہا تھا اور اس کے پیچھے سے ایک پاؤں ظاہر ہوا جس پر نعمت کے آثار نمایاں تھے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ پاؤں واپس ہو گیا میں نے کہا اس پاؤں والے کے لئے ضرورت ہے کہ دو طاقتو ر آدمی اس کو قابو میں رکھیں تا کہ یہ باہر نہ آئے اور اپنی جگہ پر ہی رہے۔ تو میں نے پرده کے پیچھے یہ آواز سنی، تم اپنے پیشہ طب کی طرف دھیان رکھو کیونکہ عقل ہی غلط کاموں سے باز رکھنے والی ہے۔

اشتیار اسماء النبی الکریم ﷺ صفحات 336

قرآن اور احادیث میں موجود اور ان سے ماخوذ حضور ﷺ کے ایک ہزار اسماء گرامی پر محیط ایک جامع کتاب، اسماء نبویہ مع اردو ترجمہ و تشریح، اور فضائل و برکات اسماء نبویہ اور فضائل ”اسم محمد“ تالیف از مفتی امداد اللہ انور۔

باب ②

نمذمت خواہشات نفسانی

خواہش مطلق (انسان کو) وقتی لذت پر ابھارتی ہے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی اور شہوات کو بروقت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتی ہے چاہے اس کو بروقت تکلیف اور اذیت بھی سنبھی پڑے اور بعد میں وہ لذت باقی نہ رہے۔

عقلمند خود کو ایسی لذت سے باز رکھتا ہے جس کے انجام میں عذاب ہو اور ایسی خواہش سے بھی دور رکھتا ہے جو شرمندگی کو جنم دے، بس اتنی سی بات بھی عقل کی تعریف اور خواہش و عشق کی نمذمت میں کافی ہے۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچہ اپنی ضد پر ڈنارہتا ہے چاہے اس کا انجام تباہی ہو اور عقلمند خود کو ایسی خواہش سے باز رکھتا ہے۔

جانوروں پر انسان کی فضیلت کیلئے اتنی سی بات کافی ہے کہ جانور اپنی طبیعت کے تقاضا کو پورا کرتے ہیں ان کو انجام کی فکر نہیں ہوتی، جب ان کو عذاب جائے کھائیتے ہیں جب گوبرا اور پیشتاب آئے کر دیتے ہیں لیکن آدمی طبیعت پر عقل کے غلبہ کی وجہ سے ایسی حرکات نہیں کرتا۔

عشق و شہوت کا علاج

جب دانا آدمی کو اس کا علم ہے کہ خواہش نفسانی عمومی طور پر پیش آتی رہتی ہے اس لئے اس کو ایسے وقت میں لازم ہے کہ وہ ایسے موقع پر عقل کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرے وہ اس کو دامنی فوائد کے حصول کا مشورہ دے گی اور خواہشات نفس سے احتیاط کا حکم کرے گی اس طرح سے اس کو شر سے بچنا یقینی ہو سکے گا۔

چھٹی نہیں یہ کافر منہ کو لگی ہوئی

عقلمند جانتا ہے کہ خواہشات کا خوگرا ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس عادت میں اس کو بڑی لذت حاصل نہیں ہوتی اور وہ اس کو چھوڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کیونکہ اس کی عادت اضطراری عیش میں بدل جاتی ہے تم نے دیکھا ہو گا شراب کاریا اور جماع کا عادی غیر عادی کے مقابلہ میں دسوال حصہ بھی لذت نہیں پاتا بس اس کو عادت نے مجبور کیا ہوتا ہے وہ خود کو عادت کے کاموں میں پھسا کر ہلاکت میں ڈالتا رہتا ہے، اگر اس کی آنکھوں کے سامنے سے نفسانیت کی پٹی کھل جائے تو اس کو اندازہ ہو کہ وہ اپنی سعادت کو کس طرح بد بخختی میں پھسارتا ہے۔

خواہشات نفس کا علاج

(۱) انسان یہ فکر کرے کہ وہ من پسند خواہشات کی تیکمیل کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ انجام کار پر نظر اور آخرت کے لئے عمل صالح کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اس کی وضاحت یہ بات کرتی ہے کہ چوپا یہ جس طرح بے فکری سے کھانے پینے اور جماع کی لذت میں منہماں ہوتا ہے انسان کو ایسا عیش میسر نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ساتھ چوپائے کو قربان گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے جب کہ وہ خواہشات کی تیکمیل میں لگا ہوتا ہے کیونکہ اس کو انجام کا علم نہیں ہوتا۔ مگر قوت فکر کے استعمال کی وجہ سے آدمی کا انجام اس طرح سے نہیں ہوتا۔

(۲) انسان عشق و شہوت کے انجام میں فکر کرے اس کی وجہ سے وہ کتنے فضائل سے محروم ہوا اور کتنی گندگیوں میں الجھ گیا؛ کتنے کھانے والے ہیں جو مرض میں بنتا ہوئے، کتنی کوتاہیاں ہیں جنہوں نے عزت گھٹائی اور گناہ کے ساتھ ذکر بد کو لازم کر دیا۔

(۳) انسان خواہش نفس کی مخالفت کا فائدہ سوچے کہ دنیا میں نیک نامی حاصل

ہوگی، عزت نفس کی حفاظت ہوگی، آخرت میں اجر و ثواب ہوگا۔
پھر اس کے الٹ کا سوچے کہ اگر اس نے خواہش نفس سے اتفاق کیا تو دامنی
رسوائی اور عذاب میں پہنچے گا۔ ان دونوں حالتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور
حضرت یوسف علیہ السلام کی حالتوں کو سامنے رکھئے کہ ایک نے لذت کی طرف توجہ
کی اور دوسرے نے گناہ سے رک کر صبر کیا۔

اے نصیحت پسند دوست! ان کلمات کو اپنے دل میں جگہ دے اور سوچ۔

حضرت آدم علیہ السلام کی لذت جس کو انہوں نے پورا کیا
حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمت پر جب وہ باز رہے۔ جب
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لذت کو چھوڑا تو اس گھری
کے مجاہدہ سے انہوں نے کتنا بڑا مرتبہ پایا اس کو تو تم خوب
جانتے ہو۔

اتباع خواہشات کی نہ ملت قرآن میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَاتَّبَعَ هَوْهُهُ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ الْكَلِبِ
(ترجمہ) جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال
کتے کی مثال کی طرح ہے۔ (سورۃ اعراف: ۲۶)

مزید ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
(ترجمہ) اور خواہش کی پیروی مت کر ورنہ یہ تجھے اللہ کے
راستہ سے بھٹکا دے گی۔ (سورۃ ص: ۲۶)

ارشاد خداوندی ہے:

أَفَرَءَيْتَ مِنِ اتَّخَذَ إِلَهَةً هَوْنَهُ
 (ترجمہ) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی
 خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے۔ (الباجیہ: ۲۳)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس شخص سے مراد منافق ہے جو جس شے کی خواہش کرتا ہے اسی کو حاصل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ (۵)

مومن کامل کی نشانی

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص[ؓ] سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يوْمَنْ أَحَدَكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَنَّتْ
 بِهِ۔ (۶)

(ترجمہ) تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام

(۵) قال السيوطي في الدر المنشور ۱۳۲/۵ عن الحسن، (أرأيت من اتخذ إلهه هواه) قال: لا يهوى شيئاً إلا أتبעהه۔ وورد نحو هذا المعنى عن ابن عباس۔ إذ قال: "هو الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان"۔ انظر الدر المنشور ۷۵۸/۵، وفتح القدير للشوكياني ۸۱۵۔

(۶) حدیث ضعیف۔ رواه الأصبہانی فی الترغیب، بلطف: لَنْ یستکمل مؤمن إیمانه حتی یکون هواه تبعاً لمالما جنت به۔ كما ذکر السیوطی فی الدر المنشور ۳۰۰/۲۔ قلت: فی إسناده نعیم بن حماد، هو ابن معاویة الخزاعی: صدوق یخطئ کثیراً، فقيه عارف بالفرائض، كما ذکر الحافظ فی التقریب (۷۱۶۶)۔

کے تابع نہ کر دے۔

حضرت کا خوف

حضرت ابو بردہ اسلمیؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اخوف ما اخاف عليکم شهوات الغی فی بطونکم
و فروجکم و مضلات الهوى. (۷)

(ترجمہ) سب سے بڑے خطرہ کی چیز جس کے باوجود میں
میں تمہارے لئے ڈر رہا ہوں تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی گمراہ
خواہشات ہیں اور اتباع نفس کی گمراہیاں ہیں۔

زمین کا بڑا خدا

(حدیث) حضرت ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

ما تحت ظل السماء الله يعبد اعظم عند الله من هوی
متبع. (۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۷) حدیث صحیح۔ رواہ أحمد فی المسند (۱۹۲۷۳-۱۹۲۸۹) بلفظ : إنَّ
مَا أَخْشِي عَلَيْكُم مَّشْهُوَاتِ الْغَيِّ ... الْحَدِيثُ . وَعَزَّاهُ الْهَبِيشِي فِي مُجْمَعِ
الزَّوَائِدِ ۱۸۸/۱ لِلْبَزَارِ فِي مُسْنَدِهِ وَالْطَّبَرَانِي فِي مَعَاجِمِ الْثَّلَاثَةِ، ثُمَّ قَالَ :
وَرَجَالَهُ رَجَالٌ الصَّحِيحُ "۔

(۸) حدیث موضوع ذکرہ الہبیشی فی مجمیع الزوائد ۱۸۸/۱ و عزَّاهُ
للطبرانی فی معجمہ الکبیر، ثُمَّ قَالَ : " وَفِيهِ الْحَسْنُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ =

ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوی متبع، واعجاب المرء بنفسه. (۹)

(ترجمہ) تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں (۱) پیروی کیا جانے والا بخل (۲) پوری کی جانے والی خواہش (۳) اور آدمی کی خود پسندی۔

پہلی حکایت:

ہوا میں عبادت کرنے والے

خلیل بن خدویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عابد کے پاس سے گزرے جو ہوا میں عبادت کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ عرض کیا:

= الحدیث۔ قلت: بل كذبه الإمام أحمد وغيره واتهمه بعضهم، وقد تقدمت۔

(۹) حدیث ضعیف۔ وهو جزء من حدیث تمامه: "ثلاث منحيات: خشبة الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى۔ وثلاث مهلكات: هوی متبع، وشح مطاع، واعجاب المرء بنفسه"۔ وإسناد المصنف ضعیف منکر، فيه: ۱ - أیوب بن عتبة الیمامی: ضعیف، التقریب (۶۱۹)، ۲ - الفضل بن بکر البعدی، قال في العیزان ۳۴۹/۳: "لَا يُعْرِفُ، وَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ" ثم ذكر الحديث بتمامه۔ والحدیث ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر ۳۰۶/۳ وعزاه لأبی الشیخ فی التوبیخ، وللطبرانی فی الأوسط۔ وللطبرانی - أيضاً - عزاه الہیشمی فی مجمع الزوائد ۹۱/۱، ثم قال: "وفیه زائدة بن أبی الرقاد وزیاد النعیری ملوكاً ملکاً مختلفاً فی الاحتجاج به"۔ وللحديث لفظ آخر عن أنس رضی اللہ عنہ، حیثے قال: قال رسول اللہ ﷺ: "ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منحيات، وثلاث مهلكات" فاما الكفارات: فلأسباع =

اس معمولی وجہ سے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا، لیعنی گفتگو سے پرہیز کیا، جس کا مجھے حکم دیا گیا میں نے اس میں غور کر کے اتباع کی اور جس سے مجھے منع کیا گیا میں ان میں غور کر کے رک گیا۔

(اس لئے) اب یہ حالت ہے کہ جب میں اس سے التجاء کرتا ہوں وہ عطا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہوں قبول کرتا ہے، جب اس کے متعلق قسم کھاتا ہوں تو وہ (مجھے) قسم سے بربی کرتا ہے۔ میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ مجھے ہوا میں ٹھہرا دے تو

=الوضوء في السيرات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات۔ وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاه بالليل والناس نائم۔ وأما المنحيات: فالعدل في الغضب والرضاه والقصد في الفقر والغنى، وخشبة الله في السر والعلانية۔ وأما المهلكات: فشخ مطاع، وهو متبوع، وإعجاب المرأة بنفسه " ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩١١ وعزاه للبزار، وذكر ما ذكره آنفًا من أن فيه: رائدة بن أبي الرقاد وزياد التميمي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به۔ قلت: فالحديث ضعيف من هذه الطريق، وقد قال المناوي في فيض القدير (٣٠٧/٣): " قال الحافظ العراقي: سند ضعيف " لكن الحديث ورد من طريق أخرى: ۱ - فقد ورد من حديث ابن عمر نحو رواية البزار، رواه الطبراني في المعجم الأوسط، كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير ٣٠٨/٣ ورث لضعفه، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩١١، وقال: " وفيه ابن لهيعة ومن لا يُعرف "۔ وقال المناوي في فيض القدير ٣٠٨/١: " قال العراقي: سند ضعيف، وعده في الميزان من المناكير .. ثم ذكر قول الهيثمي۔ ۲ - ومن حديث ابن عباس، بلفظ: ثلاثة مهلكات ... فقط، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩١١ وعزاه للبزار، " وفي سند [الحديث] ابن عباس: محمد بن عود الحراساني ، وهو ضعيف جداً "۔ ومحمد هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٢٠/٣): " متروك "، ۳ - ومن حديث عبد الله بن أبي اوقي، لفظ حديث ابن عباس - ذكره الهيثمي في مجمع

اس نے مجھے (اس میں) ٹھہرایا۔

دوسرا حکایت:

حضرت وہب بن منبهؓ فرماتے ہیں کہ بني اسرائیل میں دو شخص بہت عبادت گزار تھے یہاں تک کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پانی پر چل رہے تھے کہ ان کی ہوا میں چلنے والے شخص سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تم کس عمل سے اس مرتبہ کو پہنچے؟ فرمایا:

دنیا میں معمولی سا عمل کر کے (یعنی) میں نے اپنے نفس کو شہوات سے روکا، اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکا اور جس کی اللہ نے مجھے دعوت دی اس کی طرف رغبت اور شوق کیا، خاموشی کو لازم کر لیا۔

پس اب اگر میں اللہ کے سامنے (کسی کام کے کرنے کی) قسم کھابیٹوں تو وہ مجھے (جھوٹا نہ ہونے دیں) یعنی میری قسم کو پورا کر دیں اور اگر سوال کروں تو وہ عطا کر دیں۔

= الزوائد ۹۱۱ وعزاء للبزار، وقال: "وفي سند [حديث] ابن أبي أوفى: محمد بن عون المحراساني، وهو ضعيف جداً" - ٤ - من حديث أبي هريرة، وسياه كره المصنف بعد حديث . وفي إسناده: بكر بن سليم الصواف، أبو سليمان الطائي، المدني، مقبول - أي إذا توبع، وإنما فلتين الحديث -، انظر التقرير (٧٤١). وفي أيضاً من لم أجد لهم ترجمة فالحديث - ضعيف، وقد حسنَه الشيخ الألباني - حفظه الله - بمجموع طرقه السابقة، انظر السلسلة الصحيحة (١٨٠٢) وصحبي العجامع (٣٠٤٥)۔

بڑا بہادر کون؟

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پالیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اسکیلے فتح کرے۔

ہوا میں ایک اور بزرگ

حضرت حذیفہ بن قادہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا وہ کشتی نوٹ گئی میں اور ایک عورت کشتی کے ایک تنہ پر باقی رہ گئے، ہم نے سات دن اسی حالت میں گزارے۔ عورت نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا (شايد وہ سمندر کڑوا ہوگا جس میں یہ گھرے ہوئے تھے) تو (اللہ تعالیٰ نے ہم پر) ایک زنجیر کو اتارا جس سے ایک پانی کا کوزہ لٹکا ہوا تھا چنانچہ اس عورت نے پانی پی لیا، میں نے اس زنجیر کو دیکھنے کے لئے نظر کو اوپر اٹھایا تو ایک آدمی کو ہوا میں چوکڑی مارے ہوئے بیٹھے دیکھا۔

میں نے پوچھا تم کون ہو؟

اس نے کہا کہ انسان ہوں۔

میں نے کہا تم اس درجہ پر کیسے پہنچے؟

کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا اسی نے مجھے یہاں بٹھایا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔

خواہش عمل کامل پ

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح کو امتحنا ہے۔ تو اس کی خواہش اور عمل کامل پ ہوتا ہے اگر عمل خواہش کے تابع ہو جائے تو اس کا وہ دن خراب ہو گیا اور اگر خواہش عمل کے تابع ہو جائے تو اس کا وہ دن بہتر ہو گیا۔

کفر چار چیزوں میں

حجاج (بن یوسف ظالم گورنر) کہتا ہے کفر چار کاموں میں ہوتا ہے:

(۱) غصہ میں، (۲) شہوت میں، (۳) شوق میں اور (۴) خوف میں۔

پھر حجاج نے کہا ان میں سے دو تو میں نے خود دیکھی ہیں۔

ایک آدمی نے غصہ میں ماں کو قتل کر دیا، دوسرا عشق میں مبتلا ہو کر عیسائی ہو گیا۔

حقیقی جوان

حسن بن علی مطوعی کہتے ہیں کہ ہر انسان کا بت اس کی خواہش ہے اگر وہ اس کی مخالفت کر کے تو زدے تو پھر وہ جوانی کے نام کا مستحق ہے۔

عبدات کا مزہ

حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے اس وقت تک عبادت کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے اور شہوات کے درمیان لو ہے کی دیوار قائم نہیں کر لیتا۔

حضرت ابو بکر دراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلبہ نفسانیت کی بنیاد شہوات کے قریب جانا ہے جب یہ خواہش نفسانی غالب ہوتی ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہوتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ جب اخلاق بگڑتے ہیں تو مخلوق اس سے بغض شروع کر دیتی ہے۔ جب مخلوق اس سے بغض کرتی ہے تو وہ مخلوق سے بغض کرتا ہے اور جب یہ ان سے بغض کرتا ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے اور جب ان پر ظلم کرتا ہے تو یہ شیطان مردود بن جاتا ہے۔

حضرت ابو علی دقاقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے جوانی میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پالیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں فرشتہ بنادیں گے (یعنی

فرشتوں جیسی عصمت نصیب فرمائیں گے) جپسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقویٰ اختیار کیا اور (دنیاء کی لذت حاصل کرنے میں) صبر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے۔

اشتبہار

امتیوں پر عذاب الہی کے حالات و اقعات صفحات 254

ترجمہ "العقوبات لللامام ابن أبي الدنيا" دسوے زائد کتب کے مصنف اور قدیم محدث امام ابن أبي الدنيا کی نادر تصنیف، عذاب الہی کے حالات و اقعات، گناہوں کے آثار، اسباب عذاب الہی، تین سو سانچھ روایات پر مشتمل سابقہ نافرمان اقوام ساتھی کی داستان عبرت پر انوکھی کتاب۔

باب ③

مجاہدہ و محاسبہ نفس

نفس غلط خواہشات میں گھرا ہوا ہے اگر اس کو ان سے نہ روکا جائے تو یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور غلط آراء، جھوٹی طمع اور عجیب آرزوں میں گھر جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ جوانی بھی دیوانگی کا ایک حصہ ہے۔
 (حدیث) حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الکیس من دان نفسہ و عمل لما بعد الموت،
 والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنی على الله. (۱۰)

(ترجمہ) سچھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ (سے جھوٹی)

(۱۰) حدیث ضعیف۔ رواہ الترمذی (۲۴۵۹)، وابن ماجہ (۴۲۶۰)، وأحمد فی المسند (۱۶۶۷۴)، والحاکم فی المستدرک (۵۷۱)، و (۲۵۱۴) کلهم من طریق أبی بکر بن أبی مریم بھ۔ وتعقبه الذهبی فی التلخیص فقال: "لا والله" - یعنی: لیس علی شرط البخاری كما قال الحاکم -، أبی بکر رواه - و قال المُناوی فی فیض القدیر (۶۸۱۵): "قل ابن طاهر: مدار الحديث عليه" - یقصد: ابن أبی مریم - وهو ضعیف جداً" - و قال عنه الحافظ ابن حجر فی التقریب (۷۹۷۴): "ضعیف، و كان قد سرق بيته فاختلط" ، توفي سنة (۱۵۶)ھ۔

امید میں قائم کرے۔

شہوت پوری کرنا دوزخی کا کام ہے

(حدیث) حضرت ابن بکیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آنحضرت ﷺ کو سخت بھوک لگی تو اپنے پیٹ پر پتھر کھلیا اور ارشاد فرمایا:

الارب نفس طاعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيمة، الارب
مكرم لنفسه و هو لها مهين، الارب مهين لنفسه وهو لها مكرم، الا
يارب متخوض متعم فيما افاء الله على رسوله ماله عند الله من خلاق،
الا و ان عمل الجنة حزنة بربوة، الا و ان عمل النار سهلة بشهوة،
الا يارب شهوة ساعة اور ثبت حزنا طويلا.

(ترجمہ) سن لو! دنیا میں بہت سے سیر ہو کر کھانے والے قیامت کے دن بھوکے نگے ہوں گے۔ سن لو! بہت سے لوگ اپنے نفس کی قدر کرنیوالے ہیں جن کو یہ (قیامت کے دن) رسوا کرے گا۔ سن لو! بہت سے لوگ اپنے نفس کو ذلیل کرنیوالے ہیں جن کی یہ (قیامت کے دن) عزت بڑھانے والا ہے۔ سن لو! بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عطااء کردہ نعمتوں میں مشغول ہیں ان کے لئے (قیامت میں) اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سن لو! جنت کا عمل اونچے سخت پہاڑ پر چڑھنے (کی طرح مشکل) ہے، بن لو! دوزخ کا عمل ہموار زمین پر آسانی سے کوڈ جانے کی طرح ہے۔ خبردار! ایک گھری کی شہوت طویل زمانہ تک غمگین (اور عذاب میں بتلا) کر دینے والی ہے۔

اصل پہلوان

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لیس الشدید من غالب الناس ولكن الشدید من
غلب نفسه. (۱۱)

(ترجمہ) وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آجائے۔

بڑا جہاد

(حدیث) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ ایک غزوہ سے واپس ہوئے تو مجاہدین سے فرمایا:

قدمتم خیر مقدم وقدمتم من الجهد الاصغر الى الجهد الاكبر،
قالوا ما الجهد الاكبر يارسول الله؟ قال مجاهدة العبد هو اه. (۱۲)

(ترجمہ) تمہارا آنا مبارک ہے، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی

(۱۱) حدیث صحیح۔ رواہ العسكري فی الأمثال، كما ذكر السیوطی فی جمع الحوامع ۶۷۸/۱۔ قلت: والحادیث متفق علیه بلفظ : "لیس الشدید بالصُّرُعَة، إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب"۔ انظر صحیح البخاری (۶۱۴)، مسلم (۲۶۰۹)۔

(۱۲) حدیث ضعیف۔ عزاء البیوطی فی الجامع الصغیر (۱۱:۴) للخطیب البغدادی فی تاریخه، وعزاء المُناوی فی فیض القدیر (۱۱۱:۵) للدیلمی، واللبیھقی فی کتاب الرزہد قال: وهو محل لطیف۔ ثم قال: "وقال - أی: البیھقی - : إسناده ضعیف۔ وتبعه العراقی - أی على تضعیف الحدیث"۔ وضعفه الألبانی فی ضعیف الجامع (۴۰۸۰)۔

طرف آئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا جہاد کونا ہے؟ فرمایا انسان کا اپنی خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا۔

مجاہدہ نفس بڑا جہاد کیوں ہے؟

مجاہدہ نفس بڑا جہاد اس لئے ہے کہ نفس محبوب چیز ہے اور یہ جس چیز کی رغبت کرے وہ بھی محبوب ہوتی ہے اور یہ اسی کی دعوت دیتا ہے جس کی خواہش کرتا ہے اور اس طرح سے نفس کی مخالفت مکروہ کام میں بھی محبوب ہوتی ہے اور جب یہ کسی محبوب چیز کی طرف بلائے تو پھر محبوب کیوں نہ ہوگی۔

اور جب حالت اس کے مخالف ہو اور محبوب جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی مخالفت مشکل اور بڑا جہاد کیوں نہ ہوگی۔ بخلاف کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے کیونکہ طبیعتیں دشمنوں سے برسر پیکار ہونے پر تیار ہو جاتی ہیں۔

ارشادِ خداوندی ہے:

وَجَاهِهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جَهَادٍ

(ترجمہ) تم اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔
(انج: ۷۸)

اس مذکورہ ارشاد کی تفسیر میں حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جہاد سے مراد نفس اور خواہش سے مقابلہ کا جہاد ہے۔

حضرت عمرؓ کی نصیحت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو پہلے اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے اور اپنے نفسوں کا وزن کیا کرو پہلے اس کے کہ تمہارا (قیامت میں) وزن کیا جائے (اور کوئی عظمت نہ ہو) کیونکہ آج کا حساب کر

لینا آسان ہے قیامت کے دن حساب دینے سے۔ اور خوکو بڑی پیشی کے لئے سنوار لو جس دن تم پیش کئے جاؤ گے تمہاری کوئی غلطی تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ (۱۳)

مؤمن دنیا میں قیدی ہے

حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں مؤمنین کی جماعت ایسی ہے جس کو قرآن پاک نے قابو کر رکھا ہے ان کی ہلاکت کے سامنے ان کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ بلاشبہ مؤمن دنیا میں قیدی ہے اپنی گردن کو (دوزخ سے) آزاد کرانے کی کوشش میں ہے وہ کسی چیز سے بے خطر نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ وہ تو (دنیا میں) یہی جانتا ہے کہ اس کی سماعت، بصارت، زبان اور اعضاء سے حساب ہو گا (اسی لئے وہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔

(فائدہ) حضرت میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی اس وقت تک متqi نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا اس طرح سے حساب نہ کرے جس طرح سے کوئی اپنے شریک سے حساب کرتا ہے۔

انگلی آگ پر

سلمه بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام حضرت احلف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ ان کی رات میں اکثر عبادت دعا کی ہوتی

(۱۳) رواه الحافظ ابن کثیر في مسند الفاروق ۶۱۸/۲ من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا بإسناده، وعزاه السيوطي في الدر المثور ۲۶۱/۶ لا بن العبارك في الزهد، وذكره الإمام الترمذى في جامعه عقب حدیث (۲۴۵۹) حبیث قال: یروی عن عمر بن الخطاب ... فذکرہ۔ قال الحافظ ابن کثیر عقبہ: "أثر مشهور، وفيه انقطاع، وثبت بن الحجاج هذا حجزي، تابعي صغير، لم يدرك عمر، ولم یرو عنه سوى جعفر بن برقاد"۔

تھی یہ ایک چراغ کے پاس آتے اور اپنی انگلی اس پر رکھ دیتے اور فرماتے:
 ”حس“ پھر فرماتے اے حنیف! تمہیں کس نے ابھارا تھا کہ تو
 نے فلاں دن یہ جرم کیا۔ تمہیں کس نے ابھارا تھا کہ تم نے فلاں
 دن یہ جرم کیا۔

یہ قدم طواف کے قابل کہاں؟

حضرت وہب بن الور در حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی:

”اے پروردگار! ساری لذتیں رخصت ہو گئیں اب تو مشقت
 ہی مشقت رہ گئی، اے پروردگار! آپ کی ذات پاک ہے آپ
 سب مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں، اے پروردگار! آگ کی
 سزا کے مالک!

تو اس کی ساتھی عورت نے کہا اے بہن! تو آج اپنے پروردگار کے گھر میں
 داخل ہوئی ہے (تو ایسی مایوسی کی بات کیوں کرتی ہے)? اس نے اپنے قدموں کی
 طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کی قسم! میں ان قدموں کو اپنے پروردگار عز و جل کے گھر
 کے گرد طواف کی اہل ہی نہیں سمجھتی۔ میں ان کو اس کا اہل کیسے سمجھ لوں کہ اپنے
 پروردگار کے گھر میں ان کے ساتھ طواف کروں مجھے پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں چلے
 ہیں اور کیوں چلے ہیں۔

ایک سال تک نہ سوئے

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات ایسے سوئے کے تہجد کے لئے نہ جاگ
 سکے پھر وہ ایک سال تک اپنے نفس کو سزا دینے کے لئے جاگتے رہے۔

بہترین لمحہ

حضرت وہب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص طویل زمانہ تک عبادت میں مصروف رہا، پھر اس کو ایک ضرورت پیش آئی تو اس نے ہفتے کے دن کے ستر روزے رکھے، ہر ہفتے کے دن میں گیارہ کھجور کھاتا تھا اور اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا تھا لیکن اس کی حاجت پوری نہ کی گئی۔ اور اس نے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ خواہش تیری طرف سے ظاہر ہوئی تھی اگر تجوہ میں کوئی خیر ہوتی تو تیری یہ ضرورت پوری ہوتی۔

چنانچہ اسی وقت اس کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا:

”اے انسان تیرا یہ لمحہ تیری اس ساری عبادت سے بہتر ہے،“ اور اللہ تعالیٰ نے تیری یہ ضرورت بھی پوری کر دی ہے۔

افضل الاعمال

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر اعمال وہ ہیں جن کے عمل کرنے پر نفس کو مجبور کیا جائے۔

حور کا مہر

علی بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عورتوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا (جنت کی) حور ہوں۔

میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟
کہا میرے آقا (اللہ تعالیٰ) کو میرے ساتھ نکاح کا پیغام دو۔
میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟

کہا تمہارا نفس کو مرغوبات سے باز رکھنا۔

نفس کا قیدی

حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس پر اس کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوات کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کر دیتے ہیں اس طرح سے وہ اللہ کے کلام سے نہ لذت پاسکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے اگرچہ اس کا مذاکرہ اس کی زبان پر کثرت سے ہو۔

حسین و جمیل لوئندی اور عمر بن عبد العزیز کی کنارہ کشی

بیشم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ (عبدالملک بن مروان بادشاہ کی بیٹی فاطمہ) کی ایک نہایت حسین و جمیل لوئندی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفۃ المسلمين بنے سے پہلے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی اہلیہ سے طلب کیا اور اس کا حرص کیا تو اہلیہ محترمہ نے اس کا انکار کر دیا اور غیرت کھائی لیکن یہ لوئندی حضرت عمر بن عبد العزیز کے دل میں گھر کئے رہی۔ جب آپ مند نشین خلافت ہوئے تو فاطمہ نے لوئندی کو سورنے کا حکم کیا تو اس نے بناؤ سنگھار کیا اور اس کے حسن و جمال کا سورج طلوع ہونے لگا۔ پھر فاطمہ اس لوئندی کو لے کر حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ میری فلاں لوئندی کو پسند کرتے تھے اور مانگتے تھے اور میں انکار کرتی تھی۔ آج میرے دل نے اس کو منظور کر لیا ہے یہ آپ کے حوالہ ہے جب فاطمہ نے یہ کہا تو آپ کے چہرہ سے خوشی چھلنے لگی پھر فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ حاضر ہوئی اور آپ نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو شکفتگی کی حدتہ رہی۔ پھر اس کو فرمایا اپنے کپڑے اتنا دے جب وہ اتنا نے لگی تو آپ نے فرمایا کہ جا۔

اور بیٹھ کر مجھے یہ بتا کہ تو کس کی ملکیت میں تھی اور فاطمہ کے پاس کیسے آئی؟
 لوئڈی نے کہا کہ ججاج بن یوسف نے اپنے مالیات کا کام
 کرنے والے ایک شخص کو مقرض کر دیا یہ شخص کوفہ کا مالدار تھا
 اور یہ اس شخص کی لوئڈی تھی۔ ججاج نے مجھے اور ایک غلام اور
 کچھ مال وصول کر کے معاملہ صاف کیا اور ججاج نے مجھے (خليفة
 وقت) عبدالملک بن مردان کے پاس بھیج دیا اس وقت میں
 بھی تھی اور عبدالملک نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔

آپ نے پوچھا تو اس مقرض شخص کا کیا بنا؟
 کہا وہ فوت ہو چکا ہے۔

آپ نے فرمایا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟

کہا جی ہاں

فرمایا ان کا کیا حال ہے؟

کہا بہت برا حال ہے

آپ نے فرمایا

تو اپنے کپڑے پہنے رکھ۔

پھر آپ نے اپنے ایک ذمہ دار افسر عبدالحمید کو حکم نامہ لکھا کہ فلاں بن فلاں
 شخص کو خط کے ذریعہ میرے پاس بلاو۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ججاج
 نے تمہارے والد کو جتنا مقرض کیا مجھے بتاؤ؟ تو اس نے سب کا سب بیان کیا، پھر
 آپ اس لوئڈی کو اس لڑکے کے سپردیا اور فرمایا تم اس سے صحبت نہ کرنا ہو سکتا ہے
 تیرے والد نے اس سے صحبت کی ہو۔ تو لڑکے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یا آپ کی
 خدمت میں میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں
 ہے۔ اس نے کہا چلو آپ اس کو مجھ سے خرید لیں۔ آپ نے فرمایا (اگر میں نے ایسا
 کر لیا) تو ان حضرات میں سے نہیں ہو سکوں گا جنہوں نے اپنی نفس پر قابو پایا۔ جب

وہ جوان لوئندی کو لے کر جانے لگا تو لوئندی نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کی وہ محبت کہاں گئی (جس کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی سے بطور ہدیہ کے مانگا کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ توابھی تک موجود ہے بلکہ بڑھ گئی ہے۔

چنانچہ وہ لوئندی آپ کے نفس میں رہی حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے (لیکن خواہش نفس کو قابو کیا اور خواہش نفس کو پورانہ کیا)۔

(فائدہ) کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوں ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لوئندیاں باندیاں کہتے ہیں ان غلاموں اور لوئندیوں کے بہت سے مسائل آزاد انسانوں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ ان لوئندیوں کا ایک حکم یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے اور بغیر نکاح کے بھی صحبت جائز ہے مگر صحبت کی اجازت یا تو ان کو خرید کر مالک بننے کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہبہ اور ہدیہ کی وجہ سے۔

چنانچہ مذکورہ واقعہ میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے پاس ان کی اہمیہ کا اپنی لوئندی کو ہدیہ میں پیش کرنا اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا اہمیہ سے ہدیہ میں اس کو طلب کرنا اور کپڑوں کے اتارنے کا حکم دینا پھر خود صحبت کرنے کی بجائے اس کے پہلے مالک کے لڑکے کو ہدیہ کر دینا اور اپنی ملکیت سے خارج کر دینا اور اس کو لوئندی سے صحبت کرنے سے منع کرنا کہ شاید اس کے باپ نے ماں سے صحبت کی ہو۔ یہ سب شریعت اسلام کے مطابق ہے۔

لوئندی سے یہ سلوک اس کی سزا کی وجہ سے ہے کہ یہ دشمنان اسلام سے مل کر اسلام کی مخالفت اور جنگ کرنے میں شریک ہوئی تھی۔ اگر یہ اسلام سے امن مانگ لیتے جنگ نہ کرتے یا جزیہ دیتے یا مسلمان ہو جاتے تو اسلام ان کی بھی ویسی ہی عزت کرتا ہے جیسے آزاد مسلمانوں کی کرتا ہے۔ تفصیل فقہ اور جہاد کی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ (اصفہ از امداد اللہ انور)

(خلیفہ) ابو جعفر (منصور) جب مکہ شریف کو روانہ ہوا تو اس نے کچھ بڑھتی

روانہ کئے اور حکم دیا کہ تم سفیان ثوریٰ کو دیکھو تو اس کو سولی پر چڑھا دینا۔ چنانچہ بڑھنی آگے بڑھے اور (سولی چڑھانے کیلئے) لکڑیاں گاڑ دیں اور حضرت سفیان ثوریٰ کو آواز لگائی گئی۔ اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں اور پاؤں حضرت سفیان بن عینہ کی گود میں تھے۔ ان حضرات نے آپ سے فرمایا اے ابو عبد اللہ! اللہ سے ڈر وہم پر دشمنوں کو ہٹنے کا موقع نہ دو (یعنی اپنی اپنی حفاظت کر لو اور کہیں روپوش ہو جاؤ) تو آپ نے کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر فرمایا (اے اللہ) اگر ابو جعفر مکہ میں داخل ہو جائے تو میں اس سے بری ہوں (یعنی اے اللہ آپ اس کی حفاظت نہ کریں بلکہ موت دیدیں) چنانچہ یہ (ظالم) مکہ میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ جب حضرت سفیان کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کچھ نہ فرمایا۔

نصیحت

اے بھائی خواہش نفس کی مخالفت کا اثر دیکھ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی تو اس کی عظمت کا اظہار کس طرح سے ہوا۔ اور اللہ کے فرمانبردار کی عظمت اور نافرمان کی ذلت میں فرق کر کے دیکھو۔

عمر بن عبد العزیز اور منکر نکیر

میں نے سنا ہے کہ جب حضرت عمر (بن عبد العزیز) کے پاس (قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے) منکر نکیر آئے تو آپ نے ان کے دونوں پلوؤں سے پکڑ کر خود پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اگر انہوں نے خواہشات کو نہ دبایا ہوتا تو منکر نکیر سے اتنی بے با کی کا اظہار نہ کرتے۔

(فائدہ) ایک حکیم کہتا ہے کہ تقویٰ کا ظاہر دنیا کا شرف ہے اور اس کا باطن آخرت کا شرف ہے۔

بَاب ٤

تعریف و تر غیب صبر

صبر کی دو قسمیں ہیں (۱) مرغوب و محظوظ چیز سے بچنا (۲) ناپسندیدہ حکم پر عملدرآمد کرنا۔

پس احکامِ خداوندی پر عمل کرنا بھی صبر ہے اور گناہوں سے رکنا بھی صبر ہے اور استعمال صبر پر وہ شخص قدرت رکھتا ہے جس کو خواہش نفسانی کے عیب اور صبر کے بہتر نتیجہ کا علم ہواں وقت اس کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت دو مردوں کے سامنے سے گزری جب نگاہ نے اس کو دیکھنا چاہا تو ایک نے تو اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے ہوئے نما جھکالی اور وہ لمحہ گذر گیا اور بھول گیا۔ دوسرا شخص نے اس پر نظر نکادی اپنادل اسے لگالیا اور اس کی یہ ایک نظر اس کے لئے فتنہ اور بے دین ہونے کا سبب بن گئی۔ پس معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ کی طرف توجہ کی بجائے گناہوں سے بچنا زیادہ آسان ہے۔

حضرت حارث محا رسی فرماتے ہیں:

کہ ہر چیز کا ایک جو ہر ہوتا ہے انسان کا جو ہر عقل ہے اور عقل کا
جو ہر صبر ہے۔

باب 5

گمراہی کے فتنوں سے دل کی نجات

دل حقیقت تخلیق میں تمام آفات سے محفوظ ہوتا ہے جو اس خمسہ باہر سے اس کو اطلاعات پہنچاتے ہیں اور ورقہ دل پر نقش کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان تمام راستوں کی خوب حفاظت کی جائے جن سے فتنوں کا خوف ہو۔ اگر یہ دل کسی دوسری چیز سے متعلق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اپنی تعظیم کے لئے اور مصالح میں فکر کے لئے پیدا کیا تھا اس سے محروم ہو جائے گا اور کسی ایسے فتنے میں پڑ جائے گا جو اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ (۱۳)

(حدیث) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے ارشاد فرماتے ہوئے سنًا:

الا وان في الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا
فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. (منداحمد)۔ (۱۴)

(ترجمہ) سن لو انسان میں ایک لکھڑا ہے اگر وہ درست رہے تو سارا بدن

(۱۳) انظر إغاثة اللہفان ۲۶-۲۴/۱۔

(۱۴) ہو جزء من حدیث: الحلال بین والحرام بین ...، رواه: البخاري (۵۲)، ومسلم (۱۵۹۹)، وأبو داود (۳۳۲۹)، والترمذی (۱۲۰۵)؛ والنمسائی (۳۲۷/۷)، وابن ماجہ (۳۹۸۴)، والدارمی (۵۳۱)، وأحمد فی المسند (۶۴/۴، ۲۶۴، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۷۰)، والبیهقی فی سنہ الکبری (۶۴۱۵) وأبو نعیم فی حلیۃ الاولیاء (۱۰۵۱ و ۳۳۶) و (۲۷۰/۴)، وابن حبان فی صحیحه (۲۹۷)۔

درست رہتا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور یہ (توہڑا) دل ہے۔

(فائدہ) جسمانی طور پر بھی دل کو صحت کی مرکزیت حاصل ہے اور شرعی طور پر بھی اس لئے اس کو دونوں طرح کی خرابیوں سے بچایا جائے ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔..... (مترجم)

ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت دیہات میں رہا کرتی تھی۔
میں نے اس سے سنا وہ کہتی تھی:

اگر مومنوں کے دل اپنے فکر کے ساتھ آخرت کے مخفی انعامات کا مطالعہ کر لیں تو ان پر دنیا کا عیش بد مزہ ہو جائے اور دنیا میں ان کی آنکھ کبھی ٹھہنڈی نہ ہو۔

حضرت ابوالخیر تیناتیؒ فرماتے ہیں دنیا کی محبت کے اسی دل پر حرام ہے وہ آخرت کی مخفی راحتوں کی سیر نہیں کر سکتا۔

باب 6

دل کیسے زنگ آلو دھوتا ہے؟

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان المومن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وان زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الروان الذي ذكر الله عزوجل في كتابه (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) (المطففين). (ترمذی شریف)

(ترجمہ) جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی اور گناہ سے بازا آگیا اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اور گناہ کیا تو وہ سیاہ نکتہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے (ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلو دھو گئے ہیں ان) کے گمانا ہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں)۔ (۱۵)

(۱۵) حدیث حسن۔ رواہ الترمذی (۲۳۳۴)، والنسائی سنہ الکبری، كما في تحفة الأشرف (۴۴۳۹)۔ وفي عمل اليوم والليلة (۳۱۸)، وابن ماجه (۴۲۴۴)، وأحمد في المسند (۷۸۹۲)، والحاكم في المستدرك (۵۱۷/۲)، وابن حجر الرضي في تفسيره جامع البيان (۹۸/۳۰)، وابن حبان في صحيحه (۹۳۰) و (۲۷۸۷)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۵۳۹/۶) لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان۔

(فائدہ) حضرت یحییٰ بن معاذؓ فرمائے ہیں ”جسم کی بیماری تکالیف سے ہوتی ہے اور دلوں کی بیماری گناہوں سے“۔ تو جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔

اشتخار اسلاف کے آخری لمحات صفحات 510

حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہؓ، تابعینؓ، فقهاءؓ و مجتهدینؓ، محدثینؓ، مفسرینؓ، علماء امتؓ اور اولیاء اللہؓ کی وفات کے وقت کے قابل رشک حالات، واقعات اور کیفیات پر حیران کن تفصیلات۔

باب 7

دل سے زنگ ہٹانے والا

(حدیث) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان هذه القلوب تصد اکما يصد العديد قيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن. (۱۶)

(ترجمہ) یہ دل زنگ آلوہ ہوتے ہیں جس طرح سے لوہا زنگ آلوہ ہوتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کو روشن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں دل کی دو اپنی چیزیں ہیں:
 (۱) قرآن پاک کو فکر کے ساتھ پڑھنا (۲) پیٹ کو خالی رکھنا (حرام کھانے سے اور زیادہ کھانے سے) (۳) رات کو تہجد پڑھنا (۴) سحری کے وقت اللہ کے سامنے انساری اور عاجزی سے گڑگڑانا (۵) نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔

(۱۶) حدیث موضوع۔ آفته عبد الرحیم بن ہارون، وہو الغسانی الواسطی۔ قال الدارقطنی: متروک یکذب، وساق له ابن عدی عدۃ احادیث استنکرها۔ وقال الذهبی بعد أن ذکر الحديث "رواه حفص بن غیاث عن عبد العزیز قال: قال رسول اللہ ﷺ ... فذکرہ منقطعًا"۔ یقصد بذلك أن عبد الرحیم بالإضافة إلى شدة ضعفه قد حولف في إسناد الحديث۔ انظر: میزان الاعتدال ۶۰۷۲۔

بَاب ٨

اصلاح دل کی دعا

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن عمر و رحمۃ الرحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصبع الرحمن تبارک و تعالیٰ کقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم "اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك". (مسلم شریف)

(ترجمہ) تمام انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے ایک دل ہو اس کو جیسے چاہے پھیر دے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی:

اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك
اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنی عبادت
کی طرف پھیر دے

حضرت احمد بن خضرو یہ رحمۃ الرحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
یہ دل گردش کرنے والے ہیں یا تو عرش کے گرد گردش کرتے اور گھومتے ہیں یا گھاس کی طرح بے قیمت دنیاوی عیش و آرام کے لئے گھومتے ہیں۔ (۱۷)

باب 9

دل کے اندر سے نصیحت کرنے والا

(حدیث) حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما و على جنبي الصراط سوران فيما ابواب مفتحه و على الابواب ستور رخاه و على باب الصراط داع يقول - يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعر جوا و داع يدعو من جوف الصراط فاذا اراد (يعنى العبد) ان يفتح شيئا من تلك ابواب قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه والصراط الاسلام والسوران حدود الله والا بباب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم.

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی جس کے دونوں طرف دو فضیلیں ہیں ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں اور صراط کے دروازہ پر ایک شخص دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگو! تم سب کے سب صراط (راسہ) پر چلو ادھر ادھر نہ بھٹکو اور ایک پکارنے والا صراط کے اندر پکار رہا ہے۔ چنانچہ جب انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے تجھ پر افسوس ہے اس کو مت کھول اگر تو نے اس کو کھولا تو اس میں بتلا ہو جائے گا۔

یہ صراط (سے مراد) اسلام ہے اور دو فصیلوں سے مراد اللہ کی حد بندیاں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کے محترمات ہیں اور وہ پکارنے والا جو صراط کے سرے پر ہے قرآن پاک ہے اور وہ پکارنے والا جو اس کے اوپر سے دعوت دے رہا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے۔ (۱۸)

(۱۸) حدیث حسن۔ روایہ الترمذی (۲۸۵۹) بمعناہ، وأحمد فی المسند (۱۷۱۸۲)، والحاکم فی المستدرک ۷۴-۷۳۱، وعزاء المناوی فی الفیض ۲۵۴۱۴ للطبرانی۔ قال الترمذی: حدیث غریب، وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، ولا أعرف له علّة، ولم یخرجاه، ووافقه الذهبی۔

باب 10

صرف اللہ کی محبت چاہئے

حضرت ابو سلیمان دارانیؒ

حضرت احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ محمود نے حضرت ابو سلیمان (دارانی) سے سوال کیا کون عمل ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کا؟ تو حضرت سلیمان رو پڑے، پھر فرمایا میرے جیسے سے اتنا عظیم سوال پوچھا جا رہا ہے (پھر فرمایا) سب سے زیاد ہو پسندیدہ عمل جس کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل کی طرف متوجہ ہوں تو تیری حالت یہ ہو کہ تو دنیا اور آخرت میں صرف اسی (اللہ) کا طلب گار ہو۔

(فائدہ) یہ طلب کامل اتباع شریعت سے حاصل ہوتی ہے جو آنحضرتؐ کی معرفت مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے اس پر عمل کئے بغیر جو لوگ محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ گمراہی میں پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تسترؓ

حضرت سہل فرماتے ہیں جس نے قریب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر شے دور ہو گئی اور جس نے اس کی خوشنودی چاہی اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرمائیں گے اور جو شخص اپنے دل کی غیر اللہ سے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی نگرانی کریں گے (اور ان کو گناہ کرنے سے بچائیں گے)۔

حضرت محمد بن الفضل

حضرت ابراہیم خواص (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں مجھ سے حضرت محمد بن الفضل نے ذکر کیا کہ

میں نے چالیس سال تک غیر اللہ کے لئے ایک قدم بھی نہیں
انٹھایا اور چالیس سال تک کسی چیز کو دیکھ کر پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ
سے حیا کی وجہ سے۔

حضرت ضیغم

حضرت ضیغمؑ نے حضرت کلابؓ سے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی محبت نے اپنے عاشقوں کے دلوں کو غیر کی محبت کی لذت سے
نا آشنا کر دیا ہے ان کیلئے دنیا میں اللہ کی محبت کے سامنے کسی شے کی محبت ہمسری
نہیں کر سکتی اور ان حضرات کی آخرت میں انعامات کے حصول میں سب سے بڑی
تمنا اور خواہش اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی ہوگا تو حضرت کلاب یہ بات سن کر
بے ہوش ہو گئے۔

حضرت ابو بکر الہلائی

حضرت ابو بکر الہلائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے ایک درخت کی طرف
اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس درخت کو جب بھی ایک نظر سے دیکھا تو اس نے
میرے سر کو ملامت کی مجھے کہا کہاں جاتا ہے تو ہمارے سامنے ہو کر بھی ہمارے غیر کو
دیکھتا ہے۔

حضرت ابراہیم جبلیؑ

حضرت ابراہیم جبلیؑ رحمۃ اللہ علیہ: جب اپنے وطن واپس لوٹ کر آئے تو اپنی چچا زادے نکاح کیا تو اس سے حد درجہ محبت میں لگ گئے ایک لحظہ کے لئے بھی اس سے جدا نہ ہوتے تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو سوچا کہ میرا میلان اور محبت تو اس کے ساتھ بہت بڑھ گیا ہے یہ تو بہت برا ہے جب میں قیامت میں پیش کیا جاؤں اور وہ میرے دل میں رچ بس گئی ہو۔

چنانچہ یہ سوچ کر میں نے غسل کیا اور دو رکعت ادا کیں اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اے میرے مالک میرے دل کو بہتر حالت میں پھیر دے چنانچہ جب صبح ہوئی تو اس (میری بیوی) کو بخار ہو گیا اور تیسرے دن انتقال کر گئی اور میں نے اسی وقت ننگے پاؤں مکہ شریف جانے کا تھیہ کر لیا۔

حضرت احمد بن خضر ویہؓ

حضرت احمد بن خضر ویہؓ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کون عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا:

”سر،“ کی ماسوی اللہ کی طرف التفات سے حفاظت کرنا

حضرت ابو بکر شبلیؓ

فرمان الہی: قُلْ لِلّٰهِ مُؤْمِنُونَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

(ترجمہ) اے نبی آپ مومنوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں
پیچی رکھا کریں۔
(النور۔۳)

کے متعلق حضرت شبلی سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سر کی آنکھوں کی حفاظت ان کاموں سے ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور دل کی آنکھوں کی

حافظت اللہ کے سوائے ہے۔

حضرت ابن سمنون

حضرت ابن سمنون رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک مجلس میں فرمادیکا تو نے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نہیں سنایا:

ان الملائکہ لا تدخل بيتا فيه صورة او تمثال.

(ترجمہ) جس گھر میں تصویر یا بت ہواں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

پس جب جس گھر میں تصویر یا بت کی وجہ سے فرشتے داخل نہ ہوں تو اس دل کو مشاہدہ خداوندی کیسے ہو سکتا ہے جس میں انسانی کدو رتیں بھری ہوئی ہوں۔

حضرت رقیہ عابدہ

مؤصل کی نیک خاتون حضرت رقیہؓ فرماتی ہیں میں اپنے پروردگار سے شدید محبت کرتی ہوں اگر وہ مجھے دوزخ میں جانے کا حکم کرے تو اس کی محبت کی موجودگی میں آگ بھی مجھ پر اثر نہ کرے، اور اگر وہ مجھے جنت میں جانے کا حکم کرے تو اس کی محبت کی موجودگی میں جنت کی کوئی لذت محسوس نہ ہو کیونکہ پروردگار کی محبت مجھ پر بہت غالب ہے۔

دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت کے متعلق حضرت خواجہ عزیز الحسن مجدوبؒ کا ایک شعر ہے۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی

باب 11

حافظتِ نگاہ

اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ بات یاد رکھو کہ نگاہ دل کو خبر دینے کی جاسوس ہے جو دل کی طرف دیکھی ہوئی خبریں نقل کرتی رہتی ہے اور ان کی صورتیں اس میں نقش کرتی رہتی ہے اس طرح سے انسانی فکر آخرت کے مفید امور سے ہٹ کر بے کار (بلکہ نقصان دہ) کاموں میں مصروف کر دیتی ہے چونکہ نگاہ کی آزادی دل میں فتنوں کو جنم دیتی ہے اس لئے شریعت نے آپ کو ان کاموں میں جو فتنہ اور گناہ کا سبب بنیں ان سے نگاہ کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے اگر تو شریعت کے احکام کے مطابق نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا تو یہ تجھے ایسی تکالیف میں بتلا کرے گی جن کا عذاب تو سہتار ہے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

**فُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.**

(ترجمہ) آپ مومن مردوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں (یعنی گناہ کی جگہوں میں ان کی حفاظت کریں)۔ (النور: ۳۱-۳۰)

اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد نظری کے نتیجے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا:

وَيَحْفَظُوا فِرْوَجَهُمْ - وَيَحْفَظُنَّ فِرْوَجَهُنَّ

(ترجمہ) مرد بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور عورتوں

بھی اپنی شر مگا ہوں کی حفاظت کریں۔ (نور: ۳۰-۳۱)

اچانک نگاہ پڑ جانا

(حدیث) حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اصراف بصرک (۱۹) اپنی نگاہ ہٹالے۔

چھ چیزوں کی حفاظت سے جنت ملے گی

(حدیث) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول ﷺ سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا: اکفلوا لی بست اکفل لكم بالجنة اذا حدث احدكم فلا يكذب و اذا اوتمن فلا يخن و اذا وعد فلا يخلف وغضوا ابصاركم و كفوا ايديكم واحفظوا افروجكم. (۲۰)

(۱۹) رواه الإمام مسلم (۲۱۵۹)، وأبو داود (۲۱۴۸)، والترمذی (۲۷۷۶)، والنمسائی فی کتاب عشرۃ النساء من سننه الکبری، كما فی تحفة الأشراف ۲/۴۳۴، والدارمی (۲۶۴۳)، وأحمد فی المستد (۱۸۶۷۹ = ۱۸۷۱۵)، وأبو داود الطیالسی فی مسند (۶۷۲)، والحاکم فی المستدرک ۲/۳۹۶، والبیهقی فی سننه الکبری ۹۰۷ و فی شعب الإيمان ۴/۳۶۴-۳۶۳، والطبرانی فی المعجم الکبیر ۲/۳۸۴، وابن حبیب فی صحيحه (۵۵۷۱)۔

(۲۰) ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر ۹۵/۲ بلفظ: اکفلوا لی ست حصال اکفل لكم الجنة: الصلاة، والزکاة، والأمانة، والفرج، والبطر، والمسان۔ وعزاه للطبرانی فی الأوسط۔ وکذلك الهیشمی فی مجمع الرواید ۲۹۳/۱، وزاد المحتاوی فی قیض القدیر ۹۵/۲ وکذا الهیشمی فی مجمع الرواید ۱/۱۰، ۳۰/۱ نسبہ له فی المعجم الصغیر۔ قال الهیشمی فی المجمع =

(ترجمہ) تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں (۱) جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے (۲) اور جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے (۳) اور جب وعدہ کرے خلاف نہ کرے (۴) اور اپنی نگاہوں کی (ممنوعات سے) حفاظت کرو (۵) اپنے ہاتھوں کو (غلط کاموں سے) روکے رکھو (۶) اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔

حضرت معروف کرخیؓ

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اگرچہ مادہ بکری سے بھی کیوں نہ ہو۔

حضرت ذوالنون مصریؓ

ابو عصمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا ان کے سامنے ایک خوبصورت جوان بھی تھا آپ اس کو کچھ لکھوار ہے تھے اور ایک حسن و جمال کی ملکہ سامنے سے گذری اور وہ جوان نظریں چدا کر اس کی طرف دیکھنے لگا حضرت ذوالنون مصریؓ تاڑ گئے اور اس کی گردن پھیر کر یہ شعر کہا۔

دع المصوغات من ماء و طين
واشغل هو اك بحور خرد عين

= ۲۹۳۱ بعدهما عزاه للطبراني: "وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا
الإسناد، قلت - أَيُّ الْهَبِيشِيُّ - : وإنْسَادَهُ حَسْنٌ" - بينما قال في المجمع
۱۱۰: ۳۰ "وفيه بحبي بن حماد الطائي، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات
" - ونقل المناوي عن المنذري قوله: إسناده لا يأس به.

(ترجمہ) پانی اور مٹی سے بنی عورتوں کو چھوڑ
اور اپنے عشق و خواہش کو اس حور کا متواala بنا جو کنواری ہے مونی
آنکھوں والی ہے۔

حضرت جنید بغدادی

حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:
اپنی نگاہ کو اللہ کی محبت میں مصروف کر دو اور جس آنکھ کے ذریعہ تم نے اللہ
عز و جل کا دیدار کرتا ہے اس کو غیر اللہ سے بند کر دو ورنہ اللہ کی نظروں سے گرجاؤ
گے۔

اسی مضمون میں حکیم العصر حضرت شیخ المشائخ مولانا حکیم محمد اختر خلیفہ مجاز
حضرت مولانا ابراہم حق صاحب دامت برکاتہم کا بہترین شعر ہے۔

اختر اللہ کا وہی منظور نظر ہوتا ہے
دنیا میں حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا

صفحات 352

تاریخ علم اکابر

اشتہار

پہلی سات صدیوں پر صحیط اکابر محدثین، مفسرین، فقہاء اور علماء اسلام کی
طلب علم و خدمت علم کے حیرت انگیز حالات، واقعات، کمالات اور علمی
کارنا میں۔ تالیف مولانا مفتی امداد اللہ انور

باب 12

فضول دیکھنے کی مذمت

(حدیث) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا تَبْعَدِ النَّظَرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَا يُسْتَلِّ لَكَ الْآخِرَةُ۔ (۲۱)

(ترجمہ) (نامحرم پر اچانک نظر پڑ جانے کے بعد اس کو) دوبارہ نہ دیکھ کیوں کہ پہلی نظر اچانک پڑ جائے تو معاف ہے دوسری بار (جان بوجھ کر) دیکھنا معاف نہیں (بلکہ حرام ہے)

حضرت داؤد طائیؑ

ایک شخص نے حضرت داؤد طائیؑ سے عرض کیا کاش کہ آپ کسی کو حکم فرماتے کہ آپ کے مجرے میں جو لکڑی کے جالے بنے ہوئے ہیں وہ صاف کر دیئے جاتے۔

آپ نے فرمایا:

(۲۱) حدیث حسن بشواہدہ۔ رواہ الدارمی (۲۷۰۹)، وأحمد في المسند (۱۳۶۹)، وفي إسناده ابن إسحاق: صدوق مُذَلِّس، وقد عننه، لكن يشهد له حدیث بریدۃ الآتی برقم (۲۷۲)۔ * قال ابن القیم في روضة المحبین ص ۱۱۲-۱۱۳: "ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يتعمدَه القلبُ عليه، فإذا نظر الثانية تعمداً أثيم، فامرہ الشیء ﷺ عند نظرۃ الفجأة أذ يصرف بصره، ولا يستديم النظر، =

تمہیں پتہ نہیں فضول دیکھنا مکروہ ہے۔

پھر فرمایا مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ ان کے گھر میں تیس سال تک علیہ نامی خاتون رہتی رہی مگر آپ کو اس کا بھی علم نہ ہوا۔

حضرت حسان بن ابی سنان

حضرت حسان بن ابی سنان ایک مرتبہ عید کے روز باہر چلے گئے جب گھر واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا آج آپ نے کتنی حسین عورتیں دیکھیں؟ جب اس نے بار بار یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تو تباہ ہو جائے میں جب سے تیرے پاس سے گیا ہوں تیرے پاس لوٹنے تک اپنے انگوٹھے کو ہی دیکھتا رہا (نظر کی حفاظت کرتے ہوئے تاکہ نظر فضول اور گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے)۔

= فَإِنْ أَسْتَدَامَهُ كَتَكْرِيرٍ "۔ * وَقَالَ الْحَافِظُ أَبْنُ حَبِيبِ الْعَامِرِي فِي كِتَابِهِ
 (أَحْكَامُ النَّظَرِ إِلَى الْمُحْرَمَاتِ وَمَا فِيهِ مِنِ الْآفَاتِ) ص ٤٥: "هذا خطابه
 لعلیٰ رضی اللہ عنہ مع علمہ بكمال زہدہ وورعہ وعفة باطنہ وصیانة
 ظاهرہ يُحدّرہ من النظر، ويؤمّنه من الخطر، لثلا يدعی الأمان كل بطال،
 ويعتر بالعصمة والأمن من الفتنة، ولا يأمن مكر اللہ إلا القوم الخاسرون"۔

باب 13

نظر کے فتنوں سے حفاظت

آنکھ زنا کرتی ہے

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

العينان تزنيان وزناهما النظر. (۲۲)

(ترجمہ) آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کرنا (نامحروم کو) دیکھنا ہے۔

زہر الود تیر

(حدیث) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا عَلَىٰ أَتِقَ النَّظَرَةَ بَعْدَ النَّظَرَةِ فَإِنَّهَا سَهْمٌ مَسْمُومٌ يُورِثُ الشَّهْوَةَ

فِي الْقَلْبِ. (۲۳)

(۲۲) رواه بهذا المفظ الإمام أحمد في المسند (۸۳۲۱).

(۲۳) حديث ضعيف، فيه: - أبو شيبة: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، قال عنه في الميزان ۴۸/۵: "صاحب النعمان بن سعد: ضعفوه". قال أبو طالب: سالت أحمد بن حنبل عنه، فقال: ليس بشيء، منكر الحديث ... وروى عبد الله عن أبيه: .. له مناكير، وليس هو في الحديث بذلك. وعن يحيى بن معين: ضعيف. وقال مرة: مترونك، وقال البخاري: فيه نظر، =

(ترجمہ) اے علیؑ (نامحرم کو) ایک بار (اچانک) دیکھنے کے بعد (دوبارہ قصد) مت دیکھ کیونکہ یہ زہرآلود تیر ہے جو دل میں شہوت کو بھڑکاتا ہے۔

ابليس کا تیر

(حدیث) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نظر الرجل الى محسن المرأة سهم مسموم من سهام ابليس. (۲۲)

(ترجمہ) مرد کا عورت کے محسن کو دیکھنا ابليس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔

حافظت نظر میں مبالغہ

حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ربع بن خشم اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گذریں تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نا بینا ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ

= وقال النسائي وغيره: ضعيف" - وقال عنه ابن حجر في التفریب (۳۷۹۹): "ضعیف" - الشعماذ بن سعد الأنصاري الكوفي - قال في المیزان ۴: ۲۶۵؛ "أحد الضعفاء" - وقال الحافظ ابن حجر في التفریب (۷۱۵۶): "مقبول" ، أی: إذا تُوبَعَ، وَإِلَّا فَلِيَنَ الحَدِيثُ، وَلَمْ يُتَابَعْ.

(۲۴) حدیث واه بصرة ابن لم يكن موضوعاً، فيه: - عبد العزیز بن عبد الرحمن البالسي الحزري الفرشی، اتهمه الإمام أحمد، وضرب على حدیثه۔ وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة۔ میزان الاعتدال ۶۳۱/۲۔ - خصیف بن عبد الرحمن الحزري، قال عنه في التفریب (۱۷۱۸)، "صدق سیء الحفظ، خلط ساحره ورمي بالارجاء"۔

سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔

شیطان تین جگہ پر

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی تین جگہوں پر ہوتا ہے۔
اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرم گاہ میں اور عورت کے بھی تین
جگہ پر ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اس کے دل میں اور سرین میں۔

خیانتی آنکھیں اللہ کی نگاہ میں

فرمان خداوندی:

يَعْلَمُ خَلِيلَةَ الْأَعْيُّنِ

اللہ تعالیٰ خیانتی آنکھوں کو جانتا ہے۔ (المؤمن: ۱۹)

مذکورہ ارشاد خداوندی کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ ایک شخص کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے یہ
شخص ان لوگوں کو یہ دکھلارہا ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو نہیں دیکھ رہا لیکن جب وہ ان
کو اپنی طرف سے غافل پاتا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے اور اگر ان کے تاثر جانے کا
خوف کرتا ہے تو اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل کو جانتی
ہے کہ وہ اس عورت کو دیکھنے کی چاہت میں مصروف ہے۔

کاش کہ میں اندھا ہوتا

حضرت عمرو بن مره رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بینا
ہوتا مجھے وہ لمحہ نہیں بھولا جب میں نے جوانی میں ایک مرتبہ (کسی غیر عورت کو) دیکھے
لیا تھا۔

عورت کے پچھے پچھے مت چل

حضرت سلیمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ
اے بیٹے شیر اور سانپ کے پچھے چاہے تو چل لے مگر عورت
کے پچھے مت چلنا۔

نظر کی آزادی

حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑا (اس کی محترمات
سے حفاظت نہ کی) تو اس کے غم طویل ہو گئے۔

عورت کے کپڑے بھی مت دیکھ

حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اپنی نگاہ کو عورت کی چادر پر بھی مت ڈال کیونکہ نگاہ دل میں
شہوت کا نتیج بوتی ہے۔

تصاویر مدینہ صفحات 400

اشتہار

مدینہ طیبہ کی قدیم و جدید تاریخ پر مشتمل سینکڑوں قدیم و جدید نایاب
تصاویر مع تفصیلات عاشقان مدینہ کے دیدہ و دل کیلئے غرباء و مسَاکین
امت کیلئے زیارات مدینہ کا نادر قیمتی سرمایہ۔

باب 14

بے ریش لڑکوں کی طرف دیکھنے اور
ان کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت

اللہ تمہیں توفیق بخشنے یہ جان لو کہ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے بہت سے لوگ اس سے بچنے سے بے فکر ہیں۔ حالانکہ شیطان کو جہاں سے ممکن ہو انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں تک اس کا بس چلے انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ وہ شروع شروع میں انسان کے پاس آ کر زنا کرنے کی خوبیاں نہیں جتنا تا بلکہ نظر کرنے کو اچھا جتنا تا ہے۔ عالم اور عابد اپنی نظروں کو اجنبی عورتوں سے تو محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی صحبت اور اختلاط عام طور پر ان کو حاصل نہیں ہوتا جبکہ لڑکوں کا ان سے اختلاط ہوتا رہتا ہے اس لئے ان کو لڑکوں کے فتنے سے بہت بچتے رہنا چاہئے کیونکہ بہت سے قدم یہاں پھسل چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کے عزم ثوٹ چکے ہیں ایسے افراد بہت کم ہیں جو اس فتنے کے قریب رہ کر کے محفوظ رہے ہوں۔ (حدیث) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تجالسو ابناء الملوك فان الانفس تشتاق اليهم مala تشتاق

الى الجوارى العواتق. (۲۵)

(۲۵) حدیث منکر وقد ذکرہ ابن الحوزی أيضاً في تلییس ابلیس ص ۳۳۶۔
وفيه: أبان بن أبي عیاش البصري العبدی، قال في التقریب (۱۴۲): ”
متروک“۔ وقد تقدمت ترجم ضیافية له أول الكتاب، وانظر تهذیب

(ترجمہ) تم شہزادوں اور (امیرزادوں) کے پاس نہ بیٹھا کرو کیونکہ نفس ان کے کے دیکھنے کی اتنی خواہش رکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت لوئڈیوں کے دیکھنے کی بھی نہیں رکھتے۔

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَحْدُثَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى الْفَلَامِ
الامر د. (۲۶)

(ترجمہ) آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان کسی بے ریش لڑکے کی طرف بغور نگاہ ڈالے۔

(فائدہ) حضرت حسن بن ذکوانؓ فرماتے کہ تم امیروں کی اولاد کے ساتھ مت بیٹھا کرو ان کی اولاد کی شکلیں عورتوں کی شکلیں کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں یہ کنوواری لڑکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں (کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے) کو معیوب نہیں سمجھا جاتا اس لئے گناہ میں بتلا ہونے کے خطرات زیادہ ہیں بخلاف عورتوں کے، ان کے اختلاط اور دیکھنے سے عموماً مسلمان آدمی بچتا ہے اور اس کے فتنوں میں بتلانہیں ہوتا (لیکن یہ آج سے ہزار سال پہلے کے زمانے کی بات ہے اب تو دونوں سے اپنی نظر و اختلاط کی حفاظت نہیں کی جاتی اور یہ دونوں اس وقت معاشرہ میں سب سے بڑا فتنہ ہیں)۔.....(مترجم)

امام احمد بن صالحؓ کی احتیاط

احادیث کے حافظ، عالم عمل الحدیث، واقف اختلاف الحدیث حضرت احمد بن

(۲۶) حدیث ضعیف، رواہ ابن عدی فی الکامل ۹۶/۷ و انظر روضۃ المحبین ص ۱۲۱۔ وتلبیس ابلیس ص ۳۳۶۔ وفيه: بقیة بن الولید مدليس، وقد عنعنه، والوازع هو ابن نافع العقيلي الجزری: ضعیف، انظر لسان المیزان ۲۱۳/۶۔

صالح ابو جعفر مصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں تشریف لائے اور حفاظ حدیث کے پاس بیٹھنے لگے اور ان کے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مذاکرات حدیث جاری رہے حضرت امام احمد بن حنبل ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے شرف تلمذ حاصل کیا تھا اور ان سے احادیث روایت کی تھیں۔ یہ حضرت احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ صرف داڑھی والوں کو احادیث پڑھاتے تھے ان کی مجلس درس میں کوئی بے ریش لڑکا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بحثت انی اپنا بیٹا ان کے پاس لے گئے تاکہ وہ بھی ان سے حدیث کی سماعت کر لے جبکہ وہ ابھی بے ریش تھے تو حضرت احمد بن صالح ”نے امام ابو داؤد“ کے سامنے ان کے بیٹے کو اپنی مجلس میں بٹھلانے سے انکار کر دیا۔ تو امام ابو داؤد نے فرمایا اگرچہ یہ بے ریش ہے لیکن تمام داڑھی والوں سے زیادہ حافظ الحدیث ہے آپ جو چاہیں اس سے امتحان لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے سب سوالات کا جواب دیدیا تو انہوں نے ان کو درس حدیث میں شامل کر لیا لیکن اور کسی امرد (بے ریش) کو احادیث نہیں سنائیں (ان کا بے ریش لڑکوں کو احادیث نہ سنانا خود کو بے ریش لڑکوں کے فتنے سے دور رکھنا تھا)۔

امام مالک کی احتیاط

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سماع حدیث کیلئے بے ریش لڑکوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ حیلہ کر کے لوگوں کے مجمع میں چھپ کر بیٹھ گئے اس وقت وہ بے ریش تھے اور امام مالک سے سولہ حدیثیں سن لیں۔ امام مالک کو جب اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے ان کو بلا یا اور رسولہ درے مارے۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں کاش کہ میں (ان سے) سو حدیثیں سنتا اور وہ مجھے سو درے مارتے۔

حضرت یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل

حضرت امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بے ریش نے میرے پاس آنے کی طمع نہیں کی اور نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے راستے میں آنے کی طمع کی (یعنی یہ دونوں اکابر حدیث بھی بے ریش کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے)۔

اسلاف امت کا طرز عمل

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں آیا اس کے ساتھ ایک حسین چہرہ والا لڑکا بھی تھا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا یہ کون لڑکا ہے؟ عرض کیا یہ میرا بیٹا ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو دوبارہ اپنے ساتھ نہ لانا۔

جب وہ شخص چلا گیا تو امام صاحبؐ سے محمد بن عبد الرحمن محدث نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے وہ پاک دامن تھا اور اس کا بیٹا (بے ریش لڑکا) اس سے افضل تھا۔ حضرت امام احمدؓ نے فرمایا ہم نے جس مقصد کا ارادہ کیا ہے اس کو ان کا پاک دامن ہونا نہیں روکتا۔ ہم نے شیوخ اساتذہ کو اسی طرز عمل پر دیکھا اور انہوں نے ہمیں اپنے اسلاف سے اسی کا پتہ دیا ہے۔ (۲۷)

تمیں ابدالوں کی نصیحت

حضرت شیخ فتح موصیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے تمیں شیوخ کے پاس رہا ہوں۔ جن کو ابدال (کے درجہ کا ولی) کہا جاتا تھا۔ ان سب نے مجھے اپنے سے

رخصت ہوتے وقت نصیحت فرمائی کہ تم بے ریش لڑکوں کی صحبت وغیرہ سے بچتے رہنا۔ (۲۸)

چالیس برس تک آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والے بزرگ کا عمل

حضرت امام تیجی بن معین[ؓ] کے شاگرد محمد بن حسین نے چالیس سال سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائی۔ حضرت محمد بن احمد بن ابی القاسم فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمارے ساتھ ایک نو عمر لڑکا بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم میرے سامنے سے اٹھ جاؤ اور میری پشت کے پیچھے بیٹھو۔ (۲۹)

ایک بزرگ کی دعا

حضرت عبدالوہاب بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خوبصورت لڑکا دیکھا تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ عرض کیا

اے الہی! یہ ایک گناہ ہے میں اس سے آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور اس سے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ بھی مجھ پر وہی پہلے والا فضل فرمادیں جس کو قدیم اور جدید وقت میں (یعنی ہمیشہ سے) ملاحظہ کرتا ہوں۔

تین قسم کے لواطت کرنے والے

حضرت ابوہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عنقریب اس امت میں ایک قوم ہوگی جن کو لوٹھے باز کہا جائے گا ان کی تین قسمیں ہوں گی (۱) ایک قسم صرف

(۲۸) انظر: تلبیسِ ابلیس لابن الحوزی، ص ۳۲۷۔

(۲۹) انظر: تلبیسِ ابلیس ص ۳۲۸۔

(حسین لڑکوں کو) دیکھنے والی ہوگی (۲) دوسری قسم ان سے ملاقات کرے گی مصافی کرے گی (۳) تیسری قسم یہ گھناؤ نافع کرے گی۔

اولاد کی حفاظت

حضرت ابراہیم حریق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کی برے دوستوں سے حفاظت کرو پہلے اس کے کہ تم ان کو گناہ میں بٹلا کر دو (کیونکہ) سب سے پہلے بچوں میں خرابی ان کے آپس میں شروع ہوتی ہے۔

اشتہار جنت البقیع میں مدفون صحابہ صفحات 272

الروضۃ المستطابة فیمن دفن بالبقيع من الصحابة کا سلیمانیہ
اردو ترجمہ جس میں سیکڑوں صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، امہات المؤمنین، بنات رسول اور اکابر صحابہؓ مع اضافات تابعین، تبع تابعین، اولیاء، امت، اکابر، علماء، دینوبند جو مدینہ پاک کے شان والے قبرستان ”جنت البقیع“ میں مدفون ہیں ان کی نشاندہی اور مختصر تذکرہ اور حالات، حج اور عمرہ کرنے والے حضرات علماء اور عوام کیلئے خاص معلوماتی تحریک۔

باب 15

لڑکوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے والے

لڑکوں کے فتنہ میں بھی بڑے بڑے مبتلا ہوئے ہیں مثال کے طور پر ایک دو واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

حکایت نصبرا:

مامون الرشید (بادشاہ) نے (قاضی یحییٰ بن اثتم) کو دیکھا وہ اس کے ایک خادم کو دیکھ رہا ہے تو اس نے خادم سے کہا جب میں انہوں جاؤں تو تم اس کے پاس چلے جانا میں ابھی وضو کے لئے انہوں گا اور اس (قاضی صاحب) کو کہہ جاؤں گا کہ آپ یہیں پر تشریف رکھیں۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں کہے مجھے بتانا۔ پھر مامون انہوں نے اس کو بھی کہہ دیا اور خادم کو اٹھتے ہوئے آنکھ سے اشارہ کر گیا۔

(تو اس خادم کو) یحییٰ بن اثتم نے کہا کہ اگر تم (حسین) لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو اس خادم نے جا کر مامون کو اس کی خبر کی۔ تو مامون نے اس خادم کو کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور کہو جب ہدایت تمہارے پاس آچکی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روک رکھا ہے؟ بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔

تو خادم اس کے پاس گیا اور اس کو یہ جواب سنایا تو انہوں نے شرم کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور ایسی حالت ہوتی کہ وہ گھبراہٹ میں مر جاتے۔ پھر مامون الرشید یہ شعر پڑھتے ہوئے سامنے آیا۔

متسی تصلیح الدنیا و یصلح اهلها
وقاضی قضاۃ المسلمين یلوط

الْهُوَ اور چلے جاؤ

اللَّهُ سے ذرُوا اور اپنی نیت کو درست کرلو۔

(فائدہ) یہ اور اس طرح کی حکایات حضرت قاضی صاحبؒ کی طرف غلط منسوب ہیں امام ابن کثیرؓ اور علامہ ذہبیؒ نے ان کے متعلق پوری صفائی بیان فرمائی ہے۔ تفصیل کے لئے اس کتاب کا حاشیہ (۳۰) دیکھیں۔ (امداد اللہ)

حکایت نصیرؓ:

حضرت عبد اللہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجہ کے صوفیاء میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے گلی میں ایک لڑکا دیکھا اور اس کی چاہت میں بتلا ہو گئے اور اس کی محبت میں عقل بھی کھو بیٹھے۔ یہ اس لڑکے کے راستے میں جا بیٹھتے تھے اور اس کو آتے جاتے وقت دیکھا کرتے تھے۔ ان کی یہ مصیبت طویل ہو گئی اور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایک قدم چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔

حضرت ابو حمزہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن ان کی عیادت کرنے کو گیا اور پوچھا:

اے ابو حمد! تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تم اس مصیبت میں کیسے پھنس گئے جو میں دیکھ رہا ہوں؟

فرمایا: کچھ وجوہات ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھ سے امتحان لے رہے ہیں

(۳۰) ہو یحییٰ بن اکشم بن محمد، قاضی القضاۃ، الفقیہ العلامہ، أبو محمد التمیمی المروزی، ثم البغدادی، ولد فی خلافة المهدی، وکان من أئمۃ الاجتہاد، وله تصانیف، منها کتاب "التنبیه"۔ قال عنه طلحة بن محمد الشاهد: کان واسع العلم بالفقہ، کثیر الأدب، حسن المعارضۃ، قائلًا بكل مُعْضلةٍ غلب على المأمون، حتى لم يتقدمه عنده أحدٌ مع براءة المأمون في العلم، وكانت الوزراء لا تُبُرِّمُ شيئاً حتى تُراجعَ يحيى۔ ولأه المأمون قضاء بغداد وهو ابن عشرين۔ وکان یُحِبُّ المزاہ، وهو ضعیف فی الحديث، حتى رماه ابن معین بالکذب، وقال ابن راهویہ: ذاك =

میں اس امتحان میں ثابت قدم نہیں رہ سکا اور اس کے برداشت کرنے کی بھی مجھے میں ہمت نہیں تھی۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں۔ (۳۰)

حقیقت یہ ہے کہ جو حرام کی طرف دیکھتا ہے اس کے امراض (یعنی گناہ) بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ رو دئے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو تے ہیں؟ فرمایا: میں ذرر ہا ہوں کہ دوزخ میں میری بد نجتی طویل نہ ہو جائے۔ پھر میں ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا اور جو میں نے ان کی حالت دیکھی اس پر مجھے ترس آ رہا تھا۔

حکایت نمبر ۳:

حضرت محمد بن داؤد (۳۱) اصیہانی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن جامع (۳۲) صیدلاني

=الذَّجَالُ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَنِيدِ: يَسْرُقُ الْحَدِيثَ۔ وَأَمَا مَا سَيَّدَ كَرَهَ
الْمُصْنِفُ مِنْ قَصْصٍ لَهُ مَعَ الْمُرْدَانِ، فَقَدْ قَالَ الْذَّهَبِيُّ: كَانَ عَبْثَهُ بِالْمَرْدَ أَيَّامَ
الشَّبَّيَّةِ، فَلَمَّا شَاخَ أَفْبَلَ عَلَى شَانَهُ، وَبَقِيَتِ الشَّنَاعَةُ، وَكَانَ أَعْوَرُ، وَقَالَ
أَيْضًا: وَدُعَابَةٌ يَحْسِنُ مَعَ الْمَرْدَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ، وَبَعْضُ ذَلِكَ لَا يُبْتَدِئُ، وَكَانَ
ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُشَبِّخَ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنَّا۔ السِّرِّ ۱۰/۱۲-۱۱-۱۰/۱۱۔ قَلَتْ: قَالَ
مُحَقِّقُ السِّرِّ ۱۰/۱۲-۱۱: "وَمَا إِنْخَالَ أَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ تَصْبَعُ عَنْ قَاضٍ
كَبِيرٍ كَبِيرٍ بْنِ أَكْثَمِ الْذِي كَانَ إِمَامًا مِنْ أَئْمَاءِ الاجْتِهَادِ، مَعَاذِفُ الْخَلِيفَةِ
الْمَأْمُونُ - وَهُوَ مَنْ هُوَ عَلِمًا وَمَعْرِفَةً - لَأَنْ يُوَلِّهُ قَضَاءَ بَغْدَادَ، وَلَا سِيمَا
أَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ عَنْنَمَ لَا يُحْتَجُ بِهِمْ... وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرَ
فِي الْبَدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ ۳۱۶/۱۰: كَانَ يَحْسِنُ بْنِ أَكْثَمَ هَذَا مِنْ أَئْمَاءِ، وَعَلِمَاءِ
النَّاسِ وَمِنَ الْمَعْظَمِينَ لِلْفَقْهَ وَالْحَدِيثِ وَاتِّبَاعِ الْأُثْرِ"۔

(۳۱) هو محمد بن داؤد بن علي الظاهري، أبو بكر، قال عنه الذهبي: العلامة، البارع، ذوالفنون، كان أحد من يُضرب المثل بذلك، وهو مصنف كتاب "الزهرة" في الآداب والشعر. قوله بصر نام بالحديث، وبأقوال الصحابة، وكان يحتهد ولا يقلد أحداً. وقال ابن حزم: كان ابن داؤد من أجمل

کی طرف میلان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ محمد بن جامع حمام میں دخل ہوئے اپنے رخ کو سنوارا اور آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھا پھر اس کوڈھانپ لیا اور محمد بن داؤد کی طرف سوار ہو کر چلے۔ جب انہوں نے محمد بن جامع کو چہرہ ڈھانپ ہوئے دیکھا تو ڈر گئے کہ شاید اس کا چہرہ خراب ہو گیا (یعنی اس کا حسن بگز گیا) ہے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ دیر پہلے اپنے چہرہ کو آئینہ میں دیکھا اور ڈھانپ لیا اور میں نے یہ چاہا کہ آپ سے پہلے اس کو اور کوئی نہ دیکھے چنانچہ آپ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ (۳۳)

ابراہیم بن محمد بن عرف نفطويہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد بن داؤد اصحابی

=الناس، وأكرمههم خلقاً، وأبلغهم لساناً، مع الذين والورع، وكل حلقة محمودة، حفظ القرآن وله سبع سنين، وذاكر الرجال بالأداب والشعر وله عشر سنين ... توفي سنة (٢٩٧) هـ انظر: السیر: ١٣/١٠٩، وتاريخ بعدها ٢٥٦/١٥، وفيات الأعيان ٢٥٩/٤.

(۳۲) قال الذهبي في السير ١٣/١٢: كان محمد بن جامع الصيدلاني محبوب محمد بن داود. وكان يُتفق على ابن داود، وما عُرف معاشرُ
يُتفق على عاشقه سواه . . . قلت: في هذا الكلام ثبيت لما ذكره المصنف من أن اسمه محمد بن جامع الصيدلاني، ولكن نقل (١٣)
١١٥-١١٦) أن اسمه: وهب بن جامع بن وهب العطار الصيدلاني،
وذكر ذلك مكررًا. ومما قاله (١١٥/١٣): وهب بن جامع بن وهب
العطار الصيدلاني، صاحب محمد بن داود، كان قد أحبه، وشغف به،
حتى مات من حبه، ومن أجله صَفَّ كتاب: الزهرة . . . وقال
(١١٦/١٣): . . . سمعت وهب بن جامع العطار - صديق ابن داود -
قال: دخلت على المتنقي لله ، فسألته عن أبي بكر بن داود: هل رأيته منه
ما تذكره؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين، إلا أني بت عنده ليلة، فكان يكتشف
عن وجهي ثم يقول: اللهم إنك تعلم إني لأحبه، وإنني لأراقبك فيه . . .

(۳۳) ذكر هذا الذهبي في السير ١٣/١٦، والصفدي في الواقفي بالوفيات
٥٩/٣ باختصار۔

کے پاس اس بیماری کے ایام میں حاضر ہوا جس میں ان کی وفات ہوئی تھی۔

میں نے پوچھا آپ اپنے کو کیسے پاتے ہیں؟

فرمایا: اس کی محبت میں جس نے مجھے اس حالت تک پہنچایا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو۔

میں نے پوچھا پھر آپ کو استمتع کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا حالانکہ آپ اس پر قادر بھی تھے؟ فرمایا وہ نظر جو جائز ہے اس نے مجھے اس حال تک پہنچادیا ہے اور وہ لذت جو منوع ہے اس سے مجھے اس حدیث نے روکا ہے جس کو میرے باپ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

من عشق و کشم و عف و صبر غفر اللہ له وادخله
الجنة. (۳۲)

(ترجمہ) جس نے عشق کیا پھر اس کو چھپایا (کسی کے سامنے ظاہرنہ کیا نہ محبوب کے سامنے نہ دوسرا لوگوں کے سامنے) اور پاکدا من رہا اور صبر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیں۔ گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔

(فائدہ) کاش کہ یہ حضرت شروع ہی میں اپنی نظر کو بچا کے رکھتے تو اس مہلک مصیبت سے جان چھوٹ جاتی لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ حرام صرف بد کاری کرنا ہے۔ دیکھنا بد کاری نہیں (اس لئے نظر بازی کے اتنے بڑے فتنے میں الجھ گئے)۔

(۳۴) الحديث لا يصح عن النبي ﷺ، وسيأتي تحريره وتفصيل الكلام فيه عند الباب الشمان والثلاثين. والقصة في تاريخ بغداد ۲۶۲۵، والسير ۱۱۲۱۳، وروضة المحبين ص ۱۳۵

باب 16

بدنظری کا گناہ اور اس کی سزا

بدنظری کی اچانک سزا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں خون بھاتے ہوئے حاضر ہوا۔ جناب نبی کریم ﷺ نے اس سے پوچھا تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا

میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی میں نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ اس کے بعد میری آنکھ اس کی تاک میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آگئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔

تو جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الله اذا اراد بعد خير اعجل له عقوبته في الدنيا.

(ترجمہ) جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے گناہ کی) سزا دنیا میں دے دیتے ہیں۔

بغیر اجازت گھر میں جھانکنے والے کا حکم

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ وَلَمْ تَذَنْ لَهُ فَخَذْفَتْهُ بِحُصَّاتِهِ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ
مَا كَانَ عَلَيْكَ جَنَاحٌ. (۳۵)

(ترجمہ) اگر کسی ایسے آدمی نے تیرے گھر میں جہان کا جس کی تو نے اس کو
اجازت نہیں دی تھی اور تو نے (اس پر غیرت میں آکر) اس کو پھر مار کر اس
کی آنکھ پھوڑی دی تو (اس کا) تم پر کوئی گناہ (اور سزا) نہ ہوگی۔

لباس کے نیچے کسی عورت کو سوچنا

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی عورت کے بارہ میں اس
کے لباس کے نیچے کے جسم کی حاشیہ آرائی کی (اگر وہ روزہ دار تھا) تو اس نے اپنا
روزہ خراب کر دیا (اگر روزہ دار نہ تھا تو بھی خطرناک گناہ کیا)۔

اندھا ہو گیا

حضرت عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اجنبی عورت کو دیکھا
جس کے حسن نے مجھے حیران کر دیا (تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے) مجھے اندھا
کر دیا میراگمان ہے کہ یہ اسی دیکھنے کی سزا ہے۔

قرآن پاک بھول گیا

ابو عبد اللہ بن الجلاء کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی
لڑ کے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبد اللہ بن جنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور

(۳۵) رواہ البخاری (۶۸۸۸) و (۶۹۰۲)، و مسلم (۲۱۵۸)، و أبو داود (۵۱۷۲)، والنسائی (۴۸۶۱)، وأحمد فی المسند (۵۱۷۲، ۷۲۷۱، ۹۰۹۶، ۸۷۷۱)

پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
 میں نے عرض کیا اے چچا! آپ کا کیا خیال ہے کہ (یہ حسین) صورت (کافر
 ہونے کی وجہ سے) دوزخ میں جلائی جائے گی؟
 تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تم اس (بد نظری کا) و بال
 دیکھو گے اگر چہ کچھ مدت بعد۔

چنانچہ ابن الجلاء فرماتے ہیں میں نے اس کا و بال چالیس (۳۰) سال بعد
 دیکھا کہ مجھے قرآن پاک بھلا دیا گیا۔

غیب کا تھپڑ

حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نہر جوری فرماتے ہیں میں نے طواف کرتے
 ہوئے یک چشم (ایک آنکھ والے) ایک آدمی کو دیکھا جو طواف کے دوران یہ کہہ رہا
 تھا۔

اعوذ بک منک

(ترجمہ) میں آپ سے آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔
 میں نے اس سے پوچھا یہ کیا دعا ہے جو تم مانگ رہے ہو؟

اس نے کہا میں پچاس سال سے (حرم مکہ کا) مجاور ہوں میں نے ایک دن
 ایک شخص کو دیکھا اور اس کو خوبصورت سمجھا تو اچانک ایک تھپڑ میری آنکھ پر آ کر لگا
 جس نے میری آنکھ میرے گال پر بھا دی۔ تو میں نے آہ بھری تو دوسرا تھپڑ رسید ہوا
 اور کسی کہنے والے نے کہا ”اگر تم پھر آہ نکالو گے تو ہم اور لگا میں گے۔“

منہ کالا ہو گیا۔ (عجیب حکایت)

ابو عمرہ بن علوان کہتے ہیں کہ میں کسی کام کو رجبہ بازار میں گیا تو مجھے ایک جنازہ
 نظر آیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل نکلا تاکہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کروں تو

میں دیگر لوگوں کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا گیا پھر اچانک میری نگاہ بلا ارادہ ایک حسین چہرہ عورت پر جا پڑی تو میں نے آنکھیں بھیجنے لیں اور اناللہ وانا الیہ راجعون۔ پڑھا، استغفار کیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ تو مجھے ایک بڑھیا نے کہا اے میرے آقا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کا منہ کالا دیکھ رہی ہوں؟ تو میں نے آئینہ انھا کر دیکھا تو واقعی میرا منہ کالا ہوا چکا تھا۔ پھر میں نے اپنا خیال دوڑایا کہ یہ کالک مجھے کہاں سے لگی ہے تو مجھے وہ ایک مرتبہ کی بدنگاہی یاد آئی تو میں نے خلوت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور چالیس (۳۰) دن تک کی مہلت طلب کی۔ پھر میرے دل میں آیا کہ اپنے شیخ حضرت جنید (بغدادی رحمۃ اللہ علیہ) کی زیارت کروں چنانچہ میں بغداد کو روانہ ہو گیا تو جب میں اس مجرہ کے قریب آیا جس میں وہ قیام پذیر تھے اور دروازہ کھلکھلایا تو آپ نے (بطور کشف) مجھے فرمایا اے ابو عمر و! آجا و تم گناہ تو رجہ بازار میں کرتے ہو اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے بغداد میں آتے ہو۔

سیاہ داغ

حضرت ابو الحسن واعظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو نصر حبیب النجاشی واعظ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں انتقال کر گئے تو ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ ان کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی نکی کی طرح ہے لیکن ان کے چہرہ پر ایک سیاہ داغ ہے۔ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے پوچھا اے جبیب! کیا بات ہے میں آپ کے چہرہ پر یہ سیاہ داغ دیکھ رہا ہوں یہ کیوں ہے؟ فرمایا:

ایک مرتبہ میں بنی عبس کے محلہ میں بصرہ سے میں گزر رہا تھا
میں نے ایک بے ریش لڑکا دیکھا جس نے ایک بار ایک کپڑا
زیب تن کر رکھا تھا اور اس سے اس کا بدن لہلہہ رہا تھا میں نے
اس کو دیکھ لیا۔ پھر جب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوا تو آپ

نے مجھے فرمایا اے حبیب! میں نے عرض کیا لبیک فرمایا اس آگ کو عبور کرو تو میں نے عبور کیا اس سے مجھے آگ کی ایک لپٹ جھلسائی تو میں نے فریاد کرتے ہوئے کہا ”اوہ، تو مجھے ندا فرمائی یہ ایک لپٹ اس ایک لمحہ کے بدلہ میں ہے اگر تم اور زیادہ ملوث ہوتے تو ہم بھی تمہیں اور زیادہ سزا دیتے (اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے)۔

اشتہار منتخب حکایات صفحات 304

امام غزالی اور امام یافعی کی کتب سے منتخب ایسی حکایات جن میں اکابر اولیاء کے مقامات، کرامات، مکاشفات، عبادات اور تعلق مع اللہ کو ذکر کیا گیا ہے اللہ کی طرف کھینچنے والی شاندار کتاب۔

باب 17

خود کو بد نظری کی سزادی بنے والے حضرات

بلا ارادہ نظر پڑنے سے اپنی آنکھ نکال دی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لئے بارش کی دعا کرنے چلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ کے ساتھ کسی خطا کار کے لئے بارش نہیں بر سے گی تو انہوں نے لوگوں کو اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ گناہ گزار ہوں وہ سب چلے جائیں سب لوگ چلے گئے مگر ایک شخص نہ گیا اس شخص کی داہنی آنکھ نہیں تھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں نہیں گئے؟

عرض کیا اے روح اللہ! میں نے ایک پلک جھینکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ایک مرتبہ میں نے آنکھ پھیری اور اپنی اس آنکھ سے ایک عورت کے قدم پر نگاہ پڑ گئی تھی حالانکہ اس کو دیکھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا مگر میں نے اس آنکھ کو بھی باہر نکال دیا اور اگر میں اس کو باعیں آنکھ سے دیکھتا تو اس کو بھی نکال دیتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپڑے حتیٰ کہ ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا۔ تم دعا کرو کیونکہ تم مجھ سے زیادہ دعا کرنے کے مستحق ہو کیونکہ میں تو نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہوں اور تم اس کے بغیر گناہ سے محفوظ ہو۔ چنانچہ وہ شخص آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ اٹھادئے اور عرض کیا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَعْمَلُ مِنْ قَبْلِ إِنْ
تَخْلُقْنَا فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ إِنْ تَخْلُقْنَا فَلَمَا خَلَقْنَا
وَتَكْفُلْتَ بَارِزَ افْنَا فَارِسْلَ السَّمَاءِ عَلَيْنَا مَدْرَارًا.

(ترجمہ) اے اللہ! آپ نے ہمیں پیدا فرمایا حالانکہ آپ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے خوب جانتے تھے کہ ہم کیا عمل کریں گے لیکن پھر بھی ان اعمال نے ہمیں پیدا کرنے سے نہیں روکا تو جس طرح سے آپ نے ہمیں "اپنی مرضی" سے پیدا فرمایا اور ہماری روزیوں کا کفیل ہوا "اسی طرح سے" ہم پر بارش کو بھی خوب بر سادے۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت عیسیٰ کی جان ہے اس شخص کے منہ سے ابھی کلمہ "دعا" پورا بھی نہ نکلا تھا کہ بارش نے اپنی تباہیں ڈھینی کر دیں اور دیہاتیوں اور شہریوں کو سیراب کر دیا۔

(فائدہ) اس طرح کا ایک واقعہ کچھ تغیر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کی طرف بھی منسوب ہے تفصیل کے لئے ہماری کتاب کرامات اولیاء ملاحظہ فرمائیں۔ (امداد اللہ انور)

اعتراض

اگر کوئی یہ کہے کہ اس شخص نے اپنی آنکھ نکال کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے یہ کونسی نیکی ہے جس کا وسیلہ پکڑا جائے؟

جواب

اگر یہ بات درست ہو کہ اس نے اس وجہ سے اپنی آنکھ نکال دی تھی تو یہ ان کی

شریعت میں جائز ہوگا) کیونکہ ان کی شریعتوں کے احکام بہت سخت ہوتے تھے اور ان کی عزیمت کے کام بھی اسی طرح سے سخت ہی ہوں گے اس وجہ سے اس بزرگ نے ایسا عمل کیا ہوگا ورنہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے والا شخص یہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟) لیکن اب یہ ہماری شریعت محمد یہ میں حرام ہے۔

عذاب دینے والی چیز کیوں دیکھیں

حضرت غزوہ ان رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگ میں شریک تھے ان کے سامنے ایک لڑکی آگئی آپ نے اس کو دیکھ لیا پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھ کو ایک چپت لگائی کہ وہ لڑکی (بھی خوف کے مارے) بھاگ گئی اور انہوں نے اپنی آنکھ کو مناطب کر کے فرمایا: (کہ خبردار) تو اس چیز کو دیکھتی ہے جو تجھے (آخرت میں) مصیبت میں ڈال دے گی۔

رورو کر آنکھیں کھو بیٹھے

حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عبادت خانہ تھا اس میں عابدوں کی ایک جماعت رہا کرتی تھی اور یہ ایک عید کے موقع پر جمع ہوا کرتے تھے چنانچہ وہ ایک دن عید میں شرکت کے لئے نکلے۔ ان عابدین میں سے ایک نے ایک نیک عبادت گزار خاتون کو دیکھا تو اپنی نظر کو اس پر نکا دیا جب اس خاتون نے اس کو دیکھا تو بغیر اس خیال کے کہ وہ اس کو چاہتا ہے یہ کہا "پاک ہے وہ ذات جس نے آنکھوں کو روشن کیا اور وہ دیکھنے کے قابل ہو میں لیکن وہ حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے میں مصروف ہو گئیں (یہ سنتے ہی) وہ عابد منہ کے بل سجدہ میں جا پڑا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ

اے میرے اللہ میں نے جو (یہ غلط) نگاہ ڈالی ہے اس کی سزا

میں میری بینائی سلب نہ کرنا۔ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں اس کواب کے بعد اتنا رلاوں گا جتنی اس میں رونے کی طاقت ہے چاہے یہ ختم ہو جائے۔ پھر وہ روتار ہاتھی کہنا پینا ہو گیا۔

اشتہار

نفیس پھول

صفحات تقریباً 448

امام ابن جوزیؒ کی کتاب ”صید الخاطر“ کا ایک جلد میں سلیس اور مکمل اردو ترجمہ، سینکڑوں علمی مضامین کے گرد گھومتی ہوئی ایک اچھوتی تحریر، قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، تصوف، تاریخ، خطابت، مواعظ، اخلاقیات، ترغیب و تہذیب، دنیا اور آخرت جیسے عظیم اسلامی مضامین کا تخلیقی شہ پارہ جس کو امام ابن جوزیؒ اپنی ستر سالہ علمی اور تجرباتی فکر و نظر کے ساتھ دوران تصنیف و تالیف جمع فرماتے رہے، اس کتاب کا حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالجید انور نے ترجمہ کیا ہے اور نظر ثانی اور تسلیم حضرت مولانا مفتی محمد امداد اللہ انور دامت برکاتہم نے کی ہے۔

باب 18

نظر کے فتنہ سے حفاظت کے لئے بینائی
چھین لینے کی دعا کرنے والے

حکایت:

حضرت یوسف بن یوسف بن جماس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک عورت گزری اور ان کے دل میں اتر گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی (کہ ان کی بینائی چھین لے) اچنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد یہ ایک زمانہ تک اسی حالت میں مسجد تک آتے رہے کہ کوئی شخص ان کو مسجد تک لے جاتا اور لے آتا تھا۔ پھر ان کے دل میں کچھ تحریکی پیدا ہوئی جب کہ ان کو واپس لے جانے والا آدمی وہاں سے چلا گیا تھا اور ان کو ایسا کوئی شخص نہ ملا جو ان کو ان کے گھر تک چھوڑ جائے۔ تو یہ مسجد سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے بینائی کی واپسی کی دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی درست کر دی پھر وہ اپنے انتقال تک تمام عرصہ میں سلامتی نگاہ کے ساتھ زندہ رہے۔

(فائدہ) امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر بھی کئی حضرات کے اس طرح کے واقعات ذکر کئے ہیں، ہم نے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف ایک واقعہ کا ترجمہ لکھ دیا ہے تفصیل کے خواہ شمند حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

باب 19

حافظت نظر کا انعام

حافظت نظر سے لذت عبادت

(حدیث) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

النظرة الاولی خطأ والثانية عمدو الثالثه تدمير نظر الرجل الى محسن المرأة سهم من سهام ابلیس مسموم من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده اثابه الله بذلك عبادة تبلغه لذتها۔ (۳۶)

(ترجمہ) پہلی بار دیکھنا غلطی ہے دوسری بار دیکھنا جان کر گناہ کرنا ہے تیری بار دیکھنا ہلاکت ہے۔ انسان کا عورت کے جسمانی محسن (چہرہ بال ہاتھ پاؤں وغیرہ) دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہرآلود تیر ہے جس مسلمان نے اس کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے پاس موجود انعامات کے حاصل کرنے کی امید میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے جو اس کو اپنی عبادت اور نظر کی پاکیزگی کا مزہ نصیب کرے گی۔

(۳۶) حدیث موضوع، فيه: أبو مهدی سعید بن منان الحنفی الحمصی: متrock، ورمah الدارقطنی وغیره بالوضع۔ التقریب (۲۳۲۳)۔

قیامت میں نہ رونے والی آنکھ

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کل عین باکیۃ یوم القيامۃ الاعین غضت عن محارم الله و عین سہرت فی سبیل الله و عین یخرج منها مثل راس الذباب من خشیة الله. (۳۷)

(ترجمہ) قیامت کے دن ہر آنکھ (اپنے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے) رونے والی ہو گئی سوائے اس آنکھ کے جس کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء (کو دیکھنے کے وقت) بند کر دیا گیا ہوا اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کے راستہ میں (یعنی جہاد میں خدمت اسلام میں) جا گئی رہی ہو۔ اور سوائے اس آنکھ کے جس سے کمھی کے سر کے برابر اللہ تعالیٰ کے خوف سے (آنسو کا قطرہ) گرا ہو۔

حافظت نظر سے محبت الہی

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

(۳۷) حدیث ضعیف۔ عزاه السیوطی فی الجامع الصغیر ۲۷۱۵ لأبی نعیم فی الحلیۃ۔ قلت: فی إسناده: - عمر بن سهل بن مروان المازنی التمیمی: صدوق یخطی۔ التقریب (۴۹۱۴)۔ - و عمر بن چہبان، و یقال: اسم أبیه محمد، الأسلمی، أبو جعفر العدنی: ضعیف۔ التقریب (۴۹۲۳)۔ - و انظر ضعیف الجامع (۴۲۴۳)۔

عظمیم حکایت:

حافظت نظر نے بڑا ولی بنادیا

حضرت ابراہیم بن مہلہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعلبیہ اور خزینیہ کے درمیان ایک جوان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا وہ لوگوں سے الگ تھلگ تھا میں نے اس کے نماز پورا کرنے تک اس کی انتظار کی جب اس نے نماز پوری کر لی تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مددگار غمگشان نہیں ہے (کہ تو جنگل میں اکیلا عبادت کر رہا ہے) اس نے کہا کیوں نہیں۔
میں نے کہا وہ کہاں ہے؟

اس نے کہا وہ میرے سامنے بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے
میرے پیچھے بھی ہے میرے دابنے بھی ہے میرے باہم بھی
ہے اور میرے اوپر بھی ہے۔

تو مجھے علم ہو گیا کہ اس شخص کے پاس معرفت خداوندی موجود ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا آپ کے پاس تو شہ سفر نہیں ہے؟
اس نے کہا کیوں نہیں۔
میں نے کہا وہ کہاں ہے؟

اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اور اس کی توحید اور اس کے نبی ﷺ (کی نبوت) کا اقرار کرنا اور ایمان صادق اور مضبوط توکل۔

میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ فرمایا:
دوست مجھے اللہ تعالیٰ سے چھڑا کر اپنے ساتھ مشغول کر دے گا اس لئے میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کی رفاقت میں رہوں اور ایک پلک جھکنے کی دیر جتنا بھی اس سے

غافل رہوں۔

میں نے پوچھا کیا آپ اس جنگل میں اکسلے گھبرا تے نہیں؟ فرمایا:
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس قائم کرنے نے مجھے ہر قسم کے خوف سے محفوظ کر دیا
ہے اب اگر میں درندوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہوں تو بھی ان سے گھبرا تا اور ڈرتا
نہیں ہوں۔

میں نے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا:
جس نے مجھے رحم کے اندر ہیرے میں، بچپن میں غذا کھلائی بڑی عمر میں بھی وہی
میرے رزق کا کفیل ہے۔

میں نے پوچھا آپ کے پاس کس وقت اسباب ضرورت پڑتے ہیں؟ فرمایا:
ضرورت کا مجھے علم ہے اور اس کے وقت کو بھی جانتا ہوں جب مجھے کھانے کی
ضرورت ہوتی ہے تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں کھانا پالیتا ہوں۔ وہ ذات میری
ضرورت کا بخوبی علم رکھتی ہے وہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔

میں نے پوچھا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟

فرمایا: باں

میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا:
اب جب آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میرے ساتھ کلام نہ کرنا اور کسی کام نہ کرنا
کہ تو مجھے جانتا ہے۔

میں نے پوچھا آپ کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے؟

فرمایا: باں

میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا:

اگر توفیق ہو تو مجھے اپنی دعا میں نہ بھلانا اور جب آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو
اس وقت بھی میرے حق میں دعا کر سکو تو کر لینا۔

میں نے کہا میرے جیسا آپ جیسے کے لئے کیا دعا کر سکتا ہے؟ آپ تو خوف

خداوندی اور توکل کے اعتبار سے مجھ سے افضل ہیں۔

فرمایا تم یہ نہ کہو کیونکہ میں کم عمر ہوں اور آپ مجھ سے بڑے ہیں آپ نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی نمازیں ادا کی ہیں اور آپ پر اسلام کا حق بھی ہے اور آپ کو ایمان کی معرفت بھی حاصل ہے۔

میں نے کہا میری بھی ایک حاجت ہے۔

اس نے کہا وہ کیا ہے؟

میں نے کہا آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس نے میرے لئے یہ دعا کی:

اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور تیرے دل کو ایسا فکر نصیب کرے جس میں اس کی رضا حاصل ہوتی ہو یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے سوا تیرا کوئی اور مطلوب و مقصود نہ رہے۔

میں نے کہا اے میرے دوست میں آپ کو کہاں ملوں گا اور کہاں تلاش کریں گا؟ فرمایا

دنیا میں تو خود کو میری ملاقات کا شو قین نہ بنانا آخرت میں تو کیونکہ جمع ہی متყین کا ہوگا (اس لئے وہاں پر ہی ہماری ملاقات ہوگی) جن چیزوں کا تجھے حکم دیا گیا ہے یا تیرے لئے مند و ب کیا گیا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر تو میری ملاقات کو چاہے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے والے حضرات کے جمع میں تلاش کر لینا۔

میں نے پوچھا آپ اس درجہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا:

ہر حرام کردہ چیز سے اپنی آنکھ کی حفاظت کر کے اور ہر منکر اور گناہ سے اجتناب کر کے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی

ہے کہ وہ میری جنت بس اپنے دیدار ہی کو مقرر فرمادے۔
 پھر اس نے ایک چیخ ماری اور تیز تیز دوڑ نے لگا حتیٰ کہ میری نظروں سے
 غائب ہو گیا۔

اشتہار عبادت سے ولایت تک صفحات 176

بدایۃ الہدایۃ امام غزالی کا ترجمہ
 روحانی اور جسمانی عبادات کے ان طریقوں اور آداب کا بیان جن پر عمل
 کرنے سے آدمی کی عبادات میں روحانیت کی جان پیدا ہو جاتی ہے اور
 عبادات میں لطف آتا ہے، ہر شخص اللہ کی ولایت کا خواہاں ہے لیکن اس
 پر عمل کا طریقہ اس کو عموماً معلوم نہیں ہوتا اس کتاب میں ایسے ہی طریقوں
 کا بیان ہے جن پر عمل کر کے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو سکتی ہے
 اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

باب 20

بدنگاہی سے پیدا ہونے والے اثرات کا اعلان

جب پہلی ہی نظر میں نگاہ کو پابند کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کر لیں گے تو بے شمار آفات سے نجات حاصل ہوگی اور اگر بار بار بدنگاہی میں بتلا ہوں گے تو نظر نے جو کچھ دل میں تھم ریزی کی ہوگی اس کو نیست و نابود کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جب بدنگاہی ہو جائے تو اس کی گہرائی میں نہ جائیں اس کے نتائج بد کی فکر کریں اور اللہ کا خوف دل میں لا لیں۔

حضرت ابو تراب نخشنی فرماتے ہیں:

اپنے غلط ارادوں کو کثروں میں رکھو یہ گناہوں کا پیش خیسہ ہیں
جس کے ارادے درست ہو گئے اس کے بعد کے افعال و
احوال بھی درست ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابوالعباس بن مسروق فرماتے ہیں جس نے اپنے دل کے ارادوں میں اللہ کا دھیان رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی حرکات کی حفاظت فرمایا (اس کو گناہوں سے بچا) لیں گے۔

باب 21

عورت کو دیکھ کر بیجان ہو تو کیا کریں؟ (۳۸)

(حدیث) حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فاعجبته فليات أهله فإن ذلك يبرد مما في نفسه. (مسلم)۔ (۳۹)

(ترجمہ) عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھا کرتی ہے پس جب تم میں سے کوئی شخص کسی (ابنی) عورت کو دیکھ لے اور وہ اس کو بیجان میں ڈال دے تو وہ شخص اپنی بیوی کے پاس چلا جائے (اور اس سے جماع کر لے) کیونکہ یہ طریقہ اس کے نفس میں موجود (شہوت) کو ٹھنڈا کر دے گا۔

(فائدہ) عورت کا شیطان کی صورت میں سامنے آنے یا پیچھا کرنے کا مطلب یہ

(۳۸) انظر في هذه المسألة: روضة المحبين ص ۱۱۳، والحواب الكافي ص ۵۴۲، وأحكام النظر إلى المحرمات، لابن حبيب العامري ص ۶۴، وشرح النووي على صحيح مسلم ص ۱۸۷/۹۔

(۳۹) رواه مسلم (۱۴۰۳)، وأبو داود (۲۱۵۱)، والترمذی (۱۱۵۸)، والنسائی في عشرة النساء من سننه الكبرى، كما في تحفة الأشراف ۳۵۰/۲، وأحمد في المسند ۳۳۰/۳ و ۳۴۱ و ۳۹۵، والبيهقي في سننه الكبرى ۹۰/۸، وابن حبان في صحيحه (۵۵۷۲-۵۵۷۳)۔

ہے کہ اس کے دیکھنے سے شیطانی شرارتیں ابھرتی ہیں اور شیطان کو انسان کے بھکانے کا موقع ملتا ہے۔

اشتخار محبوب کا حسن و جمال صفحات 256

محبوب کائنات حضرت محمد ﷺ کی صورت و سیرت کے وہ تمام پہلو جن کے مطالعہ سے آپ ﷺ کی شکل و شباءحت کا عمدہ طریقہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور سیرت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بیسیوں عنوانات پر خصائص شامل پر مشتمل کتب سے محبت رسول ﷺ کا بہترین مجموعہ مفتی محمد سلیمان کے قلم اور مفتی امداد اللہ انور صاحب کی نظر ثانی اور پیش لفظ کے ساتھ۔

باب 22

اجنبی عورت کے ساتھ تہائی حرام ہے (۳۰)

اجنبی مرد عورت کے ساتھ تیرا شیطان ہوتا ہے

(حدیث) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بأمرأة ليس معها ذو
حرم منها فان ثالثهما شيطان۔ (۳۱)

(ترجمہ) جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی (اجنبی) عورت کے ساتھ تہائی ہو جس کے ساتھ اس کا کوئی محروم نہ ہو کیونکہ ان دو کے ساتھ تیرا شیطان ہوتا ہے۔

(۴۰) إن هذا الباب عظيم الشـ... وما يضمنه من الأحاديث والأخبار خير دليل على تبيان خطر ما يدعى إليه العلمانيون والمتخلّلون من الاختلاط ونحوه، وبطلان وفساد دعواهم، كما يُشير بأصابع الاتهام لتلك الدعوات الزائفة - والتي تخرج باسم الإسلام والدين - من إباحة التخلوة بالنساء، والنظر إليهنّ، بدعوى الأمان من الفتنة تارة، والأخوة في الله تارة، ويقولون: ما ذلك إلا لتعليم الدين ونشره - زعموا - ، بل هو الشيطان يُسَوِّل لهم الفاحشة ويغرسها إليه، وقد نال منهم نيلًا عظيماً، حين أفتوا بحواز تعطر المرأة وخر وجهها بين الرجال الأجانب، وحين أفتوا بأن مباشرة الرجل للمرأة الأجنبية التي لا تحلّ له من الصغار التي تكفرها الصلاة ... إلى غير ذلك من الفتاوی الضالة المضللة. فكيف يُدعى إلى =

(حدیث) حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يخلونَ رجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمُحْرَمٍ إِلَّا هُمْ أَوْهَمُتْ بِهِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَا صَالِحِينَ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ مَرِيمَ بْنَتُ عُمَرَانَ وَيَحْيَى بْنَ زَكْرِيَّاً. (۳۲)

(ترجمہ) کوئی شخص کسی اجنبی) عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہوتہ ای اختیار نہ کرے ورنہ یا تو مردگناہ کا ارادہ کر بیٹھے گا یا عورت۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ دونوں نیک بزرگ بھی ہوں؟ فرمایا: اگرچہ وہ مریم بنت عمران (حضرت عیسیٰ کی والدہ) اور حضرت یحیٰ بن زکریا علیہ السلام بھی کیوں نہ ہوں۔

مثل هذه الأمور وتباع شرعاً والنحو من هي، وشهوات الإنسان وأعداؤه من شياطين الإنس والجن هم هم، والمرأة هي هي قد يداها وحديثاً. فلا جديد في هذا الموضوع، والأحكام التي تخصه غير قابلة للتغيير والتبدل - وإن تغير العصر وتتطور - وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع انظر: إعلام الموقعين ۱۳۹/۳-۱۵۱، ومقدمة الشیخ مشهور حسن سلمان على رسالته "أحكام النظر إلى المحرمات" لابن حبيب العامري ص ۱۷-۱۳، ورسالة محمد بن لطفی الصباغ: "تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية" -

(۴۱) حدیث حسن بشواهدہ۔ رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۴۲۴) وفيه: ابن لهيعة، وضعفه معروف مشهور۔ وأبو الزبير: مدلیس وقد عننه۔ ولكن يشهد للحديث ما تقدم وما يأتي فيرتقى بهم إلى الحسن لغيره۔

(۴۲) حدیث واه بمرة إن لم يكن موضوعاً، فيه: موسى بن إبراهيم المرزوقي، أبو عمران: كذبه يحيى بن معين، وقال الدارقطني وغيره: متروك۔ انظر: ميزان الاعتدال ۱۹۹/۴۔ وعبد الله بن لهيعة ضعيف من جهة حفظه كما هو معلوم۔

تین چیزوں سے ہمیشہ بچو

حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین چیزوں میں اپنے آپ کو کبھی بتلانہ کرو۔

(۱) بادشاہ کے پاس ہرگز نہ جاؤ اگرچہ تم کہو کہ میں اس کو اطاعت خداوندی کا حکم کروں گا۔ (۲) کسی اجنبی عورت کے پاس نہ جاؤ اگرچہ تم کہو کہ میں اس کو قرآن پاک کی تعلیم دوں گا۔ (۳) اپنے کان کسی بھی خواہش پرست کی طرف متوجہ نہ کرو آپ کو کیا معلوم کہ اس کی کوئی بات آپ کے دل کو قابو میں کر لے۔

خود کو معصوم جاننے والوں کے لئے عبرت

(بہت بڑے بزرگ) حضرت ابوالقاسم بن نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ عورتوں سے مجلس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے سے بچے ہوئے ہیں۔ (کیا یہ درست ہے)؟ فرمایا جب تک مرد عورت باقی ہیں امر و نہیں بھی باقی ہے اور حلال و حرام کا حکم بھی ان سے مخاطب ہے شہہات (کے مقامات) پر وہی جرأت کر سکتا ہے جو محترمات میں بتلا ہوتا ہو۔

باب 23

عورتوں کے فتنہ کی خطرناکیاں

خطرناک فتنہ

(حدیث) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما ترکت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء۔ (۲۳)

(ترجمہ) میرے بعد مردوں کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں سے زیاد کوئی اور نہ ہوگا۔

(حدیث) حضرت ابو سعید خدرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الدنيا حلوة خضرة وان الله عزوجل مستخلفكم فيها لينظر
كيف عملون فاتقو الدنيا واتقو النساء وان اول فتنة بنى اسرائيل
كانت في النساء۔ (۲۴)

(۴۳) رواه البخاري (۵۰۹۶)، ومسلم (۲۷۴۰)، والترمذی (۲۷۸۰) عن
أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل، وابن ماجه (۳۹۹۸)،
وأحمد في المسند (۲۱۳۳۲، ۲۱۲۶۳۹)۔

(۴۴) رواه مسلم (۲۷۴۲)، والترمذی (۲۱۹۱)، والنمسائي في عشرة النساء،
كما في تحفة الأشراف (۴۶۳۳)، وابن ماجه (۴۰۰۰)، وأحمد في
المسند (۱۰۷۵۹، ۱۰۷۸۵، ۱۰۷۵۴، ۱۱۰۳۴، ۱۱۱۹۳)، والقضاعي في
مسند الشهاب (۱۱۴۱)، وابن حبان في صحيحه (۳۲۲۱)۔

(ترجمہ) دنیا دل پسند بزر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے کہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟، تم دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے اٹھا تھا۔

آنحضرت عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے

حضرت امیمہ بنت رقیۃ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چند عورتیں بیعت ہونے کے لئے آئیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انی لا اصافح النساء. (۳۵)

میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا

عورتوں کو اب گھروں سے باہر نکلنا درست نہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ دیکھتے کہ عورتوں نے آج کیا کر رکھا ہے تو آپ ان کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع فرمادیتے یا ان کا باہر نکلنا حرام قرار دے دیتے۔ (۳۶)

(۴۵) حدیث صحیح، روایہ کلہم ثقات۔ روایہ النسائی (۴۱۸۱)، وابن ماجہ (۲۸۷۴)، والیام مالک فی الموطا (۲) ۹۸۲/۲ - ۹۸۳، وأحمد فی المسند (۲۶۴۶۶، ۲۶۴۶۹، ۲۶۴۶۸، ۲۶۴۷۰)۔

(۴۶) روایہ بهذا اللفظ الإمام أحمد فی المسند (۲۵۴۲۶) وروایہ کلہم ثقات۔ وروایہ بلفظ : "لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمعهنَّ كما مُبَعَّت نساءُ بنى إسرائيل۔ قلتْ لعمرَة: أَوْمَيْنَ؟ قالتْ: نعم"۔ البخاري (۸۶۹)، ومسلم (۴۴۵)، وأبو داود (۵۶۹)، ومالك فی الموطا (۴۶۷)، وأحمد (۲۵۰۸۱، ۲۵۴۵۱)۔

شیطان کے فتنے اور مکاریاں

زنماں میں پھنسنے والے عابد کا عبر تناؤ کقصہ

حضرت وہب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانہ کے عابدوں سے زیادہ عبادت گزار تھا اس کے زمانہ میں تین بھائی تھے جن کی ایک کنواری بہن بھی تھی ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کی حفاظت میں چھوڑ جائیں کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ نہ تھا تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑتے ہیں چنانچہ یہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں یہ آپ کے پاس رہے گی لیکن عابد نے اس سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے (لڑکی کے اور اس کے بھائیوں کے بارہ میں) پناہ مانگی مگر وہ بھی لپٹنے رہے حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ اس کو میرے عبادت خانہ کے سامنے والے گھر میں نہ ہبڑا دو چنانچہ انہوں نے اس کو اس میں نہ ہبڑا دیا اور چھوڑ کر چلے آئے اور یہ لڑکی ایک عرصہ تک اس عابد کے پڑوس میں رہی یہ عابد اپنے عبادت خانہ کے دروازہ پر کھانا لٹکا کر اتار دیتا تھا پھر اپنا دروازہ بند کر کے اپنی عبادت گاہ میں جا بیٹھتا تھا پھر اس کو اطلاع کرتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کھانے کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔

شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی سی ڈالی اور اس کے دل میں خیر کی ترغیب دیتا رہا اور کہا کرتا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں اور عابد کو اس

سے ڈراتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے پاس نکل کر کھانا لے جاتے رہتے تو اسے ولی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق نہ ہو جائے اس لئے آپ چل کر اس گھر کے دروازہ پر کھانا رکھ آیا کریں اس میں آپ کو زیادہ ثواب ہو گا چنانچہ وہ اس کھانا لے کر اس کے دروازہ پر جا کر رکھ آتا تھا مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا اور اسی طرح سے ایک عرصہ گذر گیا۔

پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور نیکی اور اجر کی ترغیب اور لائق دلا کر کہا کاش کہ آپ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کا کھانا رکھ آیا کریں تو اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ہو۔ چنانچہ وہ اس کا کھانا لے کر اس کے گھر میں لے جا کر رکھنے لگا اور اس طرح سے ایک عرصہ گذر گیا پھر ایک مرتبہ اس کے پاس شیطان آیا اور اس کو نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا کاش کہ آپ اس سے کچھ کلام کرتے اور باتیں کرتے اور وہ آپ کی باتوں سے مانوس ہوتی وہ اکیلے رہ رہ کر بہت پریشان ہو گئی ہے چنانچہ وہ ایک عرصہ تک اس سے باتیں کرتا رہا اور (اس کو مانوس کرنے کے لئے) اپنے عبادت خانہ سے اس کی طرف جھاٹک لیتا تھا۔

اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانہ کے دروازہ پر بیٹھتے اور وہ اپنے گھر کے دروازہ پر بیٹھتی اور وہ تم سے باتیں کرتی اور اس سے اس کو کچھ زیادہ انس ہوتا چنانچہ شیطان نے اس کو گرجا گھر کے دروازہ پر بٹھایا اور لڑکی کو اس کے گھر کے دروازہ پر بٹھایا اور یہ دونوں ایک عرصہ تک آپس میں باتیں کرتے تھے پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانہ سے نکل کر اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے تو اس کو اس سے زیادہ انس حاصل ہوتا تو اس نے یہ بھی کرڈا اور ایک عرصہ تک یہی صورت رہی پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے دروازہ کے پاس ہو جاتے پھر کہا کاش آپ اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے تو اور

بھی بہتر ہو گا۔

چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اور سارا سارا دن اس سے باقی میں مصروف رہنے لگا جب شام ہوتی تو یہ اپنے عبادت خانہ میں لوٹ جاتا اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب وزینت دل نشین کرنے لگا حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ دیا پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا اور اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتنا نہ لگا اور اس کے نفس کو ابھارنے لگا حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور وہ حاملہ ہوئی اور ایک لڑکا پیدا ہوا پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے جس نے تیرا بچہ جانا ہے وہ تیرا کیا حشر کریں گے؟ مجھے امید نہیں ہے کہ تو شرمندہ نہ ہو اور نہ وہ تمہیں شرمندہ کریں تم جا کر اس کے بیٹے کو ذبح کر کے دفن کر دو یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے خوف کے مارے اس گناہ کو چھپا لے گی۔

چنانچہ اس نے لڑکے کو قتل کر دیا پھر شیطان نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے جو کرتوت کیا ہے اس کو یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرے گی؟ تم اس کو بھی پکڑ کر ذبح کر دو اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دو چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور اس کے لڑکے کے ساتھ اس کو بھی ایک گز ہے میں ڈالا اور اوپر سے بڑی چٹان رکھ دی اور ان پر زمین کو برابر کر دیا پھر اپنے عبادت خانہ میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا اس طرح سے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ (عبادت میں) لگا رہا حتیٰ کہ اس کے بھائی جنگ سے فارغ ہوئے اور اس کے پاس آ کر اپنی بہن کا مطالبه کیا تو اس نے ان سے تعزیت کی۔ لڑکی کے لئے دعا کے جملے کہے اور صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے روئے لگا اور کہا وہ نیک خاتون تھیں یہ اس کی آخری آرام گاہ ہے یہ دیکھو۔ تو اس کے بھائی اس کی قبر پر آئے افسوس کیا اور ایک دن تک اس کی قبر پر رہے پھر گھروں میں لوٹ گئے۔

جب رات ہوئی اور یہ اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو شیطان ان کے پاس

آیا سب سے پہلے بڑے کے پاس آیا اور اس سے اس کی بہن کا پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو عابد نے دیا تھا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے تو شیطان نے اس بات کو جھٹلا کر کہا میں تو تمہاری بہن کے قضیہ کی تصدیق نہیں کرتا اس عابد نے تمہاری بہن کو حاملہ کیا اس کا بچہ جنا پھر اپنی جان بچانے کے لئے اس عابد نے اس لڑکے سمیت ذبح کیا اور گھر کے دروازہ کے پیچھے دفن کر دیا پھر شیطان درمیانے والے بھائی کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا پھر چھوٹے کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا۔

جب یہ بھائی اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھے چنانچہ جب یہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے گئے اور کہنے لگے میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے تو بڑے بھائی نے کہا یہ کوئی جھوٹا خواب ہے۔ بے حقیقت ہے چلو چھوڑ ولیکن چھوٹے نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا میں اس جگہ پر جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا چنانچہ وہ (تینوں) چل پڑے اس جگہ کو تلاش کیا اور اپنی بہن کو اس کے بچہ سمیت ذبح شدہ پایا پھر اس کے بارے میں عابد سے پوچھا تو ابلیس کی بات کی تصدیق ہو گئی جو اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان بھائیوں نے اس کا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اس عابد کو اس کے عبادات خانہ سے گرفتار کیا گیا اور سوی چڑھانے کیلئے لے گئے جب اس کو سوی کی لکڑی پر کھڑا کیا ہے تو اس وقت شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا تو جانتا ہے میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کے فتنہ میں مبتلا کیا اور تو نے حاملہ کر کے اس کو اور اس کے بیٹے کو ذبح کیا اگر آج تم میری پیروی کرو اور اس اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں اس مصیبت سے نجات دلادوں گا جس میں تم پھنس گئے ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا جب اس نے یہ کفر کیا تو شیطان اس سے اور اس کے دشمنوں کے سامنے ہٹ گیا کیونکہ وہ اس کو گمراہ کرنے کا اپنا مکروہ مقصد پورا کر چکا تھا اور اس کو سوی دے دی گئی۔

اسی موقع لے لئے یہ آیت نازل ہوئی:

كَمَثَلِ الشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْأُنْسَانَ أَكُفْرُكُ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ رَبِّيْ بِرَبِّيْ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ^۱
فَكَانَ عَاقِبَةُ هُمَا هَنَّهُمَا فِي النَّارِ حَالِدَيْنِ فِيهَا وَذِلِكَ
جَرَأَةُ الظَّالِمِينَ^۲

(۱) جیسے شیطان کی مثال ہے جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ نہ رلو تو جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے (اب) میں تم سے بری ہوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ان دونوں (یعنی شیطان اور کافر ہونے والے) کی سزا یہ ہے کہ یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے اس میں (یہ) ہمیشہ رہیں گے۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ (سورۃ الحشر: ۱۶-۱۷)

اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے غور فرمائیں اس عابد نے اپنے نفس پر اعتماد کیا۔ اللہ تعالیٰ مے منع کرنے سے باز نہ آیا۔ اجنبی عورت سے کلام بھی کی اور خلوت بھی۔ اس کا یہ ہوا کہ وہ خود کو ہلاکت میں بتلا کر بینھا۔ اگر وہ اپنے طبیب (اللہ تعالیٰ) کی نصیحت پر عمل کرتا تو کبھی بھی اس کا یہ بر انجام نہ ہوتا۔

نوٹ: کاش کہ یہ عابد عالم بھی ہوتا اور اس کے ساتھ اللہ کی دلگیری بھی شامل ہوتی تو اس عابد کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل کے ساتھ محفوظ رکھے۔ (متراجم)

عورت کو دیکھ کر صبر نہیں ہوتا

حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الہبی ”وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا“، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو صبر نہیں کر سکتا (۲۷)

(حالانکہ یہی اس کا امتحان ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشاتِ نفس سے محفوظ کر کے صفاتِ ملکوتی سے اپنے آپ کو موصوف کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے درجات پائے)۔

خطرناک امانت

حضرت یوسف بن اس باط رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا مال بطور امانت میرے پاس رکھے تو مجھے امید ہے کہ میں اس کو مالک تک صحیح سلامت لوٹا سکوں گا۔ اور اگر کوئی جبشی عورت بطور امانت میرے پاس رکھی جائے اور میں اس کے ساتھ ایک گھری کیلئے تہائی پالوں تو میں اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔

حضرت سفیان ثوریؓ کی احتیاط

حضرت امام سفیان ثوریؓ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں؟
آپ نے فرمایا پہلے دروازہ بند کرو پھر اس کے پیچھے جا کر مجھ سے بات کرو۔

ابلیس کا نشانہ پر بیٹھنے والا تیر

ابلیس کہتا ہے عورت میں میرا ایسا تیر ہیں جب میں ان کو استعمال کروں تو وہ ٹھیک نشانہ پر بیٹھتا ہے۔

(٤٧) عزاء السیوطی فی الدر المصور ٢٥٧/٢، للخرائطي في اعتلال القلوب۔
وورد عن طاوس لفظ آخر حيث قال عن الآية، في أمر النساء ليس يكود
الإنسان في شيء أضعف منه في النساء، قال وكيع: يذهب عقله عندهن۔
عزاء السیوطی لعبد الرزاق وابن حبیر وابن الصندر وابن أبي حاتم عن
طاوس۔

باب 25

گناہ اور ان کے اثرات بد سے احتیاط

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا هُدَى لِغَيْرِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَذِكَ حَرَمُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ (بخاری، مسلم)۔ (۲۸)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اسی وجہ سے اللہ نے
ظاہری اور پوشیدہ بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے (اس لئے بدکاریوں میں بتلا
ہو کر اللہ کی غیرت کو چیخ نہ کریں ورنہ کسی وقت بھی اللہ کی گرفت میں آسکتے
ہیں)۔

(حدیث) حضرت ابو شعلہؓ شنبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرِضَ فِرَانِصَ فَلَا تَضِيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا
تَعْتَدُوهَا، وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنِ الْأَشْيَاءِ رَحْمَةً لَا عَنِ
نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا۔ (۲۹)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں تم ان کو ضائع مت

(۴۸) رواه البخاري (۴۶۳۴) و (۵۲۲۰)، ومسلم (۲۷۶۰)، والترمذی (۳۵۳۰)،
والدارمی (۲۲۲۵)، وأحمد في المسند (۳۶۰۵ - ۴۰۳۴ - ۴۱۴۲)۔

(۴۹) عَرَاهُ الْبَهِيمِيُّ فِي مُجْمِعِ الزَّوَافَدِ ۱۷۱۱ للطبراني في الكبير، وقال: ”
وَرَجَالَهُ رِجَالٌ الصَّحِيفَ“۔

کرنا، اور کچھ حدود مقرر کی ہیں ان کو مت پھلانگنا، اور کچھ اشیاء حرام فرمائی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور کچھ باتوں میں رحمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے یہ اللہ کے نیان کی وجہ سے نہیں ہے تم ان کی کھود کرید میں نہ الجھنا۔

(حدیث) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان للحسنة نورا في القلب وزينة في الوجه وقوه في العمل، وان للخطيئة سوادا في القلب ووهنا في العمل وشينا في الوجه. (۵۰)
(ترجمہ) نیکی کا دل میں نور ہوتا ہے، چہرہ میں رونق ہوتی ہے اور عمل میں قوت ہوتی ہے۔ اور گناہ سے دل میں سیاہی ہوتی ہے، عمل میں سستی ہوتی ہے اور چہرہ میں بد نمائی ہوتی ہے۔

گناہ کی خطرناکیاں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اے گناہ گار!

اپنے انجام بد سے بے فکر مرت ہو اور جب تجھے علم ہو تو گناہ کے بعد اور گناہ مت کر۔

جب تو گناہ میں لگا ہو اور تجھے اپنے دامیں اور بامیں کندھے پر بیٹھے فرشتوں سے حیا نہ آئے تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔

(۵۰) استاد ضعیف، فیہ: -عمرُو بْنُ أَبِي قَیْسٍ: صدوق له أوهام. التقریب (۱۰۱) والمیزان ۲۸۵/۳۔ وعمر بن نبهان العبدی، ویقال: الْعَبْرِی، البصري، البصري، ضعیف۔ التقریب (۴۹۷۵)۔ قال عنه البحاری: لا يتابع في حدیثه، وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: سمعت أحمد يذمه، وعن ابن معین قوله: ليس بشيء، وصالح الحديث. انظر: مـ الاعتدال ۲۲۷/۳۔

اور تیرا بنسا جب کہ تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ پر تیرا خوش ہونا جب تو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بھی بڑا گناہ ہے اور جب تو گناہ کر رہا ہو اور دروازہ کے پردہ کی بوجہ ہوا کے حرکت کرنے سے خوف آئے لیکن تیرا دل اللہ کے حاضر ناظر رہنے سے نہ ڈرے تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا ہے جب کہ تو اس پر عمل کرے۔ (۵۱)

اللہ کے غصہ کی انتہاء

حضرت وہب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کچھ فرمایا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جب میری فرمانبرداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی نہیں ہوتی۔ اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراضی ہوتا ہوں اور ناراضی ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں (یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں) اور میری یہ لعنت سات پشتوں تک جاتی ہے۔ (اتنی بڑی لعنت اس گھناؤ نے کفر کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خخت ناراضی ہوتے ہوں)۔ (۵۲)

قیمتی نصائح

(۱) حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی

(۵۱) حبر موصوع، شما تقدم من ذکر حال إسحاق بن يشر البخاري، و جویں۔

(۵۲) هدا الأئر من الإسرائیلیات كما هو واضح۔ و حکمها: أنها إن وافقت مسراً عيناً فلتـ، وإن حالفته رُدَّت وإن لم توافقه ولم تحالفـه حازـت روایتها و لكن لا تصدق ولا تکذب۔

نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذمیل کر دیتے ہیں۔

(۲) حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا
فضل عبادت فرائض کی ادائیگی اور حرام سے پرہیز ہے۔ (۵۳)

(۳) حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو
نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔

(۴) حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان گناہ کا چھوڑنا توبہ
کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

(۵) حضرت معتمر کے والد حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان
چھپ کر گناہ کرتا ہے اور دن کے وقت اس کی ذلت اس کے منہ پر چھائی
ہوتی ہے۔

(۶) حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گذشتہ زمان میں ایک جوان
نے گناہ کیا جب وہ نہر پر غسل کرنے آیا تو اپنے گناہ کو یاد کیا اور رک گیا اور
شرا کر لوئے گا تو اس کو نہر نے آواز دی کہ اے نافرمان! اگر تو میرے
قریب آتا تو میں تجھے غرق کر دیتی۔

(۷) حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ چھوڑنے سے زیادہ
محبوب اللہ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں کی گئی۔

(۸) حضرت فضل (بن دکین رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں تیرے نزدیک گناہ کی
حیثیت جتنا معمولی ہوگی اللہ کے نزدیک یہ گناہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور
تیرے نزدیک گناہ کی حیثیت جتنا زیادہ خطرناک ہوگی اللہ کے نزدیک وہ
اتنا چھوٹا ہو جائے گا۔ (یعنی اگر کوئی گناہ کو معمولی سمجھ کر اللہ کی نافرمانی
شروع کر دے تو یہ اللہ کی بڑی ناراضی کا سبب ہے اور اگر کوئی گناہ کو اہمیت

دے کر اس سے کنارہ کشی کرے یا اس میں بنتا ہو جائے تو اللہ کے نزدیک
وہ قابلِ معافی ہو جائے گا۔ (امداد اللہ)

(۹) حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی نحوست
سے رات کی تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۱۰) حضرت سبل (تستری رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں اچھے عمل تو نیک لوگ بھی
کرتے ہیں اور گناہ گار بھی لیکن گناہوں سے (مکمل طور پر) وہی بچتا ہے جو
صدیق ہوتا ہے (یہ صدقیق ولایت کا ایک درجہ ہے جس سے اوپر ولایت کا
کوئی درجہ نہیں)۔

(۱۱) حضرت بنان حمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو نقصان دینے والی چیز
خوش کرتے ہیں وہ کب (خدا کے ہاں) کامیاب ہو سکتا ہے۔ (گناہ)

(۱۲) حضرت ابو الحسن للزوین فرماتے ہیں گناہ کے بعد پھر گناہ کرنا پہلے گناہ کی
بدبختی سے ہے اور نیکی کرنے کے بعد اور نیکی کرنا پہلی نیکی کا نتیجہ خیر ہے۔

عبادات کا انعام

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

قال ربکم عزوجل لو ان عبادی اطاعونی لسقیتهم المطر بالليل
واطلعت عليهم الشمس بالنہار ولم اسمعهم صوت الرعد. (۵۳)

(ترجمہ) آپ کا پروگار عزوجل ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری
فرمانبرداری شروع کریں تو میں ان کیلئے رات کے وقت بارش بر سایا کروں
اور دن کو دھوپ نکالا کروں اور ان کو بادل کی گرج تک نہ سنواؤں تاکہ وہ
رات کو سکون سے آرام کریں یا سکون سے عبادات (تہجد وغیرہ) ادا کریں۔

باب 26

نہ مت زنا

زنا کے قریب بھی نہ جائیں

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سِبِيلًا۔^{۱۷}

(ترجمہ) زنا کے قریب مت جاؤ یہ بدکاری اور براراستہ ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل: ۳۲)

زن کرتے وقت آدمی مومن نہیں رہتا

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا يسرق سارق حين يسرق وهو مومن، ولا يزني زان حين يزني
وهو مومن. (بخاری، مسلم)۔^(۵۵)

(ترجمہ) چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت مومن نہیں رہتا

(۵۵) رواہ البخاری (۲۴۷۵) و (۶۷۷۲) و (۰۶۵۸۱)، و مسلم (۵۷)، و أبو داود (۴۶۸۹)، و الترمذی (۲۶۲۵)، و النسائی (۴۸۷۰ - ۴۸۷۱)، و ابن ماجہ (۳۹۳۶)، و الدارمی (۶۲۱۰)، و أحمد فی المسند (۶۵۶۰ - ۴۸۷۲)، و أبو داود (۴۶۵۹ - ۴۸۷۲)، و أحمد فی المسند (۷۲۷۶)، (۷۴۱۹)، (۷۷۸۱)، (۸۶۷۸)، (۹۸۵۹)، (۹۸۰۹)۔

(پھر جب وہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان بھی اس کے پاس لوٹ آتا ہے)۔

ہر انسان کا زنا میں حصہ

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لکل بنی آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزنا هما النظر، واليدان تزنيان وزنا هما البطش، والرجلان تزنيان وزنا هما المشى، الفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويسمى والفرج يصدق ذلك ويکذبه۔ (۵۶)

(ترجمہ) ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے پس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کچڑنا ہے۔ اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنा ہے اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ اور دل خواہش کرتا اور تمغا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے (زنا میں بیٹلا ہوتی) ہے یا جھٹلا کر (باز رہتی) ہے۔

زنا کا رپر خدا کو بڑی غیرت آتی ہے

(حدیث) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یا امة محمد ما احد اغیر من الله ان یرى عبده او امته تزنى۔ (۵۷)

(۵۶) رواہ بهذا اللفظ أَحْمَد فِي الْمُسْنَد (۸۳۲۱)، وَقَدْ تَقدَّمَ تَحْرِيْجُهُ۔

(۵۷) رواہ البخاری (۱۰۴۴) و (۵۲۲۱)، و مسلم (۹۰۱)، والمسانی

(۱۴۷۴)، و مالک فی الموقـأ (۴۴۴)، و أَحْمَد فِي الْمُسْنَد (۲۴۷۸۴)۔

(ترجمہ) اے امت محمد! اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی مرد کو یا عورت کو زنا کرتا ہوادیکھے۔

دوڑخ میں زانیوں کی بدحالی

(حدیث) حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رأيت الليلة رجلاًين اتياني فاخر جاني فانطلقت معهما فاذا بيت
 (58) مبني على بناء التصور اعلاه ضيق واسفله واسع يوقد تحته نار،
 فيه رجال ونساء عراة فاذا اوقدت ارتفعوا حتى يكادوا ان يخر جوا
 فاذا احمدت رجعوا فيها. فقلت ما هذا؟ قالا "الزناة". (59)

(الحدیث مختصر امن ابن الجوازی وهو متفق علیہ)

(ترجمہ) آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دو شخص (فرشتے) آئے ہیں وہ مجھے لے کر گئے اور میں ان کے ساتھ چلا گیا میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے جو تصور پر بنایا گیا ہے اس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے اور نیچے کا کھلا ہے، اس کے نیچے سے آگ جائی جا رہی ہے۔ اس میں مرد اور عورتیں نہیں ہیں، جب آگ بھڑکائی جاتی ہے یہ اوپر ہو جاتے ہیں اور اس کمرہ سے باہر نکلنے کو ہوتے ہیں، اور جب دھمکی کی جاتی ہے تو اس میں واپس گر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ (اور ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے) انہوں نے کہا کہ یہ زنا کار (مرد عورتیں ہیں اور زنا کی سزا میں آگ میں جل رہے ہیں)۔ (بخاری، مسلم)

(58) هذا القظ أَحْمَدُ، وَعِنْدَ الْبَحْرَارِيِّ: تَقْبَـ.

(59) رواه البخاري (۱۳۸۶)، و (۷۰۴۷)، ومسلم (۲۲۷۲)، وأحمد في المسند (۱۹۵۹۰ - ۱۹۶۵۳)۔

اللہ کی سب سے زیادہ نارِ نصکی

(حدیث) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان اعمال امتی تعرض فی کل یوم جمعۃ و اشد غضب الله علی الزناۃ۔ (۶۰)

(ترجمہ) میری امت کے اعمال (اللہ کے اور میرے سامنے ہر جمعہ کے دن میں پیش کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زانیوں پر غضبناک ہوتے ہیں۔

زانی کا ایمان کب واپس ہوتا ہے

(حدیث) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الایمان سربال یسر بله اللہ من شاء ، فاذ ازني العبد نزع منه سربال الایمان ، فاذ اتاب ردالیه۔ (۶۱)

(ترجمہ) ایمان کا ایک لباس ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں (ایمان کا) لباس پہناتے ہیں، جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کا لباس اتار لیا جاتا ہے پھر جب وہ (اس سے) توبہ کرتا ہے تو اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔

(۶۰) حدیث واه بصرة، إن لم يكن موضوعاً، فيه: - عباد بن كثير، هو التفعی، البصري، متروك، وقال أحمدر: روی أحادیث کذب۔ التقریب (۳۱۳۹)۔ - محمد بن مصطفیٰ بن یہلول الحمصی: صدوق له أو هام و كان يُدَنِّس۔ التقریب (۶۳۰۴)۔

(۶۱) حدیث صحیح، رجاله کلهم ثقات، ویشهد له الأحادیث المتفقمة أول هذا السارب۔

شرک کے بعد بڑا گناہ

(حدیث) حضرت یثم بن مالک طائی (تابعی) سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند الله من نطفة وضعهار رجل
فی رحم لا يحل له. (۶۲)

(ترجمہ) شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ آدمی کا کسی ایسے رحم میں نطفہ ڈالنا ہے جو اس کے لئے حلال نہ ہو (یعنی وہ عورت اس کی بیوی نہ ہو اور مرد اس سے زنا کرے)۔

زنا کے چھ نقصانات

(حدیث) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ایا کم والزنا فان فی الزنا ست خصال، ثلات فی الدنيا وثلاث فی الآخرة، اما اللواتی فی الدنيا فذهب نور الوجه وانقطاع الرزق وسرعة الفناء، واما اللواتی فی الآخرة فغضب رب وسوء الحساب والخلود فی النار الا ان یشاء الله. (۶۳)

(ترجمہ) تم اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ کیونکہ زنا میں چھ تباہیاں ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا کی (تبہیاں) تو یہ ہیں کہ چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور بہت جلد (اعضاے بدن گھل

(۶۲) حدیث ضعیف، فيه: - بقیة، هو ابن الولید، ثقة مدائی و قد عنه. أبو بکر ابن أبي مریم، ضعیف، و كان قد سرق بيته فاخلط - التغیریب (۷۹۷۴)۔

(۶۳) حدیث روایۃ ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين يزید بن هارون وَحُمَيْد ، فالسند ضعیف۔

کر) بے کار ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کی (تین تباہیاں) یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نار ارض ہوگا، حساب بہت سختی سے ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں جلنا ہوگا مگر جب اللہ چاہیں گے (زمیٰ کو دوزخ سے نجات بخشیں گے)۔

زانیوں کی گندی بدبو

(حدیث) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

بِسْنَا إِنَّا نَائِمٌ إِذَا تَانَى رَجُلٌ فَأَخْذَ بِضَيْعَى فَأَخْرَجَ جَانِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدُّ شَيْءٍ اِنْتَفَاخَا وَأَنْتَهُ رِيحًا كَانَ رِحْمَهُ الْمَرَاحِيقُ، قَلْتُ مَنْ هُوَ لَاءُ؟
قالَ هُوَ لَاءُ الزَّانِونَ وَالزَّوَانِيِّ (۶۳)

(ترجمہ) میں سورہ تھا کہ میرے پاس دو شخص (فرشتے) آئے انہوں نے میرے بازو سے تھاما اور مجھے بیہر لے گئے تو میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو سب سے زیادہ پھولی ہوتی تھی اور سب سے زیادہ بد بودار تھی گویا کہ ان کی بد بوئی خانے ہیں، میں نے (ان دو فرشتوں سے) پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زنا کا مرد اور زنا کا عورت میں ہیں۔

(نوٹ) انبیاء، کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں لہذا آپ ﷺ کو اس خواب میں جو زانیوں کا حال دکھایا گیا ہے یہ بھی وحی ہے زانیوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیئے پل دوپل کے عیش کی بجائے دوزخ کے طویل دائمی عذاب سے بچنا چاہئے۔ اللہ توفیق دے۔

(۶۴) حدیث صحیح روانہ کلمہ نفقات۔ وَهُوَ جزءٌ مِّنْ حَدِيثِ رواه ابن حزیمة فی صحيحه (۱۹۸۶)، وابن حیان فی صحيحه (۷۴۹۱)۔ وابن حابر ہو عبد الرحمن بن بزرگ بن حابر۔

شرمگاہوں کی بدبو

(حدیث) حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ مرفوعاً (آنحضرت ﷺ سے) روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنتیوں کو ایک خوشبو سنگھائی جائے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم جب سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہیں سوچی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ روزہ داروں کے مونہوں کی خوشبو ہے۔

اور (اسی طرح سے) دوزخیوں کو بھی بدبو سنگھائی جائے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم جب سے دوزخ میں داخل ہوئے اس سے زیادہ بدبو بھی نہیں سوچی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بدکار زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے (۶۵) (اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی شرمساری سے محفوظ رکھے)۔

زناء اور لواطت کی شامت

(حدیث) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما طفف قوم كيلا ولا بخسا ميزانا الا منعهم الله القطر، ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم الموت، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف.

(ترجمہ) جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں کثرت سے موتیں ہوتی ہیں، اور جس قوم میں لواطت عام ہو جاتی ہے اس میں زندہ

(۶۵) حدیث ضعیف، فيه رجل مبهم، و محمد بن سعید بن کان هو المصلوب، فالحادیث موضوع۔

زمین میں دھن سادیا جانا عام ہو جاتا ہے۔

زنا، بد نظری، مصافحہ، مذاق کی سزا، عورت کا مرد کو گناہ میں بیتلہ

کرنے کا عذاب

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ قَدْرَ عَلَى اِمْرَأَةٍ اَوْ جَارِيَةٍ حِرَاماً فَوَاقَعُهَا حِرَاماً حُرُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَادْخُلْهُ النَّارَ وَمَنْ ابْصَرَ اِمْرَأَةً حِرَاماً مَلِاً اللَّهُ عَيْنِيهِ نَاراً ثُمَّ اُمْرَبَهُ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ صَافَحَ اِمْرَأَةً حِرَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا بِيَدِهِ إِلَى عَنْقِهِ ثُمَّ يُوْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ فَاكَهَهَا حِسْبًا بِكُلِّ كَلْمَهٖ كَلْمَهَا فِي الدُّنْيَا الْفَعَامِ، وَإِذَا اِمْرَأَةً طَاوَعَتِ الرَّجُلَ حِرَاماً فَالْتَّزَمَهَا اَوْ قَبَلَهَا اَوْ باشَرَهَا اوْ فَاكَهَهَا اوْ وَاقَعَهَا فَعَلَيْهَا مِنَ الْوَزْرِ مِثْلُ مَا عَلَى الرَّجُلِ۔ (۶۶)

(ترجمہ) جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر قدرت پائی اور اس سے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، جس نے کسی عورت کو حرام نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں (دوزخ کی) آگ بھر دیں گے پھر اس کو آگ میں داخل کرنے کا حکم فرمائیں گے۔ اور جس نے کسی (ابنی) عورت سے حرام کا مصافحہ کیا وہ جب قیامت میں پیش ہو گا اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے پھر اس کو دوزخ میں (لے جانے کا) حکم دیا جائے گا۔ اور جس شخص نے (ابنی عورت سے) دل لگی کی اس کو ہر کلمہ کے بدلہ میں جو اس نے اس عورت سے بولا تھا دنیا کے ہزار سال کے برابر (دوزخ

(۶۶) حدیث موضوع، فیه داود بن المُحَبَّر و میسرة بن عبد ربہ، و کلامہ ممن رُبی بوضع الحدیث۔

میں) قید کیا جائے گا۔

اور جس عورت نے مرد کے ساتھ حرام پر اتفاق کیا اور مرد اس کے پاس گیا یا اس کا بوسہ لیا یا اس سے مبادرت کی یا اس سے دل لگی کی یا زنا کیا تو اس عورت پر بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا مرد پر ہے۔

شرمگاہ انسان کے پاس امانت ہے

حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ بنائی اور فرمایا یہ تیرے پاس میری امانت ہے اس کو اس کے حق کے علاوہ کہیں استعمال نہ کرنا۔

دوخ کا خطرناک دروازہ

حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوچ کے سات دروازے ہیں، سب سے زیادہ غمناک، اندوہناک، گرم، زیادہ بدبودار زانیوں کا دروازہ ہو گا جنہوں نے جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کیا۔

سخت ترین گناہ

یہ بات اپنے علم میں رکھنا ضروری ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے پھر اس کے کئی درجے ہیں سب سے خطرناک کسی شخص کا اپنے محروم کے ساتھ زنا کرنا ہے اور ایسا بہت ہوا ہے اس کے بعد سخت ترین زنا انسان کا کسی شخص کی بیوی سے کرنا ہے۔ جس کے نطفوں اور نسب میں آمیزش ہو جاتی ہے۔ پھر سخت ترین زنا اس عورت سے زنا کرنا ہے جو پڑوس کی ہو یا رشتہ دار ہو۔

پڑوی کی بیوی سے زنا

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا

کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟

تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ کہ تم اللہ کا کسی کوشش کیک بناو جالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔

میں نے عرض کیا پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟

فرمایا: یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مارڈا لو کہ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شرکیک ہو گا۔

میں نے عرض کیا پھر کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟

فرمایا: یہ کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ (بخاری، مسلم)۔ (۶۷)

مسلمان کی بیوی سے زنا

چند حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بدکاریوں کا مذاکرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک کونسا زنا سب سے زیادہ بڑا ہے۔

انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ سب بڑے ہیں۔

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا زنا یہ

(۶۷) رواہ البخاری (۴۷۶۱) و (۱۰۱) (۶۸۱۱۳)، و مسلم (۸۶)، والترمذی (۳۱۸۲-۳۱۸۳)، والنسائی (۱۳)، و احمد (۴۰۱۵، ۴۰۱۴، ۴۰۱۳)، وأحمد فی المسند (۱۰۳۶، ۴۰۹۱، ۴۱۲۰، ۴۰۹۱)، و مسلم (۴۴۰۹، ۴۳۹۷)۔

ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کی بیوی سے زنا کرے اور زانی نہ بھرے اور مسلمان شخص کے لئے اس کی بیوی کو خراب کرے۔

یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بد بودار ہوا چلائی جائے گی جس سے ہر نیک و بد کو ایذا ہوگی جب وہ ان تک پہنچ کر اذیت میں بٹلا کر کے ناک میں دم کر دے گی تو ان کو ایک منادی ندا کرے گا جس کو سب سنیں گے، یہ کہے گا کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے جس نے تمہیں ایذا میں بٹلا کیا؟ وہ کہیں گے قسم بخدا ہم تو نہیں جانتے مگر اس نے ہمیں تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ زنا کاروں کی شرمگا ہوں گی بدبو ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوئے ہیں جب کہ انہوں نے اس جرم سے توبہ نہیں کی تھی۔ (یا اس جرم کی سزا نہیں بھلکی تھی)۔

اشتہار قیامت کے ہولناک مناظر صفحات 480

علامہ جلال الدین سیوطیؒ کی احوال قیامت کے متعلق جامع تصنیف *البدور السافرة فی امور الآخرة* کا اردو ترجمہ دنیا کی تباہی، میدان محشر، اعمال کی شکلیں، وزن اعمال، شفاعة، حوض، پل صراط، نیک مسلمان، گناہگاروں اور کافروں، منافقوں کے تفصیلی حالات، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے انعامات، حساب، بخشش، رحمت، عذاب، انتقام وغیرہ کی تفصیل پر سب سے زیادہ متنزل مجموعہ احادیث۔

باب 27

لواطت کی خطرناکیاں

لوطی ملعون ہے

(حدیث) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط ولعن اللہ من عمل عمل قوم لوط
ولعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ (۶۸)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام (لڑکوں اور مردودوں سے بدلی) کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام (لڑکوں اور مردودوں

(۶۸) حدیث صحیح، وابسناده حسن لغیرہ۔ رواہ من طریق محمد بن اسحاق به: الإمام أحمد في المسند (۱۸۷۸-۲۹۰۹)۔ وأشار إلیه الترمذی في سننه عقب حدیث رقم (۱۴۵۶)، حيث قال: "وروى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، ... ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة". ذكره بعد ما ذكر حدیثاً من طریق عبد العزیز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن عکرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: "من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به". وهذا الاستاد ضعيف لأجل محمد بن اسحاق: صدوق مدلیس، وقد عننه، ولكن لم يتفرد به، بل تابعه غير واحد يرتفع بذلك إلى الحسن لغیره۔ ومن تابعه: زهیر بن معاوية، عن عمرو، كما سيدركه المصنف في =

سے بد فعلی) کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو حضرت لوٹ علیہ السلام کی قوم والا کام (لڑکوں اور مردوں سے بد فعلی) کا ارتکاب کرتا ہے۔

حضرور کا خوف

(حدیث) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوٹ۔ (۶۹)

(ترجمہ) سب سے زیادہ خطرہ کی بات جس کے باوجود میں اپنی امت کے متعلق ذرتا ہوں قوم لوٹ کا عمل ہے (کہ یہ لواطت میں بتلا ہو کر خدا کے سخت ترین عذاب میں نہ بتلا ہو جائیں)۔

اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے

(حدیث) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ

= الحدیث الآتی، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۸۱۲) والحاکم في المستدرک (۴/ ۳۵۶). وزهیر: ثقة ثبت۔ عبد الرحمن بن أبي الزناد، رواه أحمد (۲۹۰۸)، وعبد الرحمن: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد۔ سليمان بن بلال، عند أحمد (۲۹۱۰)، وهو ثقة، لكن الرواية عنه أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله البصري: صدوق ربما أخطأ۔ فالحادیث من طريق زهير بن معاوية صحيح لذاته، وبقية الأسانيد حسنة لغيرها، لما فيها من الضعف۔

(۶۹) حدیث حسن بشواهدہ۔ رواه الترمذی (۱۴۵۷)، وابن ماجہ (۲۵۶۳)، وأحمد في المسند (۲۷۵۱۸)، والحاکم في المستدرک ۴/ ۳۵۷۔ وقال الترمذی عقبه: "هذا حديث حسن غريب"۔ وقال الحاکم: صحيح الاستناد، ووافقه الذهبی۔ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقبیل: صدوق في حديثه لبين، ويقال: تغير بأخره، لكن يشهد له حديث ابن عباس السابق۔

نے ارشاد فرمایا:

لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها. (٢٠)
 (ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائیں گے جس نے مرد سے یا عورت سے پاخانہ کی جگہ میں بدقعی کی ہوگی۔

لوطی پر مخلوقات کا غصہ

(حدیث) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَمْ يَعْلُمْ فَحْلَ فَحْلًا حَتَّىٰ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَوْطًا، فَإِذَا عَلَا الْفَحْلُ
 الْفَحْلُ ارْتَجَ أَوْاهَنَ عَرْبَشَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاطَّلَعَتِ الْمَلَائِكَةُ
 تَعْظِيمًا لِفَعْلِهِمَا فَقَالُوا يَا رَبَّ الْأَرْضِ إِنَّا نَعْزِرُهُمَا وَتَامِرُ
 السَّمَاوَاتِ إِنَّا نَحْصُبُهُمَا؟ فَقَالَ أَنِي حَلِيمٌ لَا يَفُوتُنِي شَيْءٌ. (١٧)

(ترجمہ) جب کوئی مذکور مذکور سے بدقعی کرتا ہے تو وہ قوم لوٹ (میں لکھا جا ہے اور قوم لوٹ جیسا بن جاتا ہے) اور جب مذکور مذکور سے بدقعی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کا نپ اٹھتا ہے جس سے فرشتوں کو فاعل و مفعول کے گھناؤنے جرم کرنے کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اے باری تعالیٰ! کیا آپ زمین کو حکم نہیں دیتے جوان کو سزادے (یعنی دھنادے) اور آسمان کو حکم نہیں دیتے جوان پر کنکر بر سانے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بردبار ہوں مجھ سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی۔

(٧٠) إسناده ضعيف۔ رواه الترمذى (١١٦٥)۔ وقال: "حديث حسن غريب
 "۔ لكن فى إسناده: أبو خالد الأحرم، وأسمه سليمان بن حيان الأستدى
 الكوفي: صدوق بخطىء، والضحاك بن عثمان: صدوق بهم۔

(٧١) حديث ضعيف۔ فيه: إبراهيم بن يحيى الشحرى: لين الحديث۔ التقريب
 (٢٦٨)۔ وأبو زيد محمد بن حسان، لم أجده ترجمته۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مرد مرد سے بُفعلی کرتا ہے تو زمین ان کے نیچے سے، آسمان ان کے اوپر سے اور گھر اور چھٹ سب پکارا ٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار!

آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل جائیں (اور ان کو درمیان میں پیس کر رکھ دیں) اور ان کیلئے عذاب اور عبرت بن جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا صبر ان (کے اس کرتوت) سے زیادہ وسیع ہے جو مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔

عورت کی عورت سے بُفعلی

جان لیں عورت کا عورت سے بُفعلی کرنا ویسے ہی سخت گناہ ہے جیسا کہ مرد کا مرد سے بُفعلی کرنا سخت گناہ ہے۔

(حدیث) حضرت واٹلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سحاق النساء زنا بینهن۔ (۲۷)

(ترجمہ) عورت کا عورت سے گناہ کرنا ان کا آپس میں (زناء کرنے کی طرح) ہے۔

گناہ کے اعتبار سے، اور سزا میں ایسی عورتوں کو تعزیر کی سزا ہوگی زنا کی حد نہیں لگے گی۔

(۷۲) حدیث موضوع۔ عزاه الہیشمی فی مجمع الزوائد ۶/۲۵۶؛ للطبرانی فی الكبير [۲۲/۶۳]، ولأبی یعلیٰ - بایسناد المصنف -، ثم قال: "وَرَجَالَهُ ثُقَاتٌ" - كذا قال رحمه الله، ولكن فيه: - عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني: صدوق، أكثر الرواية عن الصعفاء والمحاويل، فضعيف بسبب ذلك، حتى نسبه أیس نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين، التقریب (۴۴۹۴)۔ عنبیسة بن عبد الرحمن بن عنبیسة الأموي القرشي: متrock، رماه أبو حاتم بالوضع. التقریب (۵۲۰۶)۔

باب 28

لواطت کی سزا دنیا میں

اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل بدکاری کے میلان کو اور ان کو جو عذاب دنیا میں دیا تھا اس کو ہمارے سامنے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے حالانکہ ان کے کفر کا ذکر اتنا کثرت سے نہیں کیا، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ کفر اس بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھناؤ نے جرم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ ان پر دنیا میں پتھر برسائے گئے تھے۔

قتل کیا جائے

(حدیث) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ فاعل (بدکاری کرنے والا) مفعول (۳۷) (کرانے والا) دونوں کو قتل کر دیا جائے۔

(۷۲) حدیث صحیح۔ رواہ أبو داود (۴۴۶۲)، والترمذی (۱۴۵۶)، وابن ماجہ (۲۵۶۱)، وأحمد فی المسند (۲۷۲۷)۔ کلہم من طریق عبدالعزیز الدراوردی بہ، وهو صدوق کان یُحَدِّث من کتب عیرب فی خطی۔ ولکن لم یتفرد بہ بل تابعه علیہ غیر واحد؛ فتابعه عبد الله بن جعفر المخرمي، عند الحاکم فی المستدرک ۴/ ۳۵۵، وفي آخره: "ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه، واقتلوها بهيمة معه"۔ قال الحاکم: "هذا حدیث صحیح الأسناد ولم یحرجاه"۔ ووافقه الذهبی، وعبد الله المخرمي؛ ليس به بأس، كما ذكر الحافظ في التقریب (۳۲۵۲)۔ وتابعه أيضاً سلیمان بن بلاں، عند الحاکم ۴/ ۳۵۵، وسلیمان: ثقة۔ التقریب =

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من وجدتموہ یعمل بعمل قوم لوط فارجموا الاعلی والاسفل. (۷۳)

(ترجمہ) جس شخص کو تم قوم لوط والا گناہ کرتے دیکھو تو اوپر اور نیچے والے (دونوں) کو سنگار کر دو۔

صحابہ کرام کا فیصلہ ---- لوٹی آگ میں جلا یا جائے

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط روانہ کیا کہ ایک علاقہ میں ایک شخص ایسا ملا ہے جس نے مرد سے نکاح کر رکھا ہے بالکل ایسے ہی جیسا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے فیصلہ کے لئے صحابہ کرام کو جمع کیا ان میں

= (۲۵۳۹) - وقد ورد الحديث من غير طريق عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، حيث ذكره المصنف في الحديث الآتي من طريق ابن أبي حبيبة وداود بن الحُصين، عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. رواه أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (۲۷۲۲) وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِ عَقْبَ حَدِيثِ (۴۶۲) فَقَالَ: "وَرَوَاهُ ابْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصِينِ، عَنْ عَكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِعَهُ" - وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (۱۱۵۲۷-۱۱۵۶۸-۱۱۵۶۹) - وَابْنُ أَبِي حَبِيبٍ: اسْمُهُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: ضَعِيفٌ - دَاوُدَ بْنَ الْحُصِينِ: ثَقَةٌ إِلَّا فِي عَكْرَمَةَ - وَالْحَدِيثُ عَنْهُ فَلِيُسْ بِثَقَةٍ فِيهِ، وَلَكِنْ يَشَدَّ أَزْرَهُ مِنْ تَابِعِهِ عَنْ عَكْرَمَةَ - وَتَابِعُهُ أَيْضًا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ الْمُصْنَفِ (۵۸۳) وَأَحْمَدَ وَأَبُو دَاوُدَ - انظُرْ هامشَ الْحَدِيثِ (۵۸۳) - فَالْحَدِيثُ بِهَذِهِ بِالْمَتَابِعَاتِ يَتَقَوَّى وَيَصْحَّ - وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - كَمَا سَيَّأَتِي عَنْ الْمُنْصَفِ - وَلَكِنْ لَا تَغْنِي وَلَا تُسْعِنْ مِنْ جُوعٍ -

(۷۴) رواه الحاكم في مستدركه ۴/۳۵۵، وسكت عليه، وقال الذهبي:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جس کو سوائے ایک امت کے کسی اور امت نے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حشر کیا اس کو آپ حضرات جانتے ہیں، میری رائے یہ ہے اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو تمام صحابہ کرامؐ کی رائے مبارک نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم جاری کر دیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ (۷۵)

(ای طرح دو واقعوں میں) حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ہشام بن عبد الملک نے بھی ایسے لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔

حضرت علیؐ کا عمل

یزید بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت علیؐ نے ایک لوٹی کو (جلانے کی بجائے) سنگار بھی کر دیا تھا۔

حضرت عمرؓ کا ارشاد

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے اس کو قتل کر دو۔

حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لوٹی کی سزا کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ

= ”عبد الرحمن : ساقط“۔ قلت: عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن عمر بن حفص العُمرَي، أبو القاسم المدائِي؛ نزيل بغداد: متروك۔ التقریب (۲۹۲۲)۔

(۷۵) ذکر هذه القصة ابن القیم فی الحواب الکافی ص ۲۴۸

رضی اللہ عنہ نے فرمایا آبادی میں کوئی اونچا گھر تلاش کیا جائے پھر لوٹی کو منہ کے بل پھینکا جائے پھر اس پر پھر وہ کی بارش کر دی جائے۔ (۲۶)

ائمه اسلام کی آراء

(۱) امام شعبہ اور حضرت سعید بن المسیب، جابر بن زید، عبید اللہ بن عبد اللہ بن معمر، امام مالک، ربیعہ، ابن ہرزم، امام شعیٰ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں لوٹی کو سنگار کیا جائے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارہ۔

(۲) حضرت ابراہیم (شعیٰ رحمۃ اللہ علیہ) حضرت قادہ، حضرت عطاء، حضرت حسن بصری، فرماتے ہیں جو سزا زانی کی ہے وہی اس لوٹی کی ہے (یعنی شادی شدہ ہو تو پھر مار کر قتل کر دواً اگر شادی شدہ نہ ہو تو سو کوڑے مارو)۔

(۳) امام شافعی اور امام احمد سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں (۱) لوٹی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ دونوں صورتوں میں اس کو سنگار کیا جائے۔ اس رائے میں امام اسحاق بن راہویہ بھی ان کے موافق ہیں (۲) لوٹی کی سزا زانی کی طرح ہے اگر کنوارہ ہے تو کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو سنگار، اس رائے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی امام احمد اور امام شافعی کے موافق ہیں۔

امام ابوحنیفہ کا نہ ہب

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوٹی پر تعزیر ہے۔

(فائدہ) یعنی کوئی سزا مقرر نہیں ہے حاکم وقت جو سزا مناسب سمجھے دے سکتا ہے کیونکہ آپ نے اوپر کے ارشادات کو ملاحظہ کیا ہو گا اس جرم کی سزا میں علمائے اسلام

(۷۶) وهذا أخذنا من قوله تعالى عن قوم لوط: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أُمْرَنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْها حِجَازَةً مِّنْ سَجَيلٍ﴾ [هود: ۸۲]۔

کے اقوال مختلف ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اقوال بھی اس میں مختلف ہیں یہ مسئلہ اجتہادی اور بہت اختلافی ہے کیونکہ آخر پرست ﷺ سے اس کی سزا کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو سزادی نے میں اختلاف نہ فرماتے۔ لیکن ان مختلف اقوال سے یہ ضروری ثابت ہوتا ہے کہ اس گھناؤ نے کرتوت سے معاشرہ کو پاک رکھنے کے لئے حاکم جو بھی کڑی سے کڑی سزادیدے اس کی صوابدید پر ہے، ہاں اگر لوٹی نے یہ کام دوسرا بار بھی کرذ الاتو پھر اس کو قتل کر دیا جائے صرف پہلی بار کی لواطت پر تعزیر ہے جس سے وہ اس گناہ سے باز رہے اگر دوبارہ ملوث ہو تو قتل کر دیا جائے جیسا کہ فتاویٰ شامی میں تحریر ہے۔

ان تمام اقوال و مذاہب میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرآن و سنت اور اقوال صحابہ کرام کے زیادہ قریب ہے تحقیق کے لئے احمد اور الحافظ اور عفی عنہ کا مضمون بہت سی کتب مذاہب اربغہ کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کے دلائل کو غور سے دیکھنے اور جمع کرنے کے بعد تحریر کیا گیا ہے اس میں امام مالک اور امام احمد و شافعی اور صاحبین کے مذاہب کا جواب بھی کافی تفصیل سے لکھا گیا ہے اور امام ابوحنیفہ کے مذہب تعزیر کو قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث سے ثابت کیا ہے۔ بہت ہی عجیب تحقیق ہے قابل دید ہے۔

(امداد اللہ انور)

لوٹی کا حج قبول نہ ہونے کی حکایت

حضرت یوس بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کی نیت میں مکہ حاضر ہو اجب عرفات کی رات آئی تو جو امام صاحب ہمارے ساتھ حج کر رہے تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ پھر جب ہم مکہ واپس لوٹ گئے تو ہم نے ایک منادی کی ندا سنی جو پھر کے اوپر سے پکار رہا تھا اے گروہ حجاج خاموش ہو جاؤ تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے گروہ حجاج تمہارے امام بنے یہ خواب دیکھا ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمادی ہے جنہوں نے اس سال بیت اللہ شریف کی حاضری دی ہے صرف ایک آدمی کو نہیں معاف کیا کیونکہ اس نے ایک لڑکے سے بدکاری کی ہے۔

شریعت کی سزا میں دینا عوام کا کام نہیں ہے

جو لوگ زنا، چوری، لواطت وغیرہ میں کپڑے جائیں یا نے جائیں تو اس کی سزا کے لئے اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے جب پوری تحقیق ہو اور وہ شخص مجرم ثابت ہو جائے تو عدالت کے ذمہ ہے کہ وہ اس پر سزا کو نافذ کرے، اگر اس ملزم پر جرم ثابت نہ ہو تو باعزت طور پر رہا کر دے۔ یہ سزا میں دینا عوام کا کام نہیں جیسا کہ بہت سے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عوام اشتعال میں آکر کسی شخص کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو نہ تو اس کے جرم کی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے ثبوت کے طریقہ کار کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کام کی شرعی حد کا علم ہوتا ہے وہ مجرم کو ملزم اور ملزم کو مجرم قرار دیتے ہیں اور پھر عوام میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے اور عوام کا لانعام ہوتے ہیں لہذا اس طریقہ سے خوب بچنا چاہئے اور دوسروں کو بھی اس کی خبر کرنی ضروری ہے تاکہ جہالت کی وجہ سے حدود شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔
(امداد اللہ انور)

اشتخار صحابہ کرام کی دعائیں صفحات 260

کتب حدیث، تفسیر اور سیرت و تاریخ میں موجود صحابہ کرامؐ کی متفرق دعاؤں کا پہلا مجموعہ جس میں ان کی عبادات اور دیگر ضروریات کی دعائیں اور ان کے الفاظ میں دعاؤں کا با اعراب، با حوالہ اور با ترجمہ شاندار جامع ذخیرہ۔

باب 29

لوٹی کی قیامت اور دوزخ کی سزا میں

دوزخ میں آگ کے تابوت ہیں

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے اس خطبہ میں فرمایا:

من نَكْحَ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ غَلَامًا أَوْ جَلَاحَ حَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْتَ
مِنَ الْجَيْفَةِ يَنْادِي بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَهُ اللَّهُ نَارُ جَهَنَّمَ وَيَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ
وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صِرْفًا وَلَا عِدْلًا وَيَجْعَلُ فِي تَابُوتٍ مِنَ النَّارِ وَيَسْمِرُ عَلَيْهِ
بِمَسَامِيرٍ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ نَارٍ فَتَسْتَلِ تَلْكَ الْمَسَامِيرُ فِي وَجْهِهِ وَفِي
جَسَدِهِ. (۷۷)

(ترجمہ) جو شخص کسی عورت کے یا کسی لڑکے کے یا کسی آدمی کے جائے پا خانہ میں برائی کرے گا وہ قیامت کے دن سڑے ہوئے مردار سے زیادہ بدبو دار اٹھایا جائے گا۔ (قیامت کے دن) لوگوں کے سامنے اس کی اس بے حیائی کا چہرہ چاکیا جائے گا حتیٰ کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال ضائع کر دیں گے نہ تو اس سے کوئی مستحب قبول ہو گا نہ فرض عبادت

(۷۷) حدیث موضوع، فیہ داؤد بن المحبیر بن فَحْدُم الثَّقْفِی، متروک، ورمد
البعض بالوضع والکذب۔ وقد تقدمت ترجمة ضافية له أول الكتاب۔

بلکہ اس کو آگ کے ایک تابوت میں بند کیا جائے گا اور آگ کے لوہے کی اس پر میخیں ٹھوک دی جائیں گی اور وہ میخیں اس (لوٹی) کے منہ اور جسم میں گھس جائیں گی۔ (نعوذ باللہ منه)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سزا اس لوٹی کو دی جائے گی جو بغیر توبہ کئے مر گیا تھا۔

سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے

(حدیث) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع
العالمين يدخلون النار أول الدخلين الا ان يتوبوا فمن تاب تاب الله
عليه الناكح يده و الفاعل والمفعول به ومد من خمر و الضارب ابويه
حتى يستغشا، والمودي جير انه حتى يلعنه والناكح حليلة
جاره. (۷۸)

(ترجمہ) سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا (یعنی دوزخ میں ان کے گناہوں کی سزادے کر جنت میں جانے کے قابل نہ بنائے گا)، اور نہ ان لوگوں کو (میدان حشر میں) باقی مخلوقات کے ساتھ جمع کرے گا (یعنی قبروں سے نکلتے ہی پہلے ہی پہلے دوزخ میں ڈال دے گا مخلوقات کے ساتھ جمع ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جیسا کہ اگلے جملہ میں آتا ہے کہ) وہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے ہاں اگر انہوں نے توبہ کر لی تو جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیتے ہیں (وہ سات قسم

(۷۸) إِسْنَادُ فِيهِ: عَلَيْيَ بْنُ ثَابَتَ الْحَزَّارِيِّ: صَدُوقٌ رِّبْمَا أَخْطَأَ - التَّفْرِيبُ
(۴۶۹۶)۔ مسلم بن جعفر، وحسان بن حميد لم أجده ترجمتهما۔

کے لوگ یہ ہیں (۱) مشت زنی کرنے والا (۲) فاعلِ لواطت کرنے والا (۳) (مفعول) جو لواطت کرائے گا (۴) شراب کا عادی (۵) والدین کو پسندے والا یہاں تک کہ وہ فریاد کرنے لگیں (۶) اپنے پڑویں کو تکلیف دینے والا حتیٰ کہ لعنت کرنے لگیں (۷) اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرنے والا۔

(فائدہ) اندازہ فرمائیں یہ سات کام کتنے بڑے گناہ کے ہیں کہ اتنی سخت سزا ان کو دی جائے گی لیکن دوزخ میں طویل عرصہ سزا بھگلتے کے بعد مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن یہ معلوم نہیں کہ دوزخ میں رہنے کا طویل عرصہ لاکھوں سال کا ہے یا کروڑوں سال کا۔

الله تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے دنیا میں اگر مجھر بھی کاث لے تو سخت تکلیف محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں سخت ترین عذاب خداوندی کے سہنے کی لوگوں میں کہاں سے جرات آ جاتی ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کبھی یوں دھوکہ دیتا ہے کہ آخرت کس نے دیکھی ہے یہ دھوکہ تو کفر ہے۔ کبھی یوں دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بد امہربان ہے یہ گناہ بھی معاف نہ کرے گا؟ لیکن انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جس گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک بھی اور دوزخ میں سزا کاٹنے کے اعتبار سے بھی اور دوزخ بھی کتنی خطرناک ہے۔ جو حضرات دوزخ کے حالات تفصیل سے پڑھنا چاہیں وہ احقر مترجم کی کتاب "جہنم کے خوفناک مناظر" ضرور ملاحظہ کریں۔ (امداد اللہ)

لوطی بغير توبہ کے کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللوطيان لواغتسلا بماء البحر لم يجزهما الا ان يتوبا۔ (۷۹)

(ترجمہ) اگر لواطت کرنے اور کرانے والے سمندر کے تمام پانی سے غسل کریں تب بھی وہ ان کو پاک نہیں کر سکے گا ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لیں (تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمادیں گے)۔

لوطی قومِ لوط میں شامل کر دیا جاتا ہے

(حدیث) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من مات من امتی یعمل عمل قوم لوط نقله الله اليهم حتى يحشر معهم. (۸۰)

(ترجمہ) جو آدمی میری امت میں قومِ لوط والا گناہ کرتا تھا وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قومِ لوط میں منتقل کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی انہیں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔

لوطی بندروں اور خزیروں کی شکل میں

حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن لوطیوں کو بندروں اور خزیروں کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔

=وقال الحوزجاني: متروك، وكذا قال أبو داود، وقال ابن معين: لا يكتب حدبيه، وقال مرتّبة: ليس بشفاعة، وقال مرتّبة: ضعيف۔ ميزان الاعتدال ۶۱/۲
 (۸۰) حدیث منکر، فیه:- مسلم بن عیسیٰ بن مسلم الصفار: قال الدارقطنی: متروك۔ ميزان الاعتدال ۴/۱۰۶۔ أبوه: عیسیٰ بن مسلم الصفار: منکر الحديث، وذكره أحمد، وذكر قوله في الإرجاء، فقال: ذاك خبيث القول۔ المیزان ۳/۳۲۲۔

لوطی کی بدترین حالت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں قبر سے نکلا جائے گا حتیٰ کہ لوٹی کو جب نکلا جائے گا تو اس نے اپنا آله تناصل اپنے دوست کی جائے پا خانہ پر رکھا ہو گا یہ دونوں قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بے حد شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔

(فائدہ) قیامت میں ہر شخص اپنے اپنے حال میں مستقرق ہو گا کسی کی کسی حالت سے کوئی شہوت نہ ہو گی بلکہ اپنے انجام کی فکر ہو گی۔

اشتہار فتاویٰ جدید فقہی مسائل صفحات 624

ایمان و کفر، طہارت، نماز، مساجد، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذبح، طعام، تعلیم و تربیت، تبلیغ دین، نکاح، تجارت، کرایہ، نیکس، سود، پرلیس، تصویر، تفریح، سیاست، حدود و قصاص، تعویذات، رسوم و رواج، بدعتات، خواتین، لباس، جماعت اور سائنس وغیرہ کے متعلق 603 جدید فقہی مسائل کے حل پر مشتمل مفتی محمود گنگوہی کے فتاویٰ محمودیہ کی '۱۸' جلد وں میں منتشر فتاویٰ نئی اور جامع ترتیب کے ساتھ مکمل ایک جلد میں محفوظ۔

باب 30

گناہوں کی سزاوں سے بچنے کی ضرورت

یہ جاننا چاہئے کہ گناہوں کی سزا میں مختلف ہوتی ہیں کبھی تو آدمی ان میں فوراً پھنس کر گرفتار ہو جاتا ہے اور کبھی دیر سے، کبھی ان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے کبھی دیر تک مخفی رہتا ہے۔

سب سے ہلکی سزاوہ ہے جس کو سزا پانے والا محسوس نہ کر سکے اور سب سے خطرناک سزا یہ ہے کہ بندہ سے ایمان و معرفت خداوندی چھن جائے اور اس سے کم درجہ کی سزا یہ ہے کہ دل مردہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت نہ ہوتی ہو، اور بندہ کا حرص گناہ پر تیز ہو جائے۔ قرآن بھول جائے، استغفار کو کوئی اہمیت نہ دے۔

کبھی تو باطن کی سزا آہستہ سے تاریکی پھیلاتی ہے حتیٰ کہ دل کے افق تک چھا جاتی ہے اور اس کی بصیرت انہی ہو جاتی ہے۔

اور سب سے ہلکی سزاوہ ہے جو دنیا میں بدن پر پڑے۔ چنانچہ کبھی بدنگاہی کی سزا نظر پر بھی پڑتی ہے۔ پس جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس کو عذاب خداوندی کا مستحق جانے لگے اس پر ضروری ہے کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی توبہ کر لے تاکہ اس کی یہ توبہ آنے والے عذاب کوٹال لے۔

جیسی کرنی ولیسی بھرنی

(حدیث) حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

البر لا يسلی والاثم لا ينسى والديان لا ينام فکن كماشت
كماتدين تدان۔ (۸۱)

(ترجمہ) نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، گناہ کبھی نہیں بھلا کیا جاتا، بدله دینے والا (اللہ تعالیٰ) کبھی نہیں سوتا تو جو چاہے کر لے (دنیا میں تجھے اچھا یا برا سب کرنے کا اختیار ہے) جیسا (عمل) کرے گا ویسا بدله دیا جائے گا (اگر نیک عمل کئے تو نیک اجر ملے گا اگر بردے عمل کئے تو خطرناک سزا ملے گی)۔

ایک گناہ پر چالیس سال کے بعد بھی غم

حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت غلمان ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اے ابو بکر یہ غم کس بات کا ہے؟ فرمایا:

غم اس گناہ کا ہے جو میں نے آج سے چالیس سال پہلے کیا تھا۔

ہم اس شخص کا واقعہ پہلے ذکر کر آئے ہیں جس نے ایک بڑے کی طرف نظر گزہ سے دیکھا تھا تو اس کا حفظ شدہ قرآن پاک چالیس سال کے بعد بھول گیا تھا۔

عورت کی کلائی سے مرد کی کلائی چپک گئی

حضرت علقہ بن مرشد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اس کو عورت کی کلائی چمکتی ہوئی نظر آئی تو اس نے لذت لینے کیلئے اپنی کلائی اس کی کلائی پر رکھ دی اور ان دونوں کی کلائیاں آپس میں چپک گئیں۔ تو، شخص ایک بزرگ کے پاس گیا (اور اپنا واقعہ بتایا) تو بزرگ نے فرمایا تم

(۸۱) حدیث مرسل، أبو قلابة - بکسر القاف۔ واسمہ عبد اللہ بن زید، تابعی ثقة فاضل، کثیر الارسال۔ التقریب (۳۲۳۲)، والمرسل، ضعیف۔

واپس اسی جگہ پر جاؤ جہاں پر تم نے یہ گناہ کیا ہے اور رب الہیت سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ یہ حرکت نہ کرو گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کو نجات مل گئی۔

شکل میں بدل گئیں

حضرت ابن الی نجح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اساف اور نائلہ ایک مرد اور عورت تھے یہ شام سے بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لئے آئے تھے۔ انہوں نے دوران طواف ایک دوسرے کا بوسہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں بگاڑ کر پتھر کر دیئے اور یہ مسجد حرام ہی میں رہے حتیٰ کہ اسلام ظاہر ہوا اور ان کو نکال باہر کیا گیا۔

باب 31

توبہ اور استغفار کی ترغیب

حضرور روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتے تھے

(حدیث) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ تَوَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّمَا تَوَبُّ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ مَّا نَهَى
مرة. (۸۲)

(ترجمہ) اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو کیونکہ میں اس کے سامنے روزانہ (گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود) سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

سید الاستغفار اور اس کی فضیلت

(حدیث) حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَإِنِّي عَبْدُكَ وَإِنِّي عَلَى
عهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَطَعَتْ أَعْوَذُكَ مِنْ شرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوكَ لَكَ
بِنْعِمْتَكَ عَلَى وَأَبُوكَ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

(ترجمہ) اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جتنا مجھے میں ہمت ہے، میں نے جو کیا ہے اس کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی جو مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ مجھے بخش دیں کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا یہ کلمات سید الاستغفار ہیں جو شخص ان کو صبح ہونے کے بعد ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے گا اور اس دن میں فوت ہو گا تو وہ جنتیوں میں سے ہو گا۔ اور جو شخص ان کو شام ہونے کے بعد ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے گا اور اس رات میں اس کا انتقال ہو گا تو بھی وہ جنتیوں میں سے ہو گا۔ (بخاری شریف)۔ (۸۳)

ابليس کا چیلنج اور اللہ تعالیٰ کا جواب

(حدیث) حضرت عمرو بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

ان ابلیس قال لربه عزوجل : بعزتك وجلالك لا ابرح اغوی
بني آدم مادامت الا رواح فيهم، فقال له ربها عزوجل فبعزتي وجلالي
لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونني. (۸۳)

(ترجمہ) ابلیس نے رب العزت سے عرض کیا مجھے تیرے غلبہ اور جلال

(۸۳) رواہ البخاری (۶۳۰۶) و (۶۲۲۳)، والترمذی (۳۳۹۳)، والنسائی (۵۵۲۲)، وأحمد فی المسند (۱۶۶۶۲-۱۶۶۸۱)۔

(۸۴) حدیث صحیح رواته کلہم ثقات۔ رواہ احمد (۱۰۸۵۱-۱۰۹۷۴)۔ (۲۷۲۶۲۷)

کی قسم! میں انسانوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روچیں ان کے اجسام میں موجود ہیں گی۔ تو اللہ جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنے غلبہ اور جلال کی قسم! میں بھی ان کی بخشش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔

سیاہ و سفید اعمالِ نامہ

حضرت بکر بن عبد اللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال (آسانوں پر) اٹھائے جاتے ہیں۔ جب ایسا کوئی اعمالِ نامہ اٹھایا جاتا ہے جس میں استغفار بھی شامل ہو تو وہ سفید شکل میں اٹھتا ہے۔ اور جب وہ اعمالِ نامہ اٹھایا جاتا ہے جس میں استغفار موجود نہیں ہوتا تو وہ سیاہ شکل میں اٹھتا ہے۔

رونے کا گناہوں پر اثر

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر رونا گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح سے ہوا خشک پتوں کو (درختوں سے) جھاڑ دیتی ہے۔

رونے والے کے گناہوں کو محافظ فرشتے بھول جاتے ہیں

حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پیشی ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں پر روتا ہے تو اس کے (پاس رہنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے اعمال لکھنے والے) فرشتے اس کے گناہ کو بھول جاتے ہیں۔

تمیں سال تک گناہوں پر روتے رہے

حضرت مضر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو الحجاج جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک دن حاضر ہوا اور ان سے بات کرنا چاہی مگر انہوں نے مجھ

سے بات نہ کی۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کو کیا حرج ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی علم کی بات ہو اور مجھے بتا دیں تو؟ انہوں نے مجھے فرمایا:
تم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے؟
میں نے کہا جی ہاں۔

فرمایا:

اس کو تیرے اعمالِ النامہ میں لکھ کر اللہ جل شانہ کے حضور پیش کیا گیا ہے؟
میں نے عرض کیا جی ہاں (پیش کیا گیا)۔

فرمایا:

کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے؟
میں نے عرض کیا (مجھے علم) نہیں ہے۔

تو فرمایا پھر یہاں کیوں (آرام سے) بیٹھے ہو اور کیوں خاموش ہو روتے
کیوں نہیں؟ جاؤ اپنی زندگی کے تمام دن اپنے نفس پر رونے میں گذار دو حتیٰ کہ تمہیں
معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے گناہ کا کیا حال ہے (کیا وہ بخش دیا
گیا ہے یا نہیں) حضرت عبد اللہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
حضرت مضر رحمۃ اللہ علیہ خوف کے مارے تیس سال تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کا
انتقال ہو گیا (رحمۃ اللہ علیہ و قدس اللہ اسرارہ)۔

اشتخار شرح و خواص اسماء حسنی صفحات 240

قرآن کریم میں موجود اللہ تعالیٰ کے تقریباً چار سو اسماء حسنی کا مجموعہ، ترجمہ،
تشریحات، فوائد، خواص، حل مشکلات میں ان کی تائیں، اکابر کے مجرب
طریقوں کے مطابق ان کے وظائف، اپنے خاص مضامین کے ساتھ
پہلی بار اردو زبان میں۔

باب 32

خدا یاد آنے سے گناہ سے
کنارہ کش ہونے والوں کا ثواب

آخرت کا ثواب

ارشاد خداوندی:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّثِينَ ۝
(ترجمہ) جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے
خوفزدہ ہو گیا اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی۔ (الرحمن: ۳۶)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو جنتیں اس شخص کو عطا فرمائی جائیں گی جس نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے گناہ کرنے سے رک گیا۔

اور حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے میں سبقت کرنے والوں کے لئے سونے کی دو جنتیں ہوں گے اور گناہوں سے بچنے والوں کی اقتداء میں گناہوں سے بچنے والوں کے لئے چاندی کی دو جنتیں ہوں گی۔

اللہ کے عرش کے سایہ میں

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سبعة يظلمهم الله عزوجل في ظله يوم لا ظل الا ظله: الا مام العادل، وشاب نشافى عبادة الله عزوجل، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ورجلان تحابافى الله عزوجل اجتمعوا عليه و تفرقوا عليه، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شمالة ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله عزوجل خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها فقال انى اخاف الله (بخاري، مسلم)۔ (۸۵)

(ترجمہ) سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے (عرش کے) سایہ میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سایہ کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ (۱) عادل حکمران (۲) وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو (۳) وہ آدمی جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو (۴) وہ دوآدمی جو آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہوں اسی کی محبت حاصل کرنے کو جمع ہوں اور اس کی محبت میں الگ ہوں (۵) وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے باعث میں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دامیں ہاتھ نے کیا اور کتنا خرچ کیا (۶) وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے (۷) وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے پاس بلا یا تو اس نے کہا میں (اس بارہ میں) اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہوں۔

(۸۵) رواہ البخاری (۶۶۰) و (۱۴۲۳)، و مسلم (۱۰۳۱)، والترمذی (۲۳۹۱)، والنسائی (۵۳۸۰)، و مالک فی الموطأ (۱۷۷۷)، و أحمد فی المسند (۹۳۷۳)۔

پاک دامنی کا انعام

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: **وَمِنْ قَدْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ حِرَا مَا فَتَرَ كَهَا مُخَافَةً مِنْهُ، امْنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَحْرَمَهُ عَلَى النَّارِ وَادْخُلْهُ الْجَنَّةَ.** (۸۶) (ترجمہ) جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو خدا کے خوف سے چھوڑ دیا (یعنی گناہ کرنے سے باز آگئیا) تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کریں گے۔ اس پر دوزخ کو حرام کر دیں گے اور جنت میں داخل فرمادیں گے۔

دوسرانعام

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنات النعیم، جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان ہیں ان میں خوبصورت لڑکیاں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا ان جنات النعیم میں کون لوگ رہیں گے؟ فرمایا:

وَهُوَ لَوْغٌ جَنْهُوْنَ نَهَىْ گَنَاهَ كَرَنَےْ كَا ارَادَهَ كَيَا تو انہوں نے میری (یعنی اللہ کی) عظمت کا لحاظ کیا (اور گناہ نہ کیا) اور وہ لوگ جن کی کمر اللہ کے خوف سے دوہری ہو گئی۔

مجھے اپنے غلبہ قدرتِ قدر میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں جب اپنی وجہ سے بھوکوں پیاسوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔

(۸۶) حدیث موضوع۔ فیہ: داؤد بن المحبّر، و میسرة بن عبد ربہ، و کلامہ من رُمی بوضع الحدیث۔

اللہ تعالیٰ کا افضل ذکر

حضرت میمون (بن مهران رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ ذکر کی دو فسیں ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرنا تو خوب ہے مگر (۲) اس سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گناہ کرنے سے رک جائے جب وہ گناہ میں بٹلا ہونے لگا ہو۔

صدق ایمان کی نشانی

حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آدمی کے ایمان کی سچائی اور قبولیت میں سے ہے کہ آدمی کو کسی خوبصورت عورت کے ساتھ تنہائی کا موقعہ ملے اور وہ حضن اللہ تعالیٰ سے خوف کی وجہ سے رک جائے (گناہ نہ کرے)۔

باب 33

بدکاری پر قدرت کے باوجود باز رہنے والوں کی حکایات

عظمیم حکایت:

(حدیث) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ

تمن آدمی سفر کر رہے تھے ان کو بارش نے گھیر لیا اور وہ پہاڑ کی ایک غار میں پناہ گزین ہوئے اور ان کی غار کے دھانے پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور ان کا راستہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا تم اپنے نیک اعمال میں غور کر جو تم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے کئے شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا

اے اللہ! میرے دو بوڑھے والدین تھے اور ایک ننھی سی بیٹی تھی میں ان کی دلکشی بھاول اور ضروریات کی کفالت کرتا تھا جب میں ان کے پاس پہنچتا اور دودھ دو دھتا تو اپنی بیٹی سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن وہ درخت دور تھا (جہاں میں بکریاں چڑانے کے لئے گیا تھا) تو میں شام ڈھلنے وہاں پہنچا تو والدین کو سوتا ہوا پایا۔ تو میں نے اسی طرح سے دودھ دو دھا جیسا کہ پہلے دوہا کرتا تھا پھر اس کو لے کر اپنے والدین کے سرہانے

کھڑا رہا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ ان کو بیدار کروں اور یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ ان سے پہلے بچی کو دیدوں جبکہ میری بچی میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی لیکن میں اپنے اسی حال میں بدستور (انتظار میں) کھڑا رہا (کہ بیدار ہوں گے سب سے پہلے ان کو دودھ پیش کروں گا) یہاں تک کہ اسی انتظار میں صبح ہو گئی۔

اے اللہ! اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے صرف تیری رضا کے لئے ایسا کیا تھا تو ہمارے لئے اتنا چٹاں ہٹا دے۔ جس سے ہم آسمان کو تو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کچھ کشادگی کر دی جس سے ان کو آسمان نظر آنے لگ گیا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا کہ

اے اللہ! میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جسے میں اتنا زیادہ چاہتا تھا جتنا کہ مرد عورتوں کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے ایک دن مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا مگر اس شرط پر کہ میں اس کے پاس سو دینار (سونے کی سوا شر فیاں) لے جاؤں تو میں نے کوشش کر کے سو دینار جمع کئے اور ان کو لے کر اس کے پاس گیا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا اے خدا کے بندے! اللہ سے ڈرانگوٹھی کو اس کے حق کے بغیر نہ کھول۔ تو میں (یہ جواب سن کر) اٹھ گیا۔

اے اللہ! اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا ہے تو آپ اس کو ہم سے کشادہ کریں۔ چنانچہ وہ ان سے کشادہ ہو گیا (لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے تھے)۔ تیرے نے کہا

میں نے درخت لگانے کے لئے ایک مزدور رکھا جب اس نے اپنا کام پورا کیا تو کہا میرا حق مجھے دیدو تو میں نے اس کی مزدوری اس کو دینی چاہی تو اس نے اس کو وصول نہ کیا بلکہ چلا گیا۔ مگر میں اس کی مزدوری کو بڑھاتا تھا (یعنی اس کی اجرت کے پیسوں کو کاروبار میں لگادیا) حتیٰ کہ میں نے اس کے پیسوں سے ایک گائے اور چروائے کو دستیاب کیا۔ پھر وہ (ایک عرصہ کے بعد) میرے پاس آیا اور کہا تم اللہ سے ڈر و مجھ پر ظلم نہ کرو مجھے میرا حق دیدو؟ تو میں نے کہا جاؤ اس گائے اور اس کے چروائے کو لے جاؤ۔ اس نے کہا (اللہ سے ڈر و) مجھ سے مذاق مت کرو، میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا یہ گائے اور اس کا چروائے کو لے جاؤ تو اس نے اس کو پکڑا اور چلتا بنا۔

اے اللہ! اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کی خاطر کیا ہے تو (جتنا حصہ چٹان کا ابھی غار کے منہ پر ہے) سب ہٹادے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے وہ تمام چٹان ہٹادی۔ (۸۷)

(۸۷) قلت: لقد ورد الحديث عن ابن عمر من طرق:- فرواه من طريق موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر نحوه: البخاري (۲۲۱۵) و (۲۳۳۳)، ومسلم (۲۷۴۲)، والنسائي في كتاب الرفائق، من سننه الكبرى، كما في تحفة الأشراف بمعارف الأطراف ۲۳۶/۶ للحافظ المزري۔ - ورواه من طرق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر نحوه: البخاري (۵۹۷۴)۔ قلت: وسيأتي من كلام المصنف عزوه للحديث من هذا الطريق لمسلم، ولم أجده عدده، فعلل ذلك كان في نسخته من الصحيح، والله أعلم۔ - ورواه من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر نحوه: البخاري (۳۴۶۵)، ومسلم (۲۷۴۳)۔ - ورواه من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهربي، عن سالم بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر نحوه: البخاري (۲۲۷۲)، ومسلم (۲۷۴۳)۔ وانظر روایات =

حکایت نسبہ ۳:

- حدیث -

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے ایک دو مرتبہ نہیں سنی بلکہ سات بار سے بھی زیادہ دفعہ سنی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بنی اسرائیل کی قوم میں ایک کفل نامی شخص تھا وہ کسی گناہ سے نہ چوتا تھا (یعنی ہر گناہ کر گز رتا تھا) ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اس کو سانحہ دینار گناہ کرانے کے دیئے۔ پھر جب یہ اس طرح سے بیخا جیسے مرد عورت کے پاس بیٹھتا ہے تو عورت کی حیث نکل گئی اور رو نے لگی۔ اس جوان نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اس پر مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی بھی نہیں کیا مگر (آج) اس پر مجھے ایک مجبوری نے مجبور کیا ہے۔ تو اس جوان نے کہا کیا تو یہ کام کر رہی ہے جبکہ تو نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ پھر وہ شخص ہٹ گیا اور کہا تم چلی جاؤ اور یہ دینار بھی تجھے بخشد۔ پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم اب کفل کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر یہ شخص اسی رات کو فوت ہو گیا۔ جب صحیح ہوئی تو اس کے دروازہ پر لکھا ہوا تھا (قد غفر اللہ للكفل) (۸۸) اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی (امام ترمذی فرماتے کہ یہ حدیث حسن ہے)۔

=آخری لهذا الحديث وفوائدہ في فتح الباری ۵۰۹/۶ - ۱۰۵-

(۸۸) حدیث ضعیف۔ رواه الترمذی (۲۴۹۶)، والحاکم في المستدرک (۲۴۵۳) - ۲۵۴/۱۴، ۱۲۵۵، وابن حبان في صحيحه، موارد الظمان (۲۴۹۶)، وذکر ابن قدامة المقدسي في كتاب التوأمين ص ۱۰۸، طبع دار الكتاب العربي، وقال الترمذی: "هذا حديث حسن"، وقال الحاکم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه" ووافقه الذهبي، قلت: بل فيه سعد مولى طلحة، ويقال: سعيد، ويقال: طلحة مولى سعد: مجهول۔ كما قال الحافظ ابن حجر في التقریب ۲۹۰/۱ - فالإسناد ضعیف۔

حکایت نمبر ۳۳:

فاحشہ نے کیسے توبہ کی؟

حضرت حسن (بصری رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی دنیا کا تہائی حسن اس کے پاس تھا وہ گناہ کا سودینار لیتی تھی۔ اس کو ایک عابد نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے سودینار جمع کئے۔ اور اس فاحشہ عورت کے پاس آ کر کہا تمہارے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے اور سودینار جمع کئے ہیں۔ فاحشہ نے کہا یہ میرے وکیل کو دیدوتا کہ وہ ان کو پرکھ لے اور ان کا وزن کر لے۔ چنانچہ عابد نے وہ دینار اس کے وکیل کو دیئے پھر فاحشہ عورت نے اپنے وکیل سے پوچھا کیا تم نے اس سے دینار اچھی طرح سے دیکھ بھال کر وصول کر لئے۔ اس نے کہا جی ہاں تو فاحشہ نے عابد کو کہا اندر آ جاؤ۔ اس عورت کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا جس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس فاحشہ کا گھر بڑا دلکش تھا اور اس کا پلنگ سونے کا بنا ہوا تھا۔ جب فاحشہ نے قریب بلایا اور وہ خیانت کی جگہ پر بیٹھا تو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف آگیا اور اس سے کانپ کانپ گیا۔ اس کی شہوت مر گئی اور کہا مجھے چھوڑ دے میں واپس جاؤں گا یہ دینار بھی تیرے (میں یہ واپس نہیں لوں گا) اس رندی نے کہا تمہیں کیا ہوا تو نے مجھے دیکھا، میں تجھے اچھی لگی پھر تو نے بڑی محنت مشقت سے سودینار جمع کئے پھر جب قادر ہوا تو یہ کیا کیا؟

اس عابد نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا ہوں اس لئے میرا عیش کڑوا ہو گیا ہے تو اس فاحشہ نے کہا کہ اگر تو اس بات میں سچا ہے تو میرا خاوند تیرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

عبد نے کہا مجھے چھوڑ دے میں جانا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی مگر اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ عابد نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یہاں سے نکل نہ جاؤں۔

عورت نے کہا کہ تو پھر آپ کے ذمہ رہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ شادی کر لیں گے۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے۔
پھر اس عابد نے منہ چھپایا اور اپنے شہر کو نکل کھڑا ہوا۔ اور وہ فاحشہ بھی دنیا کی بد کاریوں سے شرم نہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی حتیٰ کہ وہ بھی اس عابد کے شہر میں جا پہنچی اور عابد کے نام اور گھر کا پتہ معلوم کیا جو اس کو بتلا دیا گیا (تو جب پہ عابد تک پہنچی) اور وہ بڑکو (اس عورت کے بارہ میں بتلایا گیا کہ) شہزادی آئی ہے اور آپ کا پوچھتی ہے۔ تو جب عابد نے اس کو دیکھا تو ایک جیخ ماری اور مر گیا۔

اور اس کی بانہوں میں گر پڑا۔ تو عورت نے کہا کہ یہ تو ہاتھوں سے گیا کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو فقیر آدمی ہے تو عورت نے اس سے کہا کہ تم سے شادی کروں گی تمہارے بھائی سے محبت ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ اس نے اس سے شادی کر لی اور اس کے سات بیٹے پیدا ہوئے (اور سب کے سب نیک صالح ہوئے)۔

حکایت نمبر ۲:

زن کے لئے نکلنے والے پاؤں کی عبرت ناک سزا

ایک راہب اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اس سے جھانک کر دیکھا تو اس کو ایک عورت نظر آئی اور اس کے عشق میں بتلا ہو گیا اور اپنا ایک پاؤں اپنے عبادت خانے سے نکلا تھا کہ اس کے پاس جائے۔ لیکن جب ہی اس نے اپنا پاؤں نکلا اس پر عصمت غالب آگئی اور سعادت نے ہاتھوں میں لے لیا تو راہب نے کہا اے نفس یہ پاؤں عبادت خانے سے اس لئے نکلا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور عورت کے پاس جائے پھر وہ میرے ساتھ میرے عبادت خانے میں بھی رہے اللہ کی قسم یہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس پاؤں کو عبادت خانے سے باہر ہی رکھا جس پر برف باری بھی ہوتی تھی اور بارشیں بھی، دھوپ بھی لگتی تھی اور

ہوا میں بھی حتیٰ کہ وہ پاؤں نوٹ گیا اور جسم سے جھز کر گر گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی تعریف اپنی کسی کتاب
میں نازل فرمائی۔ (۸۹)

حکایت نصیر اللہ

ہاتھ جلاڈا لے مگر زمانہ کیا

بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنے عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ایک
گمراہوں کا ٹولہ ایک کنجھری کے پاس آیا اور اس سے کہا تم کسی نہ کسی طریقہ سے اس
عبد کو بھٹکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عبد کے پاس بارش والی اندر ہیری رات میں
آئی اور اس کو پکارا تو عبد نے اس کو جھاٹک کر دیکھا تو عورت نے کہا اے خدا کے
بندے مجھے اپنے پاس پناہ دے۔ لیکن عبد نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی نماز میں
مصروف ہو گیا۔ جب کہ اس کا دیا جل رہا تھا۔ اس لوٹھی نے پھر کہا اے اللہ کے
بندے مجھے اپنے پاس پناہ دیدے تم بارش اور اندر ہیری رات کو نہیں دیکھتے وہ یہی کہتی
رہی حتیٰ کہ عبد نے اس کو پناہ دیدی اور اس طرح سے وہ عبد کے قریب ہی لیٹ گئی
اور اپنے بدن کی خوبصورتیاں دکھانے لگ گئی یہاں تک کہ عبد کا نفس اس کی طرف
مائل ہو گیا۔ تو عبد نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ یہ دیکھ لے کہ آگ پر کتنا
صبر کر سکتا ہے۔ پھر وہ چڑاغ یا لاثین کی طرف گیا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی حتیٰ کہ وہ
جل گئی۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آیا لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا تو یہ پھر
چڑاغ کی طرف گیا اور ایک انگلی رکھ کر جلاڈا لی پھر اسی طرح سے اس کا نفس اس کی
خواہش کرتا رہا اور وہ چڑاغ کی طرف لوٹا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا
ڈالیں جس کو وہ عورت دیکھ رہی تھی پھر اس نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ (یہ واقعہ

ہماری کتاب "آنسوؤں کا سمندر" صفحہ نمبر ۲۰۳ پر تفصیل سے ملاحظہ کریں)۔

شہزادی کی دعوت گناہ سے بچنے والے کی شان

روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھے جن کے حسن کا ہم پلہ اس زمانہ میں کوئی نہ تھا یہ پشاوریاں بیچا کرتے تھے۔ ایک دن وہ پشاوریاں لئے گھوم رہے تھے کہ ایک عورت کی بادشاہ کے یہاں سے نکلی جب اسے دیکھا تو دوڑی ہوئی اندر گئی اور بادشاہزادی سے کہا کہ میں نے ایک جوان کو پشاوریاں بیچتے ہوئے دروازہ پر دیکھا ہے ایسا خوبصورت آدمی کبھی نظر نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا اسے بلا لاؤ اس نے باہر نکل کر اس جوان سے کہا اے جوان اندر آؤ ہم بھی خریدیں گے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ دوسرے دروازہ میں داخل ہوا۔ اسی طرح تین دروازوں میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر شہزادی سینہ اور چہرہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ اس جوان نے کہا کہ اپنی ضرورت کی چیز خرید لو تو میں جاؤں اس نے کہا ہم نے اس کے خرید نے کوئی نہیں بلا�ا ہے بلکہ اپنے نفس کی حاجت پوری کرنے کو بلا�ا ہے اس نے کہا خدا سے ذر۔ اس نے کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو بادشاہ سے کہوں گی کہ تو بدکاری کے ارادہ سے میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی مگر وہ نہ مانتا، پھر اس نے کہا میرے واسطے وضو کے لئے پانی چاہئے۔ کہنے لگی مجھ سے بہانہ نہ کر اور لوئڈی سے کہا اس کے واسطے چھٹ پر وضو کا پانی رکھ دو جہاں سے یہ کسی طرح بھاگ نہ سکے۔ وہ چھٹ زمین سے چالیس گز اوپر بیٹھی تھی۔ جب اور پہنچا تو کہنے لگا

اے اللہ مجھے برے کام پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو
یہاں سے گرا دینا ارتکاب گناہ سے اچھا جانتا ہوں۔ پھر بسم اللہ
کہہ کر چھٹ سے کوڈ پڑا

اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کو بازو پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیا اسے کچھ تکلیف نہ ہونے پائی، پھر دعا کی اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بغیر اس تجارت کے بھی روزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سونے کی ایک تھیلی بھیجی۔ اس نے اس میں سے بتنا اس کے کپڑے میں سمایا لے لیا۔ پھر کہا الہی اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں مجھے برکت دے۔ اور اگر اس کے بد لے میں میرا اخروی ثواب کم ہو جائے گا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز دی گئی کہ یہ ایک جز ہے اس صبر کا جس کو تو نے چھٹ پر سے گرتے وقت اختیار کیا تھا۔

تو اس نے کہا اے اللہ میرا اخروی ثواب گھٹانے والی چیز مجھے بالکل درکار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سونا اس سے پھیر لیا گیا اور شیطان سے کہا گیا کہ تو نے اسے چھٹ پر سے گرتے وقت کیوں نہ بہ کایا۔ کہنے لگا میں ایسے شخص کو کیونکر بہ کاتا جس نے اللہ کے واسطے اپنی جان خرچ کر دی۔ خدا ان پر رحم کرے اور ہمیں ان کی برکت سے مستفیض کرے۔

حکایت نصرت:

بڑھیا اور عورت کا مکرا اور اللہ کی حفاظت

حضرت حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قصہ پہنچا ہے کہ مدینہ میں ایک جوان تمام نمازوں میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ شریک ہوتا تھا جب یہ شخص غائب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو تلاش کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی اس نے اپنی کسی عورت سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا کیا میں تیرے اس جوان کو تمہارے پاس لے آنے کا کوئی حیلہ نہ کروں۔ اس نے کہا کیوں نہیں۔

”پھر ۰۰۰ عورت جوان کے راستہ پر بیٹھ گئی جب وہ پاس سے گزراتی عورت نے کہا میں بڑھی ہوں میری ایک بُری ہے میں اس کو وہ نہیں سکتی تم ثوابِ کلاؤ اور اندر

چل کر مجھے دودھ دوہ دو؟ جب وہ جوان داخل ہوا تو وہاں اس کو کوئی بکری نظر نہ آئی تو بڑھیا نے کہا تم گھر میں بیٹھو میں بکری کو ابھی لاتی ہوں جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں دروازہ کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی اس نے پیچھے سے دروازے بند کر دیئے۔ جب جوان نے یہ دیکھا تو گھر میں محراب کی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ عورت نے اس سے گناہ کا تقاضا کیا مگر جوان نے انکار کیا اور کہا اے عورت! اللہ سے ذرہ پھر بھی عورت بازنہ آئی اور اس کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوئی جب اس نے پکا انکار کر دیا تو عورت نے چلانا شروع کر دیا تو لوگ جمع ہو گئے عورت نے ان سے کہا یہ شخص میرے گھر کے اندر گھس آیا اور مجھ سے ناجائز خواہش کرتا ہے تو لوگ اس پر چڑھ گئے اور اس کو مار کر باندھ دیا۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز پڑھی تو اس جوان کو نہ پایا ابھی وہ اسی کی فکر میں تھے کہ لوگ اس کو باندھ کر آپ کے پاس لائے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو (اس حالت میں) دیکھا تو کہا اے اللہ! میرا درست گمان اس کے حق میں غلط نہ کرنا۔

پھر ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے (اس کو کیوں باندھ کر لائے ہو؟) انہوں نے بتایا کہ ایک عورت نے رات کے وقت فریاد کی جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اس جوان کو اس کے پاس دیکھا تو ہم نے اس کو مارا بھی ہے اور باندھا بھی ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جوان سے فرمایا تم مجھ سے اپنی بات درست درست بیان کر دو تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ اس کو بڑھیا کیا کہہ کر لے گئی تھی۔ تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کیا تم اس بڑھیا کو جانتے ہو؟ رض کیا اگر وہ سامنے آجائے تو جان لوں گا۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی پڑوسیوں کی عورتوں اور بوزہیوں کی حکم روائہ کیا جب وہ سب آگئیں تو ان کو اس جوان کے سامنے پیش کیا وہ جوان یہ کونہیں پہچان رہا تھا حتیٰ کہ وہ بڑھیا پاس سے گزرنے لگی تو جوان نے پکار کر کہا

یہی بڑھیا ہے اے امیر المؤمنین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا درہ اٹھا کر فرمایا میرے سامنے بچ بچ بول دو تو اس نے تمام قصہ اسی طرح سے سنایا جس طرح سے جوان نے سنایا تھا۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه السلام.

(ترجمہ) تمام تعریفات اسی اللہ کی ہیں جس نے ہم میں

حضرت یوسف عليه السلام کی شبیہ پیدا فرمائی۔

یعنی پاکدا من جوان پیدا کیا جوز لینا کی طرح بھٹکانے والی عورت کے دام فریب سے محفوظ ہو گیا۔

حکایت نمبر ۸:

حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت

حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے۔ جب یہ مقام ”ابوا“ پر پہنچے تو ایک منزل پر اتر پڑے۔ پھر حضرت سلیمان اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی کام کو تشریف لے گئے اور حضرت عطاء اس مکان میں اکیلے نماز پڑھنے میں لگ گئے۔

تو ان کے پاس دیہات کی ایک خوبصورت عورت داخل ہوئی جب حضرت عطاء نے اس کو دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید اسے کوئی کام ہے اس لئے جلدی سے نماز پوری کی اور پوچھا تمہیں کوئی کام ہے؟

کہنے لگی ہاں

فرمایا: کیا کام ہے؟

کہا اٹھ کر میرا تقاضا پورا کر دیں میں اس کے لئے ترس رہی ہوں میرا خاوند

نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ نہ مجھے دوزخ میں جلاو نہ خود کو، اور جب اس کے حسن کو دیکھا تو نفس تو ان کو آمادہ کرتا تھا مگر یہ انکار کر رہے تھے۔

پھر حضرت عطاء نے رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہتے جا رہے تھے تم مجھ سے دور ہو جاؤ تم مجھ سے دور ہو جاؤ پھر آپ زور زور سے رو نے لگ گئے۔ جب عورت نے دیکھا کہ وہ خوف کے مارے اتنا زور زور سے رو رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رو نے لگ گئی۔

یہ اسی طرح سے رو رہے تھے کہ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آگئے جب حضرت عطاء کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور ایک عورت بھی ان کے سامنے کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے تو ان کو دیکھ کر یہ بھی رو نے لگ گئے مگر ان کو اس کا پتہ نہ تھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ پھر ان کے شاگرد اور ساتھیوں میں سے جو بھی آتا گیا ان کو رو تا دیکھ کر رو نے لگا۔ ان سے وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ رو نے کیا کیا سبب ہے یہاں تک کہ رونا بہت ہو گیا اور آواز بلند ہو گئی تو جب اس دیہاتن نے یہ دیکھا تو انھ کر (چپکے سے) نکل گئی اور ساتھی بھی ادھر ادھر ہو گئے۔

اس کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے بھائی سے اس عورت کا قصہ کھینچی نہ پوچھا ان کے مرتبہ اور ہیبت کی وجہ سے کیونکہ وہ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں بھی بڑے تھے۔

پھر یہ کسی کام کو مصروف تشریف لے گئے اور جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں ہے۔ اسی دوران میں حضرت عطاء نے ایک نیند سے اٹھنے کے بعد رونا شروع کر دیا تب حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے بھائی! آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس خواب کی وجہ سے جو میں نے اس رات کو دیکھا ہے۔ پوچھا وہ کیا خواب ہے؟

فرمایا کہ میں جب تک زندہ رہوں کسی کونہ بتانا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ جو لوگ آپ کی زیارت کر رہے تھے میں بھی ان میں

آپ علیہ السلام کی زیارت کر رہا تھا۔ جب میں نے ان کے حسن کو ملاحظہ کیا تو رو نے لگ گیا۔ جب آپ نے مجھے لوگوں میں دیکھا تو فرمایا اے جوان تم کیوں رو رہے ہو؟

میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی میں نے عزیز مصر کی بیوی کو اور اس کے جس حادثہ میں آپ بتلا ہوئے تھے، پھر جیل بھلکتی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی برداشت کی۔ ان سب کو یاد کر کے رو رہا ہوں اور میں ان (صدموں کے سبھے) پر حیران ہو رہا ہوں۔

آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مقام ابواء میں اس دیباتی عورت سے پچھے والے شخص کے کارنامہ پر حیران نہیں ہوئے؟

تو میں سمجھ گیا جس کا آپ نے اشارہ فرمایا تھا تو یہ سن کر میں (خواب میں بھی) رو نے لگ اور جب بیدار ہوا تب بھی رو رہا ہوں۔

تو حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے بھائی اس عورت کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت عطاء نے ان کے سامنے وہ قصہ ذکر کیا۔ اور حضرت سلیمان نے اس کی کسی کو اطلاع نہ کی جب تک حضرت عطاء حیات رہے۔ اس کے بعد صرف اپنے گھر کی ایک عورت کو اس کا ذکر کیا۔ پھر یہ واقعہ مدینہ منورہ میں حضرت سلیمان بن یسأر کی بھی موت کے بعد مشہور ہوا۔

(فائدہ) یہ قصہ ایک روایت میں حضرت عطاء کی بجائے حضرت سلیمان بن یسأر کے بارہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

حکایت نمبر ۹:

عاشق اور معشوق قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے

قس نامی ایک شخص بہترین عبادت گذار اور نہایت پاکدامن تھا۔ وہ ایک دن قریش کے ایک آدمی کی سلامہ نامی لوئڈی کے پاس سے گذرایہ وہ لوئڈی ہے جس کو

بیزید بن عبد الملک (بادشاہ) نے اس سے خریدا تھا، اس قس نے اس لوندی کا گانا سن لیا تو اس کے لئے رک گیا۔ تو اس لوندی کے مالک نے قس کو دیکھ کر اور اس کے قریب جا کر کہا

” آپ اس کے پاس جا کر کے اس کا گانا نہیں سن لیتے؟ ”

تو قس نے اس سے انکار کیا لیکن وہ مالک بھی منت سماجت کرتا رہا تو اس نے اس شرط پر منظور کیا کہ تم مجھے ایسی جگہ پر بھاؤ جہاں سے نہ میں اس کو دیکھ سکوں اور نہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ تو لوندی کے مالک نے اس شرط کو پورا کیا اور وہ لوندی آکر گانے لگی اور قس کو حیران کر دیا۔ پھر اس کے مالک نے کہا کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو آپ کی ملکیت میں دیدوں؟ تو اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ لیکن اس کا گانا سنتا رہا حتیٰ کہ اس کو لوندی سے اور لوندی کو اس سے عشق ہو گیا اور ان کے عشق کا تمام مکہ والوں میں چرچا ہو گیا۔

ایک دن لوندی نے اس کو کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لوندی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنا منہ تمہارے منہ پر رکھوں۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی اللہ کی قسم، یہی چاہتا ہوں لوندی نے کہا میں چاہتی ہوں اپنا سینہ تمہارے سینے سے لگاؤں اور اپنا پیٹ تمہارے پیٹ کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ لوندی نے کہا پھر تمہیں کس نے روکا ہے؟ اللہ کی قسم یہی تو محبت کا موقع ہے تو قس نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ساہے آپ فرماتے ہیں:

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝

(ترجمہ) متین دوستوں کے علاوہ دنیا کے سب دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

(الزخرف: ۲۵)

میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہاری اور میری دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے۔ لوئڈی نے کہا ارے تم یہ نہیں جانتے کہ تیرا اور میرا رب ہمیں قبول نہ کرے گا جب ہم تو بے کر لیں گے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لیکن مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ مجھے اچانک موت نہ آجائے۔

پھر وہ اٹھ گیا جب کہ اس کی آنکھیں آنسو بہاری تھیں۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس لوئڈی کے پاس نہ گیا اور اپنی سابقہ عبادت کی حالت میں لوٹ آیا جیسا کہ وہ پہلے بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔

حکایت نمبر ۱۰:

دو گناہ گاروں کو رحمت خداوندی نے کیسے بچایا؟

قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے عرب کی ایک خوبصورت باکمال لوئڈی سے عشق کیا۔ میری ان دنوں میں یہ حالت تھی کہ میں جس گناہ کا ارادہ کرتا تھا اس کے کرنے میں گھبرا تا نہیں تھا چنانچہ میں اس کے پاس پیغام بھیجا رہا اور وہ میرے پاس پیغام بھیجتی رہی۔ جب بہت دن گزر گئے تو میں نے اس کو یہ پیغام روانہ کیا کہ اب ملاقات کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ تو اس نے وعدہ بھیجا اور میں نے بھی جواب میں ایک رات کو اور اس میں ملاقات کی جگہ کو طے کر دیا۔ جب وہ رات آئی تو میں بھی روانہ ہوا اور وہ بھی۔ پھر ہم نے ملاقات کی اور میں اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔

ہم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا ہمارے سامنے آ کر رکا ہمیں سلام کیا اور پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی کام ہے۔ اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا میرے گھر کی ہے۔

کہا سبحان اللہ! تم اس کو ایسے وقت میں (گھر سے باہر) نکال کر لاتے ہو؟

میں نے کہا کوئی مجبوری پیش آگئی تھی اس نے مجھے کہا ”ارے سن ! اللہ تعالیٰ انی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں :

أَمْ حِسَبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ سَوَاءً هُنَّا هُمْ وَ مَمَاتُهُمْ طَسَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ ۚ (الجاثیہ: ۲۱)

(ترجمہ) یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جنہوں نے ایمان اور نیک عمل اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے گا۔ یہ لوگ (بہت) برا حکم لگاتے ہیں۔

پھر اس بوڑھے نے کہا ارے میاں تم بدکاریوں کے ارتکاب سے باز آجائو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس سے اس کے عمل کے متعلق حساب لینے والا ہے۔ پس تو خود کو اس احتساب کے وقت شرمندہ ہونے سے بچا لے جب تیرا کوئی عذر معدۃ نہ چل سکے گا۔ پھر اس بوڑھے نے کہا تم دونوں انھے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں برکت دے (یعنی تمہیں گناہ سے بچائے)۔ تو ہم انھے گئے اور حیاء اور ہیبت کی شدت سے میں ایک قدم چلنے پر بھی قادر نہ ہو رہا تھا۔ جب میں منه پھیر کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا لحاظ رکھنا کیونکہ وہ ذات تمہارے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔

پھر چلا گیا، میں نے اس سے سنا وہ یہ دعا دے رہا تھا

اللَّهُمَّ اعصِمْهُمَا حَتَّى لَا يَعْصِيَاكَ

(ترجمہ) اے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرماتا رہتا کہ یہ تیری نافرمانی نہ کر سکیں۔

اس کی اس دعا کی برکت سے ایسا ہوا کہ گویا کہ میرے دل میں جو خباثت تھی

سب دفعہ ہو چکی تھی اور میں نے اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ پھر جب اس کا قاصد میرے پاس سلام لے کر آیا تو میں نے اس کو کہا آج کے بعد تم میرے پاس کمھی نہ آنا۔ جب اس کے قاصد نے اس کا یہ پیغام پہنچایا تو اس لونڈی نے یہ شعر لکھ کر میرے پاس روانہ کئے۔

انی توهمت امرًا لا احقيقه
وربما كان بعض الظن تغريرا

فإن يكن ما ظنت اليوم يا سكني
حقا فقد طال تعذيبى و تفكيرى

(ترجمہ)

(۱) مجھے ایک خدشہ ہے جس کو میں یقین کا درجہ نہیں دیتی کیونکہ کچھ بدگمانیاں دھوکا ہوتی ہیں۔

(۲) اے میری راحت! میں نے آج (تیرے فراق کا جو گمان کیا ہے اگر وہ درست ہے

توجب میری مصیبت اور پریشانی طویل ہو گئی ہے۔

توجب میں نے ان اشعار کو پڑھا تو اس کی طرف یہ شعر لکھ کر روانہ کر دیئے۔

يَا مِنْ تُوْهَمْ أَنِّي مُثْلِّ مَا عَاهَدْتَ
لَا تَكْذِبِي لِسْتَ عِنْدَ الظُّنْ وَ الْأَمْل

انِي أَخَافُ عَقَابَ اللَّهِ يَلْحَقُنِي
وَانِي قَرْبَنِي حَتْفَى مِنَ الْأَجْلِ

فَكَذِبِي الظُّنْ فِينَا وَ اسْلَكِي سَبَلاً
نَقْفَكَ بَعْدَ الْهُوَى مَنَا عَلَى الْعَمَلِ

(ترجمہ)

(۱) تم یہ نہ سمجھو کہ میں اسی حالت پر ہوں جس طرح سے عشق کے معابدے ہوئے۔ اب تم (میری رغبت خداوندی) کو مت جھٹلاو میں گمان اور جھوٹی امیدوں کا شکار ہونے والا نہیں ہوں۔

(۲) میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو (کسی وقت بھی) مجھے گھیر سکتا ہے۔ اور اس سے بھی ڈرتا ہوں (کہ میری موت اجل سے قریب ہو چکی ہو) (اور میں گناہ میں بتلا ہو کر مرلوں اور خدا کو یہ منہ دکھاؤں تو میرا کیا حشر ہوگا)۔

(۳) تم میرے حق میں اپنے گناہ کے گمان کو دفع کر دو اور کوئی اور راستہ ناپو، ہم عشق کرنے کے بعد نیک عمل کرنے کی خاطر تم سے دور ہو گئے ہیں۔

حکایت نصیرا:

دو عاشقوں کا حال خدا کے خوف میں یکساں ہونا چاہئے

رجاء ابن عمر و نجعی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک جوان نہایت حسین اور بہت عبادت مجاہدہ کرنے والا زاہد تھا۔ قبیلہ نجع میں ایک قوم کے پڑوں میں آیا۔ ان کی ایک لڑکی کو دیکھ کر عاشق ہو گیا۔ اور اس کی عقل زائل ہو گئی۔ اور اس لڑکی کا بھی وہی حال ہوا جو اس کا تھا۔ اس شخص نے اس کے باپ سے نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی منگنی تو اس کے چچازاد بھائی سے ہو چکی ہے۔ ان دونوں کو بوجہ عشق کے سخت تکلیف ہونے لگی۔ لڑکی نے اس کے پاس قاصد بھیجا۔ کہ میں نے تمہارے عشق کا حال اور مصیبت کی داستان سنی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح محبت میں بتلا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں یا تمہارے آنے کے اسباب بھم پہنچاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا مجھے ان میں سے کوئی طریقہ پسند نہیں ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر اس کی نافرمانی کروں تو بڑے عذاب کا اندیشہ ہے۔ میں ایسی آگ سے ڈرتا ہوں کہ نہ اس کی تیزی کم ہوتی ہے نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ جب

قادد نے لوٹ کر یہ واقعہ اس لڑکی کو سنا یا تو وہ سن کر کہنے لگی باوجود اس حسن کے وہ پرہیز گار بھی ہے۔ قسم ہے اللہ کی خوف خدا ہم سب بندوں کو یکساں ہونا چاہئے۔ ایک دوسرے سے زیادہ مستحق نہیں۔ اس وقت اس نے دنیا چھوڑ دی اور سارے تعلق پس پشت ڈال دیئے اور ٹاث کر لباس پہن کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس جوان کی محبت میں پہنچلتی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی محبت میں مر گئی۔ وہ شخص اس کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک بار اسے خواب میں دیکھا وہ بہت اچھی حالت میں تھی۔ پوچھا تو نے کیا کیا دیکھا اور تیرا کیا حال ہے؟
اس نے یہ شعر نایا۔

نعم المحبة يا سولی محبتکم
حب يقود الى خير و حسان

(ترجمہ)

اے دوست ہماری محبت اچھی محبت تھی ایسی محبت جو خیر و احسان کی طرف پہنچاتی ہے۔

پھر پوچھا اب تو کہاں پہنچی؟ اس اُنے یہ شعر پڑھا۔

الى نعيم و عيش لا زوال له
في الجنة الخدمملک ليس بالفاني

(ترجمہ)

ایسی نعمت اور عیش میں جس کو زوال ہی نہیں ہے۔ جنت خلد میں جو ایسا ملک ہے جسے فنا نہیں ہے۔

اس سے کہا مجھے وہاں یاد رکھنا میں بھی تجھے نہیں بھولتا ہوں۔ کہنے لگی واللہ میں بھی تجھے نہیں بھولتی ہوں۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تو محنت و کوشش کر کے میری مدد کر۔ جب وہ مذکور جانے لگی تو کہا میں تجھے پھر کب دیکھوں گا۔ کہا

عنقریب تم میرے پاس آؤ گے۔ اس خواب کے بعد وہ شخص صرف سات روز تک زندہ رہا۔ (۹۰)

حکایت نمبر ۱۲:

عورت کالی سیاہ ہو گئی

حضرت ابو زر عرضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے میرے ساتھ فریب کر کے کہا اے ابو زر عرض آپ ایک مصیبت زدہ کی عیادت کر کے اور اسے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا گھر میں آجائیں۔

جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے کوئی (مریض) نظر اور مجھے اس کی نیت معلوم ہو گئی تو میں نے (بد دعا کرتے ہوئے) کہا اے اللہ اس کو کالا کر دے تو وہ (فوراً) کالی سیاہ ہو گئی (جب اس نے خود کو اس عذاب خداوندی میں گرفتار) دیکھا تو دروازہ کھول دیا۔ اور میں باہر نکل آیا اور پھر میں نے یہ دعا کی اے اللہ اس کی اپنی سابقہ حالت میں لوٹا دے۔ چنانچہ وہ ولیٰ ہو گئی جیسا کہ پہلے تھی۔

حکایت نمبر ۱۳:

ایک ولی کو بتلا کرنے کی کوشش اور اس کا عجیب اثر

حضرت عبد اللہ بن مسلم عجلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک نہایت حسین عورت رہتی تھی۔ اس نے ایک شخص سے شادی کر کھی تھی۔ اس عورت

(۹۰) انظر کتاب التوابین لابن قدامة ص ۲۷۳-۲۷۵، طبع دار الكتاب العربي۔

نے ایک روز اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھا تو اپنے خاوند سے کہا آپ کا کیا خیال ہے کوئی شخص ایسا ہے جو میرا یہ چہرہ دیکھ لے اور بدکاری کا ارادہ نہ کرے؟ خاوند نے کہا ہاں ایک شخص ہے۔

عورت نے کہا کہ وہ کون ہے؟
کہا حضرت عبید بن عمر۔

عورت نے کہا تو پھر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو اپنا دیوانہ بناتی ہوں؟ خاوند نے کہا تجھے اجازت ہے۔

تو وہ عورت مسئلہ پوچھنے والی کے روپ میں ان کے پاس آئی تو آپ اس کو مسجد جرام کے ایک کونہ میں لے گئے۔ عورت نے اپنے چاند کے نکڑے جیسے چہرے سے پرداہ ہٹا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا اے خدا کی بندی! (یہ کیا کرتی ہو؟) عورت نے کہا کہ میں تم پر فریقت ہو گئی ہوں تم میرے بارہ میں غور کرو۔

آپ نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم مجھے اس کا صحیح صحیح جواب دیوگی تو میں تمہارے معاملہ میں غور کروں گا۔

عورت نے کہا آپ مجھے جس چیز کے بارہ میں سوال کریں گے میں صحیح صحیح جواب دوں گی۔

آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ملک الموت تمہارے پاس تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئے تو کیا وہ تمہیں اس کی مہلت دیے گا کہ میں تیری حاجت پوری کر دوں؟

عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم انہیں۔

آپ نے فرمایا تم نے درست کہا۔

پھر پوچھا اگر تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے اور پھر سوال و جواب کے لئے بٹھایا جائے تو کیا تجھے اس کی ہمت ہو گی لہ میں تیری یہ حاجت پوری کر دوں؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم انہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے چ کہا۔

پھر پوچھا جس وقت لوگوں کو اعمالنامے دیئے جا رہے ہوں اور تجھے معلوم نہ ہو کہ تیرا اعمالنامہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا باعث میں میں؟ تو کیا تیرے لئے آسان ہوگا کہ میں تیری یہ حاجت پوری کروں!

عورت نے کہا اللہ کی قسم! نہیں۔

آپ نے فرمایا تم نے درست کہا۔

پھر آپ نے پوچھا اگر تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب کے لئے پیش کیا جائے تو کیا تیرے لئے آسان ہوگا کہ میں تیری یہ حاجت پوری کروں؟

عورت نے کہا اللہ کی قسم! ہرگز نہیں۔

آپ نے فرمایا تم نے بحکم کہا۔

پھر فرمایا اے اللہ کی بندی! اللہ سے ڈر و اللہ نے تم پر انعام کیا اور تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت جب اپنے خاوند کے پاس واپس آئی تو اس نے پوچھا تو نے کیا کیا؟

عورت نے جواب دیا کہ تم بھی آوارگی میں ہو اور ہم بھی (کہ اپنی قیمتی زندگی تو ضائع کرنے پر تلمے ہیں) پھر وہ نماز، روزہ اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئی (اور اپنی زندگی کو اپنے لئے خدا کے سامنے قیمتی بنانا شروع کر دیا)۔ تو اس کا خاوند کہا کرتا تھا میں نے عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور کیا ہے کہ اس نے میری ڈیوی کو میرے حق میں بے کار کر دیا ہے جو ہر رات میرے لئے دہن بنانے کرتی تھی اس نے اسے راہبہ (گوشہ نشین) بنادیا ہے۔

حکایت نصیر:

گناہ سے بچنے پر بادل نے سایہ کیا

ایک بنسٹری بجانے والے کا ایک یڑوی کی لوٹدی یردل آگیا اور لوٹدی کے

مالک نے لوٹدی کو اپنے کسی کام کے لئے دوسرے گاؤں میں بھیجا اور بمری بجانے والا اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو گناہ کے بارہ میں بھلایا۔ تو لوٹدی نے کہا جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں تم سے اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ذرتی ہوں لہذا تم بھی اس گناہ کے کرنے سے باز رہو۔ تو بمری والے نے کہا تم تو خدا سے ڈر میں کیوں نہ ڈروں۔ پھر وہ توبہ کر کے واپس لوٹ آیا۔

پھر اس کو راستہ میں اتنی سخت پیاس لاحق ہوئی (کہ پیاس کی خشکی سے) اس کی گردان ٹوٹنے کے قریب ہو گئی کہ اچانک بنی اسرائیل کی قوم کے ایک نبی اس کے سامنے تشریف لائے اور اس سے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے؟ عرض کیا پیاس نے ترپایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اہم آؤ ہم دعا کریں تاکہ ہم پر بادل سایہ کرے اور ہم (اس کے سایہ میں) گاؤں تک پہنچ جائیں۔ جوان نے کہا میرا تو کوئی عمل نہیں ہے کہ (اس کے بل بوتے پر) دعا کروں (اور وہ قبول ہو جائے)۔ تو اس نبی نے فرمایا تو پھر میں دعا کرتا ہوں تم اس پر آمین کہو چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس نے آمین کی اور ان دونوں پر بادل نے سایہ شروع کر دیا یہاں تک بمری والے نے اپنے گھر کو راستہ لیا تو بادل بھی اس کی طرف روانہ ہوا۔

تو وہ نبی اس شخص کی طرف پلٹئے اور پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ تیرا کوئی نیک عمل نہیں ہے اس لئے میں نے دعا کی اور تم نے آمین کی بھی پھر ہم پر بادل نے سایہ کیا پھر وہ تیرے اوپر سایہ کرنے لگا؟ تم مجھے اپنے معاملہ سے باخبر کرو۔ تو اس نے اپناب واقعہ سنایا تو اس رسول نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے درجہ پر تیرے کر دوسرے کوئی اس دین میں نہیں ہوتا۔ (۹۱)

(فائدہ) طالب یہ ہے کہ توبہ نے والے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بعض اوقات بطور قدردانی کے اپنی کسی غیر قدرت کا اس پر انعام فرمادیتے ہیں تاکہ دوسرے

(۹۱) هذه القصة ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين ص ۱۱۰-۱۱۱
تحقيقاً.

گناہگاروں کو توبہ کا شوق ہو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس توبہ کرنے والے کی شان اس نبی سے بڑھئی تھی کہ بادل نے اس پر سایہ کیا نبی پر نہیں کیا۔ (امداد اللہ)

حکایت نصیر الدین:

تمہت لگانے والوں کو آگ نے جلا دیا

بنی اسرائیل میں دو شخص عابد تھے اور ایک سون نامی عبادت گزار لوئندی بھی تھی۔ یہ ایک باغ میں آیا کرتے تھے اور وہاں پر اللہ کے حضور میں قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں عابدوں سون کے عشق میں مبتلا ہو گئے لیکن ہر ایک نے دوسرے سے اس کو چھپایا اور ہر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اس کو دیکھنے لگا اس طرح سے ان کی خود ایک دوسرے پر نگاہ پر گئی اور ایک دوسرے سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے؟ اس طرح سے ان کا مقصد فاش ہو گیا کہ دونوں ہی سون کی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ پھر ان دونوں نے طے کیا کہ ہم مل کر اس کو بھٹکائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سون سے کہا تھے تو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ہماری بات پر کتنا یقین رکھتی ہے اگر تو ہمارا مقصد پورا نہیں کرے گی تو ہم صبح ہونے کے بعد لوگوں کو کہیں۔ گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کسی شخص کو پکڑا ہے لیکن ہم سے وہ مرد تو بھاگ گیا ہے اور تھے پکڑ لیا ہے تو سون نے کہا میں پھر بھی تمہیں ناپاک ارادہ پورا نہیں کرنے دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑا اور لوگوں کے سامنے نکال لائے اور کہنے لگے کہ ہم نے سون کو کسی شخص کے ساتھ پکڑا ہے اور وہ مرد ہمارے باٹھ سے چھوٹ کر بھاگ گیا ہے۔

چنانچہ لوگوں نے سون کو چبوترہ پر کھڑا کیا۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ گناہگار کو تین دن تک اسی طرح سے کھڑا کرتے تھے پھر آسمان سے کوئی سی سزا نا مازل ہوتی تھی جو اس کو تباہ کر دیتی تھی۔

چنانچہ انہوں نے اس سون کو بھی کھڑا کیا تیرا دن ہوا تو حضرت دانیال علیہ

السلام تشریف لائے جب کہ وہ تیرہ سال کی عمر میں تھے لوگوں نے ان کے لئے کری رکھی اور آپ اس پر تشریف فرمائے اور حکم دیا کہ ان دونوں مردوں کو میرے سامنے پیش کرو تو وہ ہنستے مذاق کرتے ہوئے سامنے آئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کو (الگ کر کے) پوچھا تو نے سون کو کس درخت کے پیچھے دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا سب کے درخت کے پیچھے۔ پھر دوسرے سے پوچھا تم نے سون کو کس درخت کے پیچھے (گناہ میں) دیکھا تھا؟ تو ان دونوں کے بتلانے میں اختلاف ہو گیا۔ پھر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور سون کو رہا کر دیا گیا۔

حکایت نمبر ۱۴:

اللہ کا دروازہ تو بند نہیں

بصرہ میں ایک شخص کا ایک کاشتکار تھا اس کی بیوی بہت خوبصورت بھرے ہوئے جسم کی مالک تھی۔ مالک کے دل میں شیطان آیا تو اس عورت کو سواری پر منگا کر اپنے محل میں بلا لیا۔ پھر کاشتکار کو حکم دیا کہ تم ہمارے لئے تازہ بھجور اتار کر لاو اور ان کو تھیلوں میں بھر دو۔ پھر کہا کہ اب جا کر فلاں فلاں آدمیوں کو بلا کر لاو تو وہ چلا گیا اور اس نے اس کی بیوی سے کہا محل کا دروازہ بند کر دو تو اس نے بند کر دیا پھر کہا محل کے تمام دروازے بند کر دو تو اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔

پھر مالک نے پوچھا کوئی ایسا دروازہ تو نہیں رہ گیا جس کو تو نے بند نہ کیا ہو؟

عورت نے کہا اپاں ایک دروازہ ایسا ہے جس کو میں نے بند نہیں کیا۔

مالک نے کہا کونسا دروازہ بند نہیں کیا؟

عورت نے کہا وہ دروازہ جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کھلا ہوا ہے۔

تو وہ شخص روپڑا اور پسند پسند ہو کر واپس چلا گیا اور گناہ سے نجی گیا۔

حکایت نمبر ۱۷:

خدا کے سامنے میں حلال نہیں کر سکتی تو حرام کا ارتکاب کیسے کروں؟

ایک دیہاتی اپنی قوم کی ایک لوٹدی کے پاس علیحدگی میں ملا اور اس کو گناہ کی ترغیب دی تو لوٹدی نے جواب دیا

تو تباہ ہو جائے اللہ کی قسم! جس کام کا تو کہہ رہا ہے اگر یہ نکاح
کے بعد ہوتا تو بھی (میرے نزدیک) برا ہوتا۔

دیہاتی نے پوچھا وہ کیسے؟

کہا (اس لئے کہ) اللہ جو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ دیہاتی اس جواب کے سختے
کے بعد اس مکروہ ارادہ سے باز آگیا۔

حکایت نمبر ۱۸:

مجھے لذت گناہ لینے کی بجائے ہاتھ جلانا منظور ہے

ایک حسین ترین عابدہ زادہ عورت کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا تو اس کی بڑی خواہش بھڑک اٹھی تو وہ اس کے پاس گیا اور اس سے اپنے ارادہ کا اظہار کیا تو عورت نے انکار کیا اور کہا جو تو دیکھ رہا ہے اس کے دھوکہ میں نہ پڑا یسا بھی نہیں ہو گا۔ لیکن مرد بھی اپنی ضد پر ڈال رہا تھا کہ عورت کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس عورت کے ایک طرف آگ کے انگارے پڑے ہوئے تھے اس نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا کہ اس کا ہاتھ جل گیا۔ جب مرد گناہ سے فارغ ہوا تو عورت سے پوچھا تو نے اپنا یہ ہاتھ کیوں جلایا ہے؟ عورت نے کہا جب تو نے زبردستی سے مجھ پر قابو پالیا تو میں ذر گئی کہ لذت گناہ میں میں تیری شریک نہ بن جاؤں اور میں بھی تیری طرح گناہ گار نہ ٹھہروں میں نے یہ ہاتھ اسی لئے جلایا ہے۔

تو مرد نے کہا (اگر یہ بات ہے تو) اللہ کی قسم میں بھی اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ اور اس نے جو گناہ کیا تھا اس سے بھی توبہ تائب ہوا۔

صحابت نمبر ۱۹:

بادشاہ کے لئے عبرت

ایک بھی بادشاہ شکار کھینے کے لئے نکلا اور اپنے ساتھیوں سے پچھڑ گیا۔ اس کا ایک گاؤں سے گزر ہوا اور اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی تو اس کو گناہ کی ترغیب دی۔ تو عورت نے جواب دیا کہ میں پاکی میں نہیں ہوں۔ غسل کر کے آتی ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر میں گئی اور ایک کتاب نکال کر لے آئی اور کہا آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں میں ابھی آتی ہوں۔ تو اس نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں زنا کی سزا کھی ہوئی تھی تو وہ عورت سے غافل ہو کر روانہ ہو گیا۔

پھر جب اس کا خاوند آیا تو عورت نے اس کو واقعہ سنایا۔ تو خاوند اس خوف سے کہ شاید بادشاہ کو اس کی ضرورت ہو یوں کے پاس نہ گیا اور الگ رہنے لگا۔

تو عورت کے میکے والوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ ہماری زمین (یعنی عورت) اس آدمی کے قبضہ میں ہے نہ تو یہ اس کو آباد کرتا ہے نہ میں واپس لوٹتا ہے (یعنی اس کو طلاق بھی نہیں دیتا اور وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کرتا) اس نے اپنی بیوی کو بے کار کر رکھا ہے۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اس زمین (عورت) میں شیر (بادشاہ) کا میلان دیکھا ہے اس لئے میں اس زمین میں داخل ہونے سے ڈرتا ہوں۔ تو بادشاہ سمجھ گیا (کہ اس کا اشارہ میری طرف ہے) اور اس آدمی سے کہا تم اپنی زمین (عورت) کو آباد کرو شیر اس میں داخل نہیں ہو گا تمہاری زمین بہت خوبصورت ہے۔

شادی کی ترغیب و اہمیت

نکاح کا فائدہ

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان آنحضرت ﷺ کے پاس ایسے تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء. (۹۲)

(ترجمہ) اے گروہ نوجواناں! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیونکہ یہ نظر کو (محرامات کے دیکھنے سے) جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جس جوان میں نکاح کی ہمت نہیں (یعنی بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا) تو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ روزے اس کے لئے (گناہ سے) دور رہنے کا (ذریعہ) ہیں۔

(۹۲) رواہ البخاری (۱۹۰۵) و (۵۰۶۶)، و مسلم (۱۴۰۰)، و أبو داود (۲۰۴۶)، والترمذی (۱۰۹۱)، والنمسائی ۵۷/۶، و ابن ماجہ (۱۸۴۵)، والدارمی (۲۱۶۵-۲۱۶۶)۔ وأحمد فی المسند (۴۰۱۳، ۳۵۸۹۱)۔

نوجوان کی شادی پر شیطان کا واویلا

(حدیث) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ایما شاب تزوج فی حداثة سنہ عج شیطانه: یا ویله عصم منی دینہ. (۹۳)

(ترجمہ) جو نوجوان شروع جوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان اس پر واویلا کرتا ہے کہ ہائے اس پر افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین محفوظ کر لیا۔

اولادگناہ میں بتلا ہو تو باپ بھی گناہگار ہوگا

(حدیث) حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن لمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من ادرک له ولد وقد بلغ النکاح و عنده ما يزوجه فلم يزوجه فاحدث فالاثم بينهما.

(ترجمہ) جس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اور باپ کے پاس ہمت اور رشتہ میسر تھا لیکن اس کی شادی نہ کی پس اسی دوران لڑکا گناہ میں ملوث ہو گیا تو اس گناہ میں دونوں (باپ بیٹا) شریک ہوں گے۔ (بیٹا گناہ کرنے کی وجہ سے اور باپ باوجود قدرت کے بیٹے کی شادی نہ کرنے کی وجہ

(۹۲) حدیث موضوع۔ عزاه السیوطی فی الجامع الصغیر ۱۴۱/۳ لأبی یعلی، ورمذ لضعفه۔ وعزاه الہیشی فی مجمع الزوائد ۲۵۳/۴ لأبی یعلی والطبرانی فی الأوسط، ثم قال: "وقیه: حمالد بن اسماعیل المخزوی، وهو متوفى"۔ وقال المنوی فی فیض القدیر ۱۴۱/۳ بعدما ذکر کلام الہیشی: "قال ابن الجوزی: تفرد به حمالد - يقصد: ابن اسماعیل المخزوی -، وقال ابن عدی: بعض، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال"۔

سے)۔

منگیت کو دیکھنا

جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من ارادان يَتَزَوْجَ امْرَأةً فَلِيُنْظِرْ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحٍ هَا فَذلِكَ أَحْرَى أَنْ يُودِمَ بَيْنَهُمَا.

(ترجمہ) جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ اس کا وہ حصہ (چہرہ) دیکھ لے جو اس کی طلب کی دعوت دیتا ہے کیونکہ یہ طریقہ ان کے مابین دائمی محبت کے لئے زیادہ مناسب ہے (اور اگر بن دیکھے کسی عورت سے شادی کر لی اور دیکھا تو پسند نہ آئی اور روز روز کے جھگڑے فساد کھڑے ہوئے تو یہ بات درست نہیں)

حسن کے ساتھ منگیت کا دیندار ہونا قابل ترجیح ہے

نیز اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ آدمی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

فاطفر بذات الدین تربت یداک. (۹۳)

(ترجمہ) تیرے ہاتھ خاک آلوہ ہوں دیندار عورت کا انتخاب کر۔ (یہ خاک آلوہ ہونے کا جو لفظ آپؐ نے ارشاد فرمایا

(۹۴) رواہ البخاری (۵۰۹۰)، و مسلم (۱۴۶۶)، و أبو داود (۲۰۴۷)، والنسائی (۳۲۳۰)، و ابن ماجہ (۱۸۵۸)، والدارمی (۲۱۷۰)، وأحمد فی المسند (۹۲۳۷)۔

ہے کہ بطور محبت اور اور بطور تنبیہ کے فرمایا ہے۔)

عاشق کس سے شادی کرے

جو شخص کسی کی محبت کا شکار ہو اور وہ شادی کا ارادہ کرے تو وہ اسی عورت سے شادی کی کوشش کرے جس کے عشق میں بتلا ہے یہ شادی کرنا بھی جب جائز ہے جب اس عورت سے شادی کرنا جائز ہو (اگر وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں موجود ہے یادہ عورت محربات میں سے ہے) تو پھر (اس کی بجائے) کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس سے اس کے عشق کی آگ مخنثی ہو کہ جب وہ اس کو دیکھے تو اس کو تسلیم ہو۔

بغیر محبت کے شادی

حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ہر شادی (جس میں شادی کرنے والے کی) محبت نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت ہوگی (کیونکہ جب میاں بیوی میں سے کسی ایک کو دوسرے سے محبت نہ ہوگی تو وہ دوسرے کے حقوق میں کوتا ہی کرے گا جو قیامت کے دن حسرت بنے گا۔ ان میں سے جس کو دوسرے سے محبت ہوگی وہ اس کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کرے گا اور قیامت کے دن سرخ رو ہو گا ہاں اگر ناجائز خواہشات کی تکمیل کی تو پھر حسرت و ندامت ہوگی اور عذاب بھگلتا پڑے گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو وہ غفور رحیم ہے مگر اس کی مغفرت کو دیکھ کر اتنا نہیں چاہئے۔..... (امداد اللہ)

باب 35

بیوی کو خاوند کے خلاف کرنے کی مذمت

(حدیث) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من خبب امراء علی زوجها فليس منا.

(ترجمہ) جو شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے (یعنی اس نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا)۔

حکایت نصیرا:

بادشاہ کی آنکھیں انڈھی اور ہاتھ خشک ہو گئے

بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جو کپڑا بننے کا کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کی شہرت بنی اسرائیل کے اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ تک جا پہنچی تو اس بادشاہ نے اس عورت کے پاس ایک بڑھیا کو بھیجا اور کہا تم اس کو اس کے خاوند کے خلاف کر دوا اور کہو کیا تم اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایک کپڑا بننے والے کے پاس پڑی ہو؟ اگر تم میرے پاس ہوتی تو میں تجھے سونے سے لا دیتی۔ تجھے ریشم پہنائی اور نوکر چاکر تیری خدمت کو مقرر کرتی چنانچہ اس بڑھیا نے ایسا ہی جا کر کہا۔

یہ حسین و جمیل عورت اپنے خاوند کے لئے روزہ افطاری پیش کرتی تھی اور اس کا بستر سنوارتی تھی اس نے یہ خدمت چھوڑ دی اور خاوند کے حق میں گبڑ گئی۔ تو خاوند

نے پوچھا اے ہنات تجھے کیا ہو گیا ہے تمہاری ایسی بد خلقی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ تو عورت نے کہا بس ٹھیک ہے جو میں نے کیا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو اس نیک آدمی نے اس کو طلاق دیدی اور اس طالم بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔

جب وہ جملہ عربی میں گیا اور پردے چھوڑ دیئے تو بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے چاہا کہ چلو اس کو ہاتھ سے تو چھولوں تو اس کا وہ ہاتھ بھی خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ بھی خشک ہو گیا۔ اور یہ دونوں بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت منادی گئی۔

جب صحیح ہوئی اور پردے ہٹا گئے تو یہ بہرے، اندھے اور گونگے پائے گئے۔ تو ان کی خبر بنی اسرائیل کے ایک نبی کے سامنے عرض کی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا (کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے؟) تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے اس کپڑا بننے والے سے کیا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا تھا؟

حکایت نمبر ۳:

ابو مسلم خولاںی کی بد دعا نے اندھا کر دیا

حضرت عثمان بن عطاءؑ اپنے والدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولاںی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو گھر کے دروازہ پر اللہ اکبر کہتے تھے تو آپ کی اہمیت بھی اللہ اکبر کہتی تھیں، جب آپ گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے تو بھی اللہ اکبر کہتے تھے تو بھی ان کی بیوی ان کو جواب دیتی تھیں، پھر جب وہ کمرہ کے دروازہ پر پہنچتے تھے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے اور آپ کی بیوی ان کو جواب دیتی تھیں۔

ایک رات وہ گھر واپس آئے اور گھر کے دروازہ پر تکبیر کہی تو ان کو کسی نے جواب نہ دیا، پھر جب صحن میں داخل ہوئے اور تکبیر کہی تو بھی ان کو کسی نے جواب نہ

دیا، پھر جب کمرے کے دروازہ پر پہنچے اور تکسیر کی تو بھی آپ کو کسی بنے جواب نہ دیا۔ حالانکہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب آپ گھر میں وارد ہوتے تھے تو ان کی بیوی ان کی کملی اور جوتے اتنا تھیں پھر ان کے پاس کھانا لاتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ جب آپ (اس دن) گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں دیا تک نہیں جلایا گیا تھا اور ان کی بیوی گھر میں سر نجا کئے ہوئے لکڑی سے زمین کو کرید رہی تھیں۔ آپ نے بیوی سے پوچھا تھے کیا ہوا؟ (آج تم بگڑی ہوئی کیوں ہو) تو انہوں نے کہا آپ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بڑا مرتبہ ہے (وہ آپ کی بہت عزت فرماتے ہیں) ہمارا کوئی نوکر نہیں ہے اگر آپ ان سے اس کا ذکر کرتے تو وہ غلام ہماری خدمت کرتے اور آپ کو غلام بھی مل جاتا۔
تو آپ نے یہ سن کر یہ دعا کی:

اللهم من افسد على امراتي فاعم بصره.

(ترجمہ) اے اللہ! جس نے میری بیوی کو میرے خلاف بگڑا ہے اس کو اندرھا کر دیں

کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے پاس ایک عورت آئی تھی اور وہ یہ کہہ گئی تھی کہ تیربے خاوند کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بڑا مقام و مرتبہ ہے اگر تم اس سے کہو کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی خادم کا مطالبہ کرے وہ اس کو خادم دیدیں تو تم عیش سے رہو۔

کہتے ہیں اسی دوران میں کہ وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک اپنی بینائی کھونے پر کہنے لگی تمہارے دنے کو کیا ہو گیا وہ کیوں بجھ گیا ہے؟ گھروالوں نے کہا نہیں وہ کہاں بجھا ہے وہ تو جل رہا ہے۔ اس وقت اس عورت کو معلوم ہوا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ پھر وہ حضرت ابو مسلمؓ کی خدمت میں روئی ہوئی حاضر ہوئی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ میری بینائی واپس

لوٹا دیں، تو حضرت ابو مسلم نے اس پر ترس کھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بینائی واپس کرنے کی دعا فرمائی تب اس کی بینائی لوٹ کر آئی۔

(فائدہ) یہ حضرت ابو مسلم بہت بڑے مشہور تابعی اور صاحب کرامت ولی ہیں پہلے یہ ایک کافروں کے ملک میں رہا کرتے تھے جب یہ اسلام لائے تو ان کو بڑی بڑی سزا میں دی گئیں یہ پھر بھی اپنے ایمان و اسلام پر قائم رہے حتیٰ کہ آگ جلا کر ان کو اس میں ڈالا گیا تو آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا نار نمرود کی طرح بالکل نہنڈی اور معتدل رہی اور آپ اس سے زندہ سلامت نکل آئے تو اس ملک کے ظالم بادشاہ نے آپ کو ملک بدر کر دیا تھا۔ (امداد اللہ)

(فائدہ-۲) مذکورہ حکایات سے قارئین اندازہ لگائیں کہ کسی کی بیوی کو خراب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے اس لئے جو لوگ تعویذ وغیرہ سے یہ کام کرتے ہیں ان کو ان واقعات سے عبرت پکڑنی چاہئے اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارہ میں نصیحت کرنی چاہئے۔ (امداد اللہ)

اشتہار

تذکرة الاولیاء صفحات 400

”طبقات الصوفية“ امام ابو عبد الرحمن سلمی (م ۳۱۲ھ) کی شاندار تالیف، پہلی چار صدیوں کے ایک سوا کا برا اولیاء کا سوانحی خاکہ، ارشادات، ولایت، عبادت، اخلاق اور زبد کے اعلیٰ مدارج کی تفصیلات ہر مسلمان کیلئے حصول ولایت و محبت، الہمیہ کے رہنمایاں اصول، سچے اولیاء کرام کی پہچان کے صحیح طریقے۔

باب 36

عشق کیا ہے؟

حکماء زمانہ کے اقوال

افلاطون کہتا ہے کہ
”عشق“ بغیر فکر کے بے کار نفس کی ایک حرکت کا نام ہے۔

ارسطاطالیس

کہتا ہے کہ
”عشق“ محبوب کے عیبوں کے ادراک سے حس کا اندازہ ہونا ہے۔

فیشا غورس

کہتا ہے کہ
عشق ایک ایسا لالج ہے جو دل میں پیدا ہوتا، حرکت کرتا اور تمنا کرتا ہے پھر
جب یہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں حرص کا مواد جمع ہو جاتا ہے، پھر یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے
عاشق کا ہیجان اور منت و سماجت اور قوی ہو جاتا ہے طمع بھی طویل ہو جاتی ہے غلط
خواہشات کی فکر میں ڈوب جاتا ہے، طلب کی حرص تیز ہو جاتی ہے حتیٰ کہ یہ تباہ کن غم
تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔

سراط

کہتا ہے
عشق دیوانگی ہے اس کی بھی کئی اقسام ہیں جس طرح سے جنون
کی کئی اقسام ہیں۔

ایک فلسفی

کہتا ہے کہ
میں نے عشق سے زیادہ حق کو باطل کے زیادہ مشابہ اور باطل کو حق کے زیادہ
مشابہ نہیں دیکھا۔ اس کی خرافات حقیقت ہیں اور اس کی حقیقتیں خرافات ہیں، اس کی
ابتداء کھیل تماشہ سے شروع ہوتی ہے اور انہیں ہلاکت ہے۔

علمائے اسلام کے نزدیک

امیر المؤمنین (مامون الرشید) نے (قاضی) یحییٰ بن اکرم سے عشق کے متعلق
پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ

یہ ایک حادثہ ہے جو کسی انسان کو لاحق ہوتا ہے اس کا دل معتوق
کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اپنی جان کو اس پر نچاہو کر دیتا ہے۔

تو ان کو ثماں نے کہا اے یحییٰ ”تم خاموش ہو جاؤ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم
طلاق کے (مسئل میں) جواب دیا کرو محروم نے اگر ہر فی کاشکار کیا ہو یا چیزوں کو مارا
ہو تو اس کا حکم شرعی بیان کرو۔ لیکن مسئلہ (عشق وغیرہ کے جو ہیں ان) کے متعلق
ہم سے پوچھا جائے۔

تو مامون نے کہا اے ثماں تم بتاؤ عشق کیا ہے؟
تو ثماں نے عرض کیا کہ عشق مفید ہم نہیں ہے قابل الفت انہیں ہے، اپنی ایک

حکومت رکھتا ہے۔ اس کے راستے لطیف ہیں اس کے مذاہب قابل طعنہ زندگی ہیں۔ اس کے ادکام ظالمانہ ہیں۔ یہ جسموں کا بھی مالک ہے اور ان کی ارواح کا بھی اور دلوں کا بھی اور ان کے خیالات کا بھی اور آنکھوں کا بھی اور ان کی نظر کا بھی، اور عقولوں کا بھی اور ان کی آراء کا بھی، اس کو طاعت کی باغ ڈور اور وفا شعراً کا مالک بنایا گیا ہے۔ اس کے داخل ہونے کا راستہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور دلوں تک پہنچنے کا راستہ نظر میں نہیں آتا۔

تو ما مون نے کہا اے شمامہ اللہ کی قسم! تم نے بہت خوب بیان کیا۔ پھر اس نے شمامہ کے لئے ایک ہزار اشر فیوں کا (ابطور انعام) حکم دیا۔

ایک دیہاتی کہتا ہے

ایک دیہاتی نے عشق کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ جنون کی ایک قسم نہیں ہے تو جادو کا نچوڑ ضرور ہے۔

ایک عورت کے نزدیک

امام اصمیؒ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عشق کی تعریف میں بہت سے اقوال پیش کئے ہیں میں نے ان میں سے مختصر اور جامع قول کسی کا نہیں سنا جو عرب کی ایک عورت نے کہا جب اس سے پوچھا گیا کہ عشق کیا ہے؟ تو اس نے کہا ذلت اور پاگل پن ہے۔

میں (ابن جوزیؒ) کہتا ہوں کہ (یہ عشق تعریف نہیں بلکہ) عشق کا نتیجہ اور انجام ہے۔

عشق کے درجات

سب سے پہلے انسان میں کسی کی خوبی اترتی ہے۔ پھر اس سے قرب کا ارادہ

پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوستی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو دوست پر کامیابی حاصل ہو جائے۔ پھر یہ دوستی طاقت پکڑ کر محبت میں تبدیل ہوتی ہے پھر خلت میں تبدیل ہوتی ہے پھر ہوئی میں تبدیل ہوتی ہے اور ہوئی یہ ہے کہ آدمی بے اختیار محبوب کی محبت میں اتر جاتا ہے پھر عشق ہوتا ہے پھر ”تیم“ ہوتا ہے اور ”تیم“ یہ ہے کہ معشوق عاشق کا مالک ہو جاتا ہے عاشق اپنے دل میں معشوق کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ پھر اس میں ترقی ہو کر ”ولہ“ کے درجہ پر پہنچتا ہے اور ”ولہ“ کا معنی ہے کہ عاشق اپنی حد ترتیب سے خارج ہو جائے اور کچھ بھی تمیز نہ رہے۔ (۹۵)

محبت جنس ہے اور عشق اس کی نوع ہے

محبت ایک جنس ہے اور اس کی ایک قسم عشق ہے کیونکہ آدمی اپنے باپ اور بیٹے سے بھی تو محبت کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو وہاں پر ہلاکت میں نہیں ڈالتا بخلاف عاشق کے۔ چنانچہ ایک عاشق کا قصہ ہے کہ

جب اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کو وہ چاہتا تھا تو اس پر لرزہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو گیا تو ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تو دل اچھل اچھل گیا اور اس کے دل کے اچھلنے کی وجہ سے اس کے جسم میں حرکت آگئی۔

کسی نے کہا ہم بھی اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے ہیں ہمیں تو ایسا نہیں ہوتا؟ حکیم نے کہا وہ محبت عقل سے ہوتی ہے (عاشق کی) محبت روح سے ہوتی ہے۔

باب 37

اسباب عشق و محبت

حکماء قدیم

حکماء قدیم کہتے ہیں کہ نفوس کی تمیں فسمیں ہیں۔

۱۔ نفس ناطقہ: اس کی محبت معارف اور فضائل کے حاصل کرنے کی طرف رغبت رکھتی ہے۔

۲۔ نفس حیوانیہ: عصبیہ اس کی محبت قهر، غلبہ اور ریاست کی طرف رغبت رکھتی ہے۔

۳۔ نفس شہوانیہ: اس کی محبت کھانے پینے اور جماع کی طرف مائل رہتی ہے۔

اسباب عشق

اسباب عشق میں سے ایک غزل اور گانا سننا بھی ہے یہ نفس میں صورتوں کے نقوش کی تصویر کھینچتا ہے پھر صورت موصوف کا خمار کرتا ہے اور نظر کسی صورت کو مستحسن سمجھتی ہے اور اس طرح سے نفس اس کا طالب ہو جاتا ہے جس کو اس نے حالت وصف میں طلب کیا تھا بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ عشق اپنے ہم جنس سے ہی ہوتا ہے (یعنی انسان کا انسان سے عشق ہوتا ہے جیوان سے نہیں ہوتا) اور یہ بقدر تشاکل قوی اور ضعیف ہوتا رہتا ہے اور اس کا استدلال آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلاف وما تناکر منها

اختلاف (۹۶)

(ترجمہ) روئیں تیار شدہ لشکر ہیں جن کا (آپس میں) تعارف ہو گیا وہ (یہاں دنیا میں بھی) آپس میں محبت کرتے ہیں اور جن کی وہاں پر جان پہچان نہ تھی وہ (اس دنیا میں بھی آپس میں) اختلاف رکھتے ہیں۔

دو قالب یک جان عاشق و معشوق

احمد بن محمد غنوی کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں گیا تو وہاں کے ظریف اطیع لوگ میرے پاس آئے اور کہا یہاں دو جوان ہیں جو آپس میں بہت محبت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہاں ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عیادت کو جائیں میں نے کہا مجھے بھی لے چلوم تم یہاں کا حال پوچھنا میں تند رست کا حال پوچھوں گا۔ چنانچہ ہم چلے گئے وہاں جا کر ہم نے ایک جوان کو دیکھا جو ایک چار پائی پر پڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کی طرف رخ کئے ہوئے اس سے مکھیاں بھی ہٹا رہا ہے اور اس کے چہرہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے جب اس نے ہمیں دیکھا تو اپنے دوست کے پاس سے ہٹ گیا اور ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ چنانچہ میرے ساتھی یہاں کے ارد گرد بیٹھے اور میں تند رست کے پاس بیٹھ گیا۔ تو جب یہاں کہتا ہائے میری ران، تو تند رست بھی کہتا ہائے میری ران، اور جب یہاں کہتا ہائے میرا ہاتھ تو تند رست بھی کہتا ہائے میرا ہاتھ۔

یہاں تک کہ جب میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ جوان فوت ہو گیا ہے اللہ اس پر رحمت کرے پھر انہوں نے اس کے جڑے باندھے تو (اوھر تند رست بھی فوت ہو گیا) اور میں نے اس کے جڑے باندھے اور ہم نے ان کو شام ہونے سے پہلے پہلے دفن کر دیا۔

(۹۶) رواہ البخاری معلقاً محرر و مأ، فی کتاب الانبیاء، باب (۲) (۳۶۹/۶)، و مسلم (۲۶۳۸)، و أبو داود (۴۸۳۴)، و أحمد فی المستد (۷۸۷۶)۔

بے عقل جنس میں بھی میلان ہوتا ہے

بعض حضرات نے بے عقل جنس میں بھی آپس میں ملاپ کا رجحان دیکھا ہے چنانچہ ابو مسلمہ منقری کہتے ہیں کہ ہمارے بصرہ میں ایک کھجور تھی پھر اس کی تازہ کھجور کی تعریف کر کے کہا کہ اس کا پھل خراب ہونے لگ گیا تو وہ بے کار ہو گئی تو اس کے مالک نے ایک بوڑھے کو بلا یا جو کھجوروں کا علم رکھتا تھا تو جب اس بوڑھے نے اس کھجور کو اور اس کے ارد گرد کی کھجوروں کو دیکھا تو کہا یہ فلاں نر کھجور کی عاشق ہے جو اس کے قریب تھا پھر اس نے نر کھجور کا شنگوف اس مادہ کھجور (کے شنگوفہ) میں ڈال دیا تو وہ کھجور پہلے سے بھی بیترین کھجور یہ دینے لگ گئی۔

عشق کب جڑ پکڑتا ہے

عشق بہت زیادہ، کیھنے، بہت ملاقات رکھنے، طویل گفتگو کرنے سے اگر اس کے بعد معاونت ہو جائے یا بوس و کنار ہو جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ قدیم حکماء کہتے ہیں کہ جب دوچار ہو جائے والوں کا آمنا سامنا ہو جائے اور ہر ایک کالعاب چوں کر دوسرے کے معدہ تک پہنچ جائے اور تمام بدن میں مل جل جائے اس کا انتقال ہو جائے تو دائی محبت آپس میں واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان میں سے ہر ایک دوسرے کے منہ میں سانس لے اور اس سانس کے ساتھ جو غبار معدہ سے نکلتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ناک میں چھینک لینے کے ساتھ پہنچ جائیں اور بعض دماغ میں پہنچ جائیں اور پھر اس میں اس طرح سے تخلیل ہو جائیں جس طرح سے نور بلور کے جسم میں سراہیت کر جاتا ہے اور بعض کے جسم تک پھر دل تک پہنچ جائے پھر چلنے والی رگیں تمام بدن میں اس کو پھیلایا دیں تو اس سے ہر ایک کے بدن سے دوسرے کے بدن میں تخلیل ہو جائے اور ایک مزاج ہو جائے تو اسی سے عشق پیدا ہوتا اور پروان چڑھتا ہے۔

باب 38

نمذمت عشق

حضرات اہل علم میں عشق کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ قابل تعریف ہے یا قابل نہ مذمت ہے؟

تو ایک جماعت اہل علم یہ کہتی ہے کہ یہ قابل تعریف ہے کیونکہ عشق لطافت طبیعت سے ظاہر ہوتا ہے جو جامد طبیعت ہوتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا اور جو عاشق نہیں ہوتا وہ موٹی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔

یہ عشق عقل کو جلا بخشا ہے ذہنوں کو صاف کرتا ہے بشرطیکہ یہ عشق حد سے نہ بڑھ جائے اور جب یہ حد سے بڑھ جائے تو پھر زہر قاتل بن جاتا ہے۔

ایک اور جماعت اہل علم کی کہتی ہے کہ عشق قابل نہ مذمت ہے کیونکہ یہ عاشق کو اپنا اسیر بنالیتا ہے اور بہت دور مقام میں جاگراتا ہے میں کہتا ہوں ان دونوں اقوال میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ محبت چاہت اور میلان خوبصورت چیزوں اور ملائم چیزوں کی طرف قابل نہ مذمت نہیں یہ مردہ حس اشخاص کے علاوہ سب انسانوں میں پایا جاتا ہے لیکن وہ عشق جو میلان اور محبت سے گذر کر عقل پر قبضہ کر لے اور خلاف حکمت کی طرف عاشق کو بتلا کر دے تو ایسا عشق مذموم ہے اسے علمائے حکمت نے منع کیا ہے امام شعبی فرمایا کرتے تھے۔

اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الھوی

فانت او عییر بالغلاة سواه

(ترجمہ) جب تو کسی سے عشق نہ کرے اور عشق سے بے خبر بھی ہو تو اور جنگل والا

اوٹ برابر ہیں۔

(فائدہ) یاد رہے کہ اس عشق سے یہاں پر عشق جائز نہ رہے جو اپنی بیوی سے ہو یا کسی نیک عالم سے محبت ہو یا اولاد سے محبت ہو آج کا جو مشہور اور حرام عشق ہے وہ مراد نہیں ہے۔..... (مترجم)

عشق کے نقصانات

(۱) عاشق حضرات عام طور پر شہوت سے اپنے نفس کو نہ بچائے کرنے میں جانوروں کی حد سے بھی بڑھ گئے ہیں جب ان کی شہوت جماع پر قادر نہ ہو سکتے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہے تو یہ شہوت میں اور تیز ہو جاتے ہیں اور بدکاری کی ذلت میں پھنس کر اور ذلیل ہو جاتے ہیں جبکہ حیوان قضاۓ شہوت کے دفعیہ پر ہی کفایت کرتا ہے اور یہ عاشق اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لئے عقل کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہیں۔

دین کا نقصان

عشق کی وجہ سے دنیا اور دین کا نقصان بہت ظاہر ہے دین کا نقصان تو یہ ہے کہ عاشق کا دل شروع شروع خالق کی فکر سے غیر متوجہ ہو جاتا ہے معرفت خداوندی، اللہ کا خوف اور حصول قرب الہی کی فکر نہیں رہتی اس کے بعد حرام کا جتنا ارتکاب کیا اتنا ہی وہ آخرت کے نقصان میں مبتلا ہوا اور خود کو پیدا کرنے والے (اللہ تعالیٰ) کی سزا کا مستوجب ٹھہرایا اس طرح سے وہ جتنا اپنی خواہشات و عشقیات کے قریب ہوتا گیا اتنا ہی اپنے مولا سے دور ہوتا گیا اور عشق اپنی حد حلال تک باقی نہیں رہتا بلکہ ترقی کر کے گناہ کی حدود تک پہنچ جاتا ہے۔

دنیا کا نقصان

دنیا میں عشق کا نقصان یہ ہے کہ یہ دامنِ غم، لگاتار فکر، وسوس، بے خوابی، کم کھانے، زیادہ جانے میں پھنسا رہتا ہے پھر یہ اعصاب پر مسلط ہو کر بدن کو پیلا، اعضاء میں رعشہ، زبان میں تو تلاپن، بدن میں لاغری کو پیدا کر دیتا ہے اور رانے کو بے کار، دل کو تدیرِ مصلحت سے غائب، آنسوؤں کو لگاتار، حسرتوں کو مسلسل، چیخ و پکار کو جاری، سانس کو چھوٹا اور دل کو بجھا دیتا ہے پھر جب دل پر کامل غشی چھا جائے تو دیوانگی ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کو تلف ہونے کے دہانے پر لاکھڑا کرتی ہے اس طرح سے کتنے عاشق ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس دیوانگی میں اپنے کو ہلاکت میں ڈالا اور لوگوں میں اپنی قدر و منزلت کو تباہ کیا اور اکثر بیشتر بدندنی سزا اور حد کی سزا کو پہنچے۔

اشتہار

فضائل شادی

صفحات 256

”الافقاًح فِي أحاديث النكاح“ حافظ ابن حجر عسکری کا ترجمہ مع اضافات۔ شادی اور نکاح کے متعلق تمام کتب حدیث میں موجود اکثر احادیث کا مجموعہ جن میں نکاح اور شادی کے فضائل، آداب، اہمیت، طریقہ ازدواجیت اور شادی کے ظاہر اور پوشیدہ موضوعات اور مسائل پر حاوی و لچپ اور ضروری کتاب۔

باب 39

ابتلاءِ عشق کے بعد خود کو گناہ سے بچانے کا ثواب

(حدیث) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من عشق فکتم و عف ثم مات شهیدا.

(ترجمہ) جس نے (کسی سے) عشق کیا پھر اس کو (اپنے دل ہی دل میں) چھپایا اور پا کدا منی اختیار کی (معشوق سے گناہ میں ملوث نہ ہوا) اور اسی (عشق کی حالت) میں فوت ہوا تو وہ شہید کی موت مرا۔

(جامع صغیر ۸۸۵۳، فیض القدر ص ۱۸۰ جلد ۶۔ بحوالہ زبیر بن بکار وزرکشی و قال اسنادہ؟ صحیح، وذکر ابن حزم فی معرض الاحتجاج و قال رواۃ ثقات اھ۔ (مترجم) (فائدہ) اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو وہ اس حدیث پر عمل کر کے شہادت کا درجہ حاصل کرے احیاء العلوم کی شرح السادہ المتقین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کے انعام میں جنت میں داخل فرمائیں گے اس حالت میں وفات کو شہادت کا درجہ اس لئے دیا گیا ہے کہ جس طرح سے مسلمان خود کو دنیا کی لذات سے مستغنی کر کے کافر کے سامنے اعلاء کلمہ حق کے لئے سردہڑ کی بازی لگا دیتا ہے اسی طرح عاشق عشق شدید کو دبا کر اللہ کے فرمان کے مطابق اس کے نتیجہ بد سے کنارہ کش رہتا ہے۔ (مترجم)

باب 40

عشق کی آفات

(مہلک بیماری، بدحالی، دیوانگی وغیرہ)

حکایت نمبر ۱:

مرتے دم تک گونگارہا

کسری بادشاہ کا ایک دربان ایک لوئڈی پر عاشق ہو گیا بادشاہ نے ایک دن اس کوڈ اشاتواں کے اوسان خطہ ہو گئے اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے اس کو التباس ہو گیا جب جواب کے لئے حاضر ہوا تو اس کی زبان توتلی ہو گئی چنانچہ وہ اسی طرح پر گونگاہی رہا بولنا چاہتا تو بول نہیں سکتا تھا اس کے لئے کسری نے علاج کرانے کو طبیب بلا۔ لیکن ان کا اس پر کوئی بس نہ چلا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔

حکایت نمبر ۲:

معشوق کا گھردیکھنے سے ہی نیند آتی تھی

عمرو بن مناۃ خزائی ایک مرتب لیلی خزانیعیہ کے پاس سے گزر اجنب یہ اراکہ کی بیوی تھی اور اپنی قوم کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ عمرو حسن گفتار اور نفیس اشعار کہنے میں مشہور و معروف تھا اس سے عورتوں نے کہا یہاں آؤ ہمارے ساتھ باتیں کرو چنانچہ وہ ان سے باتیں کرنے کے لئے بیٹھ گیا اور اس نے لیلی بنت عینیہ کو دیکھا اور

اسے دل دے بیٹھا اور اس کا معاملہ عشق بڑھ گیا اور اتنا تیز ہوا کہ جب تک اس کے گھر انہ والوں کے گھر نہ دیکھ لیتا نہ آتی اس کو وسو سہ ہو گیا عقل گم ہو گئی اور بس اسی کے ذکر میں زبان تر رہتی تھی اور اس کے بارہ میں بہت سے اشعار کہے۔

حکایت نمبر ۱۳:

پتھر مارنے والا مجنوں

عبداللہ بن ہمام کہتا ہے کہ میں کسی کام کی خاطر (شہر سے باہر) نکلا تو میں نے ابن ابی مالک کو حیرہ اور کوفہ کے درمیان بیٹھنے دیکھا میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو ہمارا ساتھی کرتا تھا میں نے پوچھا تمہارا ساتھی کون ہے؟ کہا لیلی کا عاشق بنی عامر کا مجنوں، عبداللہ بن ہمام کہتا ہے اس کی ایک طرف پتھر پڑا تھا اس نے اس کو اٹھایا اور میرے پیچھے دوڑا (اور اتنے زور سے میری طرف غصہ سے پتھر پھینکا کہ) وہ مجھ سے بھی آگے جا گرا۔

حکایت نمبر ۱۴:

ابنے بازو کا ٹنے والا ننگا عاشق

محمد بن زیاد اعرابی کہتا ہے کہ میں نے گاؤں میں ایک دیہاتی کو دیکھا جس کے گلے میں تعویذ لشکے ہوئے تھے خود ننگا تھا صرف شرمنگاہ پر ایک چیڑھڑا باندھا ہوا تھا اس کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پیچھے بڑھیا تھی جس نے رسی کو ایک کنارہ سے پکڑا ہوا تھا یہ دیوانہ اپنے بازو چباتا تھا میں نے بڑھیا سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے میں نے پوچھا اس کی یہ کیا حالت ہے؟ کیا اس کو شیطان کی طرف سے سرکشی تو نہیں؟ کہنے لگی نہیں اللہ کی قسم بلکہ یہ اور اس کی چچا زاد ایک ہی مکان میں پروان چڑھے اور جوان ہوئے اور یہ اس سے دل لگا بیٹھا اور وہ اس سے دل لگا بیٹھی لڑکی کے گھر والوں نے اس کو پابند کر رکھا ہے اور اس سے روک رکھا ہے اسی وجہ سے

میرے بیٹے کی عقل زائل ہو گئی ہے اور وہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو میں نے بڑھیا سے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس کا نام عکرمہ ہے میں نے کہا اے عکرمہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا اصابنی داء قیس و عروہ و جمیل۔

فالجسم منی تحیل
وفی الفواد غلیل

(ترجمہ) مجھے قیس (مجنوں) عروہ اور جمیل (جیسے عاشقوں) کی مرض لگی ہوتی ہے اس لئے میرا جسم لاغر ہے اور دل میں محبت کی شدید پیاس ہے۔

حکایت نصرت:

ہارون رشید عاشق ہو گیا

سلیمان بن ابو جعفر یہاں اس کو پوچھنے کے لئے ہارون رشید بادشاہ اس کے پاس گیا اس نے سلیمان کے پاس ایک لوندی کو دیکھا جو حسن و جمال اور شکل و شباہت میں انتہا درجہ کو پہنچی ہوتی تھی اس کا نام ضعیفہ تھا یہ ہارون رشید کے دل میں اتر گئی تو اس نے سلیمان سے کہا یہ مجھے ہبہ کر دو تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین (ہارون) یہ آپ کے لئے ہبہ ہے جب ہارون رشید نے لوندی کو لے لیا تو سلیمان اس سے محبت ہونے کی وجہ سے یہاں پڑ گیا پھر سلیمان نے یہ اشعار کہے۔

اشکوالی ذی العرش ما
لاقیت من امرالخلیفه

یسع البریه عدلہ
ویرید ظلمی فی ضعیف

علق الفواد بمحبها کالحبر یعلق بالصحیفة

(ترجمہ)

- (۱) مجھے خیفہ (ہارون رشید) کے (میری لوندی لے جانے کے) کام سے جو اذیت پہنچی ہے میں اس کو عرش والے (اللہ) کے سامنے شکایت کرتا ہوں۔
- (۲) تمام مخلوقات میں اس کے انصاف کی چہل پہل ہے لیکن وہ ضعیفہ (لوندی) کے حق میں مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔
- (۳) میرا دل اس کی محبت میں چپکا ہوا ہے جیسے سیاہی کاغذ سے چپکی ہوتی ہے جب ہارون رشید کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لوندی کو سلیمان کے پاس واپس کر دیا۔

حکایت نمبر ۴:

دوران طواف عاشقوں پر رحمت کی دعا

حضرت اسمعیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو طواف میں یہ کہتے ہوئے سن
اللهم مالک یوم القضاء و خالق الارض والسماء
ارحم اهل الہوی فانک قریب فمن دعا.

(ترجمہ) اے اللہ! فیصلے کے دن کے مالک، آسمان و زمین
کے خالق، عاشقوں پر رحم کریں کیونکہ آپ اس کے قریب ہیں
جو آپ سے التجا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ شعر کہا
یا رب انک ذو من و مغفرة
ثبت بعافية منك

(ترجمہ)

اے پروڈگار! آپ احسان اور مغفرت کرنے والے ہیں آپ اپنی طرف سے

ہمارے محبوب کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا۔
میں نے کہا

اے عورت تو گناہ کی بات کرتی ہے اور وہ بھی طواف کی حالت میں؟
اس نے کہا مجھ سے دور بہت جا تجھے محبت جو نہیں ہوئی۔
میں نے کہا محبت سیاہوتی ہے؟

تو اس نے کہا جو چھپاۓ چھپنی نہیں اور دیکھنے سے دکھائی نہیں دیتی اس کی ایسی
بھی کمین گاہیں ہیں جیسے پھر میں آگ چھپی ہوتی ہے اگر تو اس کو رُڑے تو اس سے
آگ ظاہر ہوتی ہے اگر نہ رُڑے تو چھپی رہتی ہے۔

اصفیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے رہا حتیٰ کہ اس کا گھر دیکھ لیا پھر
جب کل کادن ہوا تو سخت بارش ہوئی پھر میں اس کے دروازہ کے سامنے سے گزار
جب کہ وہ اپنی ہم من سہیلوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے یہ کہہ رہی تھیں
ہمیں بارش نے پریشان کر دیا ہے اگر یہ نہ برستی تو ہم طواف کے لئے نکلتیں پھر اس
نے یہ شعر کہے۔

فَالْوَاضِرِ بِنَا السَّحَابَ وَقَطْرَهُ

هذى السماء لرحمتى تبکى لاتعجبوا مما ترون فانما

(ترجمہ)

(۱) جب لوگوں نے میرے آنسو بہانے کی نقل اتارتے ہوئے بادل کو اور اس کی
بارش کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ (بادل اور اس کی بارش نے ہمیں ایذا میں
متلا کیا ہے)۔

(۲) جو تم دیکھ رہے ہو اس سے حیران مت ہو وہ کیونکہ یہ آسمان (میرے بہت
روئے پر) ترس کھا کر رہا ہے (یعنی برس رہا ہے)

میرا دل عاشق نہ ہو جائے

ایک حاجی بیان کرتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا جب رات کا اکثر حصہ گذر چکا تو میں نے ایک ایسی حسین عورت کو دیکھا گویا کہ وہ نیلے میں گاڑی ہوئی تھی پر چمٹتا ہوا سورج ہے وہ عورت یہ کہہ رہی تھی۔

رأيت الهوى حلوا اذا جتمع الوصل
ومرأ على الهرج ان لابل هو القتل

ومن لم يذق للهجر طعم ما فانه
اذا ذاق طعم الوصل لم يدر ما اللوصل

وقد ذقت طعميه على القرب والنوى
فابعده قتل واقربه خبل

(ترجمہ)

(۱) میں نے محبت کو مزے دار دیکھا ہے جب وہ وصال کے ساتھ حاصل ہوا اور کڑوا دیکھا ہے جب جدائی ہو بلکہ یہ حالت قتل کے متراوی ہے۔

(۲) اور جس نے فراق کا ذائقہ نہیں دیکھا جب یہ وصال کا مزہ پائے گا تو اس کو کیا خبر کہ وصال محبوب کیا ہوتا ہے۔

(۳) میں نے تو قرب اور دوری دونوں ذاتی چکھر کئے ہیں محبوب کی دوری قتل ہے اور اس سے قرب کا حاصل ہونا دل کو تباہ کرنا ہے۔

اس کے بعد وہ عورت مزی تو مجھے دیکھ لیا اور کہا اے جوان! نیک گمان رکھنا، کیونکہ جس کی قوت کسی چیز کے اٹھانے میں کمزور ہو جائے وہ اس کو راحت حاصل کرنے کے لئے پھینک دیتا ہے اور محبت کے بوجھ اٹھانے سے بھاگتا ہے۔ میں نے اسی بات کا اظہار کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کراما کا تبین اس کو لکھتے

ہیں۔ اگر اس نے چھپ کر گناہ کرنے والوں کو معاف کر دیا تو میں بھی ان میں شامل ہوں گی اور اگر ان کو سزا دی تو ہائے حضرت گناہ گاروں کے لئے۔ اس کے بعد وہ رو نے لگلی۔

تو جس خوبصورت انداز سے اس کے آنسو لر رہے تھے میں نے اتنا خوبصورت طرز سے ان جواہرات کو بھی گرتے ہوئے نہیں دیکھا جن کی لڑی ٹوٹ گئی ہو۔ پھر میں ذر کے مارے اس سے دور ہو گیا کہ میرا دل اس پر دیوانہ نہ ہو جائے۔

دَكَایَتْ نَصْبَر٦:

بد کاری کو چھپاتے ہوئے مر گئی

ایک آدمی نے مجھے بیان کیا کہ ایک عورت ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی جب کشتی کے ایک جگہ پر پہنچی تو عورت نے کہا مجھے یہاں سے اوپر چڑھا دو۔ لوگوں نے کہا یہ تو چڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟

اس نے کہا مجھے ضروری ہے۔ چنانچہ اس کو اوپر چڑھا دیا گیا۔

وہ شخص کہتا ہے کہ (ہم اس کو وہاں چڑھا کر) آگے چلے گئے۔ پھر جب ہم واپس لوئے اور اس کو دیکھا تو اس نے ایک بچہ جناہ ہوا تھا اور خود مر چکی تھی۔

یہ عورت تھی جو گناہ کے ارتکاب کے بعد اس کی عار کو چھپانے کے لئے اپنے شہر سے بھاگی تھی اور عار پر موت کو ترجیح دی۔ آپ بھی غور کریں کہ ناجائز خواہشات کرنے والوں کے ساتھ ان کی یہ حرکات کیا کچھ کرتی ہیں۔

دَكَایَتْ نَصْبَر٧:

عشق میں باپ کو داؤں پر لگانے والی کے مکڑے مکڑے ہو گئے

عبداللہ بن مسلم بن قتبہ کہتے ہیں کہ میں نے "سیر العجم" میں پڑھا ہے کہ جب اردشیر کی حکومت مستحکم ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے زیر

نگوں رہنے کا اقرار کیا تو اس نے ملک سریانیہ کا محاصرہ کیا۔ اس ملک سریانیہ نے حضرت نامی شہر میں پناہ لے رکھی تھی۔ اردشیر کو باوجود محاصرہ کرنے کے فتح حاصل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اس بادشاہ کی بیٹی قلعہ کے اوپر چڑھی اور اردشیر کو دیکھ کر اس کے عشق میں بنتا ہو گئی۔ پھر وہاں سے اتر کر ایک تیر انھیا اور اس پر لکھا

اگر تم میری یہ شرط تسلیم کرو کہ مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں وہ راستہ بتاتی ہوں جس کے ذریعے سے تم شہر کو معمولی حیلہ اور تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ فتح کر سکتے ہو۔“

پھر اس تیر کو اردشیر کی طرف پھینکا جس کو اردشیر نے پڑھا اور ایک تیر انھا کر اس پر لکھا

”جس کا تم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔“

پھر اس کو شہزادی کی طرف پھینکا۔ تو شہزادی نے اردشیر کو وہ خفیہ راستہ بتلا دیا اور اردشیر نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اس طرح سے شہر میں داخل ہوا کہ شہر والے بے خبر تھے۔ اس طرح سے اس نے بادشاہ کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کا خون کیا۔ اور شہزادی کو بیاہ کر لے گیا۔

شادی کے بعد وہ ایک رات پلنگ پر سورہی تھی لیکن اس کو بستر کے آرام وہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر رات نیند نہ آئی اردشیر نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ (تمہیں نیند کیوں نہیں آرہی؟) کہا میرا بستر درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے بستر کے نیچے دیکھا تو درخت مورو کے گچھے کی ایک لٹ نظر آئی جس نے شہزادی کی جلد پر نشان کر دیا تھا۔ تو بادشاہ کو شہزادی کے جسم کی ملائحت سے بڑی حیرت ہوئی اور اس سے پوچھا تمہارا باپ تمہیں کیا غذا کھلاتا تھا؟

کہا کہ اس کے پاس میری اکثر غذا شہد، ہڈیوں کا گودا اور مغز اور مکھن ہوتی تھی۔

تو اردو شیر نے اس کو گھا کہ تیرے باپ سے زیادہ تیرے ساتھ کسی نے اتنا اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر تو نے اپنی طرف سے اس کے احسان کا بدلہ اس کی بیٹی ہونے اور اس کے حق عظیم ہونے کے باوجود اتنا گھنا و نا ادا کیا ہے تو میں ایسی عورت سے اپنے کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔

پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو تیز رفتار گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ دو پھر اس کو دوڑا دو چنانچہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا اور وہ نکڑے نکڑے ہو کر گر گئی۔

حکایت نمبر ۱:

آگ پر چڑھی ہائڈی میں چچ کی جگہ ہاتھ ہلانے لگا

سمنوں کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا اس کی ایک لوئندی سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ لوئندی یہاں ہوئی۔ چنانچہ یہ اس کے لئے پتلی سی کوئی نرم غذا پکانے لگا اسی دوران جب وہ ہائڈی کو ہلا رہا تھا لوئندی نے ایک آہ بھر، تو جوان کے ہاتھ میں جو چچ تھا وہ تو گر گیا اور یہ ہائڈی میں ہاتھ ہلانے لگ بنا کہ اس کی انگلیوں کا گوشت جھٹر گیا اور اس کو معلوم تک نہ ہوا۔ پھر جب لوئندی نے اس کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہوا؟

تو جوان نے کہا کہ یہ تمہاری آہ کی جگہ ہوا ہے۔

حکایت نمبر ۱۱:

بیس کروڑ کی شادی

زینب بنت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اپنے حسن میں یکتا تھی موصولہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ یہ اب ان بن مرودان بن الحکم کی بیوی تھی۔ جب اب ان بن مرودان فوت ہوا تو اس کے پاس (خلیفہ وقت) عبد الملک داخل ہوا (اپنی بھا بھی)

زینب کو دیکھا تو اس نے عبد الملک کا دل چڑھا لیا۔ تو عبد الملک نے زینب کے بھائی مغیرہ بن عبد الرحمن کو لکھ بھیجا کہ تم میرے پاس آ جاؤ چنانچہ وہ عبد الملک کے پاس آیا لیکن اپنی رہائش یحییٰ بن الحکم کے پاس رکھی۔ تو یحییٰ نے مغیرہ سے کہا کہ امیر المؤمنین (عبد الملک) نے آپ کی طرف اس لئے خطر روانہ کیا ہے کہ وہ آپ کی بہن زینب سے شادی کرنا چاہتا ہے اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہو تو اس سے مطالبہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے تو یحییٰ نے کہا میں صرف آپ کی ذات کے لئے آپ کو چالیس ہزار اشرفیاں (تقریباً بیس کروڑ) دینے کے لئے تیار ہوں۔ میں زینب کو راضی کرلوں گا بس تم اس سے میری شادی کر ادوس۔ اس کے بعد تمہاری بہن کو (دنیا اور دولت سے) راضی کرنا اور اس سے شادی کرنا میرے ذمہ ہے۔ تو یحییٰ کو مغیرہ نے کہا اب اس کے بعد کیا حیلہ بہانہ رہ گیا۔ پھر اس کی اس سے شادی کرادی۔ جب اس شادی کی خبر عبد الملک بن مروان کو پہنچی تو اس پر بہت افسوس کیا۔ پھر یحییٰ بن الحکم کو ہر قسم کا لائق دیا (کہ تم اس کو طلاق دیدو تاکہ میں اس سے شادی کروں) تو یحییٰ نے جواب میں کہا (مجھے آپ کے شاہی عوض کی کچھ حاجت نہیں اب تو بس) گھی کے ڈبے اور زینب کافی ہیں یعنی جب زینب میرے پاس ہو تو یہ زندگی گھی کے ڈبوں پر پوری خوشی کے ساتھ کٹ سکتی ہے۔

باب 41

معشوق کی خاطر عاشقوں کے حیلے اور خود کو
ہلاکت میں ڈالنے والے حضرات کی حکایات

حکایت نصرا:

محل سے چھلانگ لگا کر جان دیدی

خلیفہ عبد الملک بن مروان کا ایک در بابن ابوریحانہ کہتا ہے کہ عبد الملک ہر ہفتہ میں دو دن کھلی کچھری لگاتا تھا۔ وہ اسی طرح ایک روز بلند جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے مقدمات پیش کئے گئے ان میں سے ایک مقدمہ بلا ترجمہ کے تھا اس میں کسی نے لکھا کہ

اگر امیر المؤمنین چاہے تو اپنی فلاں لوئڈی کو حکم دے کہ وہ تمیں انداز سے گانا گائے۔ اس کے بعد میرے متعلق امیر المؤمنین جو حکم فرمائے مجھے بسر و چشم قبول ہے۔

تو امیر المؤمنین غصہ میں کھڑے ہو گئے اور فوراً حکم دیا کہ اے رباح! اس ربعے والے کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو باقی سب لوگ چلے گئے اور اس غلام کو پیش کیا گیا یہ جوان تمام نوجوانوں میں حسین ترین شکل و شباءست کا مالک تھا۔ عبد الملک نے اس کو کہا اے جوان! کیا یہ تمہارا خط ہے؟

اس نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ میرا ہی ہے۔ عبد الملک نے کہا تجھے ہم سے

کس چیز نے بے خوف کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے تماشہ عبرت بنادوں گا اور ایسے جرات کرنے والے تیرے جیسوں کے لئے تجھے سبق بنادوں گا۔ لوندی کو میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ لوندی کو پیش کیا گیا اس کی شکل ایسی تھی جیسے چاند کا مکڑا ہو اس کے ہاتھ میں سارنگی تھی۔ اس کے لئے کرسی بچھائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔

پھر عبد الملک نے کہا اے جوان اس کو حکم دو۔ نوجوان نے کہا اے لوندی قیس بن ذریع کے اشعار گاؤ۔

لقد كنت حسب النفس لودام و دنا
ولكنما الدنيا متعة غرور

و كنا جميعا قبل ان يظهر الهوى
بانعم حالى غبطة و سرور

فما برح الواشون حتى بدت لنا
بطون الهوى مقلوبة بظهور

(ترجمہ)

(۱) اگر ہماری محبت ہمیشہ رہتی تو خواہش کے بالکل موافق تھی۔ لیکن دنیا تو دھوکہ کا سامان ہے۔

(۲) عشق و محبت کے ظہور سے پہلے ہم دونوں رشک و سرور اور خوشحالی میں رہتے تھے۔

(۳) (ایسی طرح سے معاشق کی) رنگینیاں ظاہر ہوتی ہیں یہاں تک کہ عشق کی حقیقت ظاہر ہوئی جو ظاہر کے خلاف تھی۔

(جب جوان نے یہ شعر نے) تو اس پر جتنے کپڑے تھے سب پھاڑ دیئے پھر عبد الملک نے جوان سے کہا تم اس (لوندی) کو کہو کہ یہ دوسری طرز میں گائے نوجوان نے کہا جیل (مجنوں) کے اشعار گا کر سناؤ۔

الا ليت شعري هل ابيتن ليلة
بوادى القرى انى اذن لسعيد
اذقلت مابى يابشينة قاتلى
من الحب قالت ثابت ويزيد
وان قلت ردى بعض عقلى اعش به
مع الناس قالت ذاك منك بعيد
فلا انامر دود بما جئت طالبا
ولاحبه فيما يبيده يبيده
يموت الهوى منى اذا مالقيتها
ويحيى اذا فارقتها فيعود

(ترجمہ)

- (۱) کاش میں جانتا ہوتا کہ وادی قری میں رات گزار لوں تو میں بڑا سعادت مند ہوتا۔
- (۲) جب میں نے کہا کہ اے بشینہ! مجھے محبت میں قتل کر دینے والی میری محبت کا کیا بنا؟ کہنے لگی ویسے ہی پکی ہو چکی ہے بلکہ اور بڑھ رہی ہے۔
- (۳) اگر میں نے اس سے کہا کہ میری کچھ عقل واپس کر دوتا کہ میں لوگوں کے ساتھ چینے کے قابل تو رہوں؟ اس نے کہا یہ (مطالبه) تو تمہاری طرف سے بہت بعید ہے۔
- (۴) جس کے مطالبه کے لئے آیا ہوں اس سے محروم نہ کیا جاؤں اور جہاں محبوبہ کی محبت (آزمائش کی جگہ میں) ختم ہوتی ہے فنا ہو سکتی ہے۔
- (۵) جب میں محبوبہ سے ملاقات کرتا ہوں تو خواہش عشق مت جاتی ہے اور جب

اس سے جدا ہوتا ہوں تو زندہ ہو کر لوٹ آتی ہے۔
جب ان اشعار کو لونڈی نے گایا تو جوان غش کھا کر ایک گھڑی کے لئے گر گیا۔
پھر جب افاقہ ہوا تو اس کو عبد الملک نے کہا۔ اس لونڈی کو تیری طرز میں کہوتیرے
لئے گا کر دکھائے۔

تو بُنوجوان نے کہا اے لونڈی قیس بن ملوح (مجنوں) کے اشعار گاؤ۔

وَفِي الْجَيْرَةِ الْغَادِينَ مِنْ بَطْنِ وَجْرَةِ
غَزَالٍ غَضِيْضِ الْمَقْلَتَيْنِ رَبِيبٌ

فَلَا تَحْسِبِي أَنْ غَرِيبَ الدِّيْنِ نَائِيٌّ
وَلَكُنْ مِنْ تَنِينَ عَنْهُ غَرِيبٌ (۷۹)

(ترجمہ)

(۱) وادی وجرہ سے جیرہ شہر میں ہجرت کرنے والے ہر، نگاہ کو نیچار کھنے والے سوتیلے۔

(۲) تم یہ نہ سمجھنا کہ مسافروہ ہے جو دور دراز سفر پر گیا ہو بلکہ دور دراز کا مسافر تو وہ ہے جس کو تم دور کر دو گی۔

جب لونڈی نے یہ شعر گائے تو اس جوان نے خود کو اسی بلند جگہ سے نیچے گرایا اور وہ نیچے پہنچتے ہی دم توڑ گیا۔

تو عبد الملک نے کہا اس پر افسوس ہے اس نے اپنے متعلق بڑی جلدی کی۔ اس کے متعلق میرا فیصلہ کچھ اور ہی تھا جو اس نے کیا ہے۔ پھر عبد الملک نے لونڈی کو حکم دیا اور اس کو محل سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر اس جوان کے متعلق دریافت کیا (کہ یہ کون تھا؟) تو لوگوں نے کہا یہ کوئی بے وطن مسافر ہے اس کے بارہ میں کسی کو علم نہیں بس یہ تین راتوں سے بازاروں میں آوازیں دیتا تھا اور ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے

کہتا تھا۔

غدا يكثرا الواشون منا و منكم.

و تز داد دارى عن دياركم بعدها.

(ترجمہ) کل ہم میں اور تم میں بہت سے لوگ زیب و زینت کے ساتھ نکلیں گے۔ اور میرا گھر تمہارے گھروں سے اور زیادہ دور ہو جائے گا۔

حکایت فصل ۳:

عاشق و معشوق کا عجیب ترین واقعہ

ابوالفرج احمد بن عثمان ابن ابراہیم فقیہ ابن النرجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کم سنی کے زمانہ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں موجود تھا اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ مجھے والد صاحب نے یہ بیان کیا کہ کس کس عجیب طریقہ سے لوگ نعمتوں تک پہنچے۔

ان حاضرین میں میرے والد گرامی کا ایک دوست ایسا تھا جس نے میرے والد کو اپنے دوست کی حکایت بیان کی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک تاجر دوست تھا جو دعوت میں ایک لاکھ دینار تک خرچ کر دیتا تھا۔ بڑی مرمت والا تھا۔ اس کے سامنے دستر خوان چنا گیا اور اس میں (پھل سبزی) کو سامنے لایا گیا تو اس نے اس کونہ کھایا تو ہم بھی اس کے کھانے سے رک گئے۔ اس نے کہا تم کھاؤ مجھے تو اس رنگ کے کھانے سے اذیت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر بھی میں کھا کر آپ لوگوں کی مدد کروں گا۔ پھر اس نے اذیت برداشت کی اور کھایا۔ جب اس نے ہاتھ دھوئے تو بہت دریگاڈی میں نے اس کے ہاتھ دھونے کو گناہ تو اس نے چالیس مرتبہ دھوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا اسے جناب کیا آپ کو دسواس ہو گیا ہے؟ تو کہا یہی وہ اذیت ہے جس کی خاطر میں اس سے خلاصی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟

تو وہ بیان کرنے سے رکا لیکن میں نے منت سماجت کی تو اس نے بیان کیا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اس وقت میری عمر میں سال تھی۔ اس نے وراثت میں میرے لئے معمولی سی نعمت چھوڑی تھی اور سرمایہ تجارت اور سامان ان کی دکان میں تھا اور ہماری دکان کرخ (شہر) میں تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہا

اے میرے بچے! تیرے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں ہے۔ نہ مجھ پر کسی کا قرضہ ہے اور نہ میں نے کسی کا حق دبارکھا ہے۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن دینا اور اتنا مال مجھ پر صدقہ کرنا اور اتنے کا حج کرنا اور باقی مال میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں اور میری اس وصیت کو یاد رکھنا۔

میں نے کہا کہ وہ کیا وصیت ہے؟

کہا اپنا مال فضول ضائع نہ کرنا کہ تو لوگوں کے مال کا محتاج بن جائے اور تجھے کچھ ہاتھ نہ آئے یاد رکھو! اصلاح کے ساتھ تھوڑا سا مال بھی بہت ہے اور فساد مال کے ساتھ بہت سارا مال بھی کچھ نہیں ہے۔ بازار سے وابستہ رہنا اور سب سے پہلے اس میں داخل ہونا اور سب سے آخر میں اس سے باہر نکلنا اور اگر تم میں سحری کے وقت بازار میں جانے کی ہمت ہو تو ایسا ضرور کرنا۔ اگر تم نے میری ان نصیحتوں پر عمل کیا تو دنیا تمہیں بڑا نام دے گی۔

چنانچہ میرا والد فوت ہو گیا۔ اور میں نے اس کی وصیت پر پورا پورا عمل کیا۔ سحری کے وقت بازار میں داخل ہوتا تھا اور عشاء کے وقت واپس آتا تھا۔ حتیٰ کہ جو لوگ کفن دفن کا انتظام نہ کر سکتے تھے تو ان کی ضروریات کو بھی میں ہی پورا کرتا تھا اور وہ میرے پاس ہی آتے تھے کوئی اور ان کی اس ضرورت کو پورانے کر سکتا تھا۔ اور جو شخص اپنی کوئی چیز فروخت کرنے آتا تھا اور بازار والے اس کو نہیں خریدتے تھے تو اس کی چیز میں بکوادیتا تھا۔

ای طرح سے بازار کے ساتھ میری واٹنگلی کو ایک سال سے کچھ زائد عرصہ بیت گیا اور بازار والوں میں میرا ایک نام ہو گیا اور انہوں نے میری استقامت دیکھی اور میری عزت کرنا شروع کر دی۔

اسی حالت میں میں ایک دن بازار میں بیٹھا ہوا تھا ابھی بازار گرم نہیں ہوا تھا کہ ایک عورت مصری گدھے پر سوار نظر آئی اس کی گدھی پر شکاری پرنده کی کھال کا رو مال تھا اور ایک خادم بھی ساتھ تھا یہ عورت بادشاہوں کے وکیل المصرف اور خرید و فروخت کرنے والی کی شکل میں تھی۔ یہ بازار کے آخر تک پہنچی پھر واپس لوٹی اور میرے پاس آ کر اتر پڑی چنانچہ میں (اس کے استقبال کے لئے) انھ کھڑا ہوا۔ اس کی عزت کی اور پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں کیا حکم ہے؟ پھر میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ اتنا حسین تھی کہ میں نے اس جیسی نہ تو پہلے دیکھی نہ اس کے بعد اب تک اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تو وہ بولی مجھے ایسا اور ایسا کپڑا درکار ہے۔ تو میں نے اس کی آواز میں ایک ایسا نغمہ اور ایسی شکل دیکھی جس نے مجھے قتل کر دیا اور میں اسی وقت اس پر شدید ترین عشق میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا آپ صبر کریں یہ لوگ چلے جائیں تو میں آپ کی فرماش پیش کروں میرے پاس اس وقت بہت کم ہے جو آپ کے شایان شان ہے۔ پھر جو کچھ میرے پاس تھا وہ نکال کر میں نے سامنے رکھ دیا۔

پھر وہ بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کرتی رہی اور اس کے عشق کی میرے دل پر چھریاں چلتی رہیں۔ پھر اس نے اپنی انگلیاں ظاہر کیں تو وہ طلوع ہونے والے چاند کی طرح تھیں اور اس کا چہرہ چاند کے ہالہ کی طرح تھا۔ تو میں اس خوف سے انھ گیا کہ مجھ پر عشق کا معاملہ اس سے زیادہ سخت نہ ہو جائے (اور میں دیوانہ نہ ہو جاؤں) اور اس کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے اس کے لئے بازار سے لے کر پوری کر دیں اور اس سارے سامان کی قیمت پانچ سو دینار (تقریباً ۲۵۰۰۰۰ پیس لاکھ روپے) بتی تھی۔ اس نے وہ سامان لیا۔ سوار ہو گئی اور مجھے کچھ بھی ادا بیگی نہ کی اور

چلتی ہی۔

چونکہ میرے دل میں خواہش نفس گھر کر چکی تھی اس لئے میں نے اس کو ادا بیگل کئے بغیر مال لے جانے سے نہ رکا اور نہ ہی اس کے گھر کا پوچھا اور نہ یہ کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب وہ میری آنکھوں سے اوچھل ہو گئی تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ چکر باز تھی اور یہی میرے فقر و فاقہ کا سبب بنے گی۔ پس میں اپنے معاملہ میں ششدرا اور حیران رہ گیا اور مجھ پر قیامت ٹوٹنے لگی۔ لیکن میں نے اپنی کیفیت کو چھپا لیا تاکہ لوگوں کے قرضوں کی وجہ سے مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ پھر میرے قبضہ میں جتنا سامان تھا اس کو میں نے بیچ ڈالا اور میرے پاس جتنے روپے نقد جمع تھے ان کو ساتھ ملا کر لوگوں کے قرضے اتاردیئے اور گھر بیٹھ گیا۔ اور و راشت میں جوز میں ملی تھی اس کے نلد سے گذر اوقات کرنے لگا اور خود کو محنت و مشقت میں ڈال دیا۔ میری یہ حالت ایک ہفتہ کو پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت میرے گھر آئی ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو جو کچھ مجھ پر بیٹی تھی سب بھول گیا اور اس کے اعزاز میں کھڑا ہو گیا۔

تو اس نے کہا اے نوجوان ہم کسی کام میں مشغول ہو گئے تھے اس لئے تمہارے پاس دیر سے پہنچے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم نے یہی سوچا ہو گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ حیله بازی کی تھی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ اس سے بلند کرے۔

اس نے کہا (میرے بیٹھنے کے لئے) تخت بھی بچھاؤ اور ترازو بھی منگواؤ تو میں نے پیش کر دیئے پھر اس نے خالص سونے کی اشرفیاں (تلنے کے لئے) نکالیں اور تمام حساب کتاب صاف کر دیا۔ پھر ایک یادداشت کا کاغذ نکالا جس میں کچھ اور سامان خریداری لکھا ہوا تھا۔ تو میں وہ مال لے کرتا جروں کے پاس گیا ان کے باقی ماندہ قرضے اتارے اور ان سے وہ سامان خریدا جس کی اس نے خواہش کی تھی اور میں نے بیچ کے بیچ اچھا خاص منافع کمالیا وہ اس طرح سے کہتا جروں نے (بیش بہا قیمتی) کپڑے دکھلانے میں نے ان کو اپنے دام لگا کر اپنے لئے خریدا پھر ان کو اس

عورت کے ہاتھ بچ کر بہت سارا نفع کمایا۔ اور میں نے اسی دوران میں اس کی طرف محبت کی نظر سے بھی دیکھا رہا اور وہ بھی مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ میری نظر کو جان گئی ہو لیکن اس سے نفرت کا اظہار نہ کیا۔ پس میں نے اس سے مخاطب ہونے کا ارادہ کیا مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پس سامان (خریداری) جمع ہو گیا جس کی قیمت ایک ہزار اشريفیاں (تقریباً پچاس لاکھ روپے) بنتی تھی۔ چنانچہ اس نے وہ سامان لیا اور سوار ہو کر چلی گئی۔ اس بار بھی میں نے اس سے اس کے ٹھکانے کا نہ پوچھا۔ پھر جب وہ نظر وہ سے او جھل ہو گئی تو میں نے کہا یہ مضبوط ترین حیلہ ہے اس نے مجھے پانچ سو اشريفیاں ادا کر کے ہزار اشريفیوں کا مال بتھیا لیا۔ اب اس کے بعد میرے پاس میری زمین ہی بیچنے کو رہ گئی تھی اور ذیل درسو اکرنے والا فقر و فاقہ ہی بچ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے دل کو فقر و فاقہ میں رہ کر بھی اس کی ملاقات ہونے کا دلاسہ دیا لیکن ایک مہینہ تک وہ غائب رہی اور تاجر وہ نے ادا نگی کے مطالبہ میں اصرار شروع کر دیا تو میں نے اپنی زمین بیچنے کا اعلان کر دیا اور بعض تاجر تو مجھے چھٹ ہی گئے تو جو کچھ میرے پاس سونا چاندی موجود تھا سب کو قرضہ اتارنے کا لگا دیا۔

بس اسی حالت میں بینجا تھا کہ وہ عورت میرے پاس آئی جس کو دیکھ کر میری ساری پریشانی کا فور ہو گئی۔ اب کی بار بھی اس نے تنخت اور ترازو منگوائے اور اشريفیاں تکوادیں۔ پھر ایک لست (فہرست) دی اس میں تقریباً دو ہزار اشريفیوں (ایک کروڑ) سے زائد کے مال کا آرڈر تھا تو میں تاجر وہ نے میں اور ان کو ان کی رقم واپس کرنے میں اور ان سے دوسرا سامان خریدنے میں مصروف ہو گیا۔ پس اس طرح سے ہمارے درمیان گفتگو طویل ہو گئی اور اس عورت نے پوچھ لیا کہ اے جوان کیا آپ کی کوئی بیوی ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کی فتح! میں تو کسی عورت کو پہچانتا بھی نہیں نیز اس کی اس بات نے مجھے اس کی طمع میں بتلا کر دیا اور میں نے کہا یہی وقت اس سے خطاب کرنے کا ہے اگر اب بھی میں خاموش رہتا تو یہ محرومی کی بات ہو گی پتہ نہیں یہ پھر آئے گی یا نہیں تو میں نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا مگر

بیت چھائی تو میں یہ دکھانے کے لئے کھڑا ہو گیا گویا کہ میں سامان جمع کرنے کی تا جروں کوتا کید کر رہا ہوں۔ اس دوران میں نے اس کے خادم کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کچھ اشرفیاں دیں اور اس کو کہا تم یہ لے لو اور میرا کام کر دو اس نے کہا میں آپ کا کام آپ کی محبت کی خاطر ضرور کروں گا۔ تو میں نے اس کے سامنے اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا پھر میں نے اس سے کہا تم میرے اور اس کے درمیان رابطہ کر دو۔ تو وہ نہس پڑا اور کہا جتنا تم اس کو چاہتے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ تم سے عشق کرتی ہے۔ اللہ کی قسم! وہ جتنا تم سے مال خرید کرتی ہے اور اس لئے آتی ہے کہ تمہیں زیادہ دولت مند کر دے۔ آپ خود اس سے صاف صاف طریقہ سے یہ بات کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔

اس خادم نے یہ بات کہہ کر مجھے جرات دلادی تو میں نے اس سے گفتگو کی اور اس کے سامنے اپنے عشق اور محبت کا حال کہہ سنایا اور رو دیا تو وہ نہس پڑی اور بہت اچھے انداز میں سراہا اور کہا کہ میرا خادم آپ کے پاس میرا پیغام لے کر آئے گا۔ پھر وہ انٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ سامان نہ خریدا تو میں نے وہ سامان تا جروں کو واپس کر دیا۔ اور جو میں نے پہلی اور دوسری مرتبہ خریداری کی تھی اس سے مجھے ہزاروں درہم منافع حاصل ہوا لیکن اس رات اس کے شوق اور رابطہ کے منقطع ہونے کی وجہ سے نیند نہ آئی۔

جب کئی دن گذر گئے تو وہ خادم میرے پاس آیا میں نے اس کی عزت کی اور اس عورت کی خبر پوچھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم! وہ تو آپ کی محبت میں بیمار ہو چکی ہے میں نے کہا کچھ تفصیل سے کہو تو اس نے کہا

یہ عورت مقتدر باندہ (بادشاہ) کی ماں کی مخصوص ترین لوندی ہے اس لوندی کو لوگوں کے دیکھنے کی اور شاہی محل سے باہر جانے آنے کی خواہش کی تھی تو بادشاہ کی ماں نے اس کو اپنے گھر کے

داخلی اور خارجی کاموں اور خرید و فروخت کی وکیل بنادیا تھا اللہ کی قسم اس لوئڈی نے خود بادشاہ کی ماں سے بھی تمہاری بات چلائی ہے اور اس کے سامنے روئی بھی ہے اور اس کا سوال بھی کیا ہے کہ وہ آپ کی شادی اس سے کر دیں تو بادشاہ کی ماں نے کہا ہے کہ میں جب تک اس جوان کو دیکھنے لوں اس وقت تک تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے تباہ کر دے۔

(خادم نے کہا) اس لئے ضروری ہے کہ آپ کسی حیلہ اور طریقہ سے محل میں پہنچ جائیں اگر حیلہ کامیاب ہو گیا تو آپ کی شادی بھی اس سے ہو جائے گی اور اگر پرده فاش ہو گیا تو آپ کی گردان مار دی جائے گی (آپ کی محظوظ لوئڈی نے) مجھے یہ پیغام دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اس طریقہ پر راضی ہو تو نہیں ورنہ خدا کی قسم تم میرے تک اب بھی نہیں پہنچ سکو گے اور نہ میں تم تک بھی پہنچ سکوں گی۔

توجہ مشکلات میرے دل نے محسوس کیس انہوں نے مجھے تنبیہ کی کہ میں صبر ہی کر لوں پھر اس خادم نے کہا جب رات ہو تو تم خفیہ راستے سے کسی طرح مسجد تک پہنچ جاؤ اور رات وہیں پر گزارو۔ تو میں نے دیسا ہی کیا جب سحری کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا گھوڑا لایا گیا ہے اور کچھ خادم ہیں جنہوں نے خالی صندوق اٹھا رکھے ہیں انہوں نے وہ صندوق مسجد میں رکھ دیئے اور واپس ہو گئے پھر وہی لوئڈی باہر آ کر مسجد پر چڑھ آئی اور اس کے ساتھ وہ خادم بھی تھا جس کو میں جانتا تھا چنانچہ وہ عورت بیٹھ گئی اور باقی نوکروں کو کاموں پر روانہ کر دیا پھر مجھے بلا یا اور بوسہ دیا اور کافی دری تک گلے لگائے رکھا حالانکہ اس سے پہلے میں بھی صرف بوسہ بھی نہ لے سکتا تھا پھر اس نے مجھے ایک صندوق میں بٹھا کر اس کو تالا لگا دیا اور سورج طلوع ہو گیا اور نوکر چاکر

کپڑے اور ضرورت کی اشیاء مختلف مقامات سے لے کر جمع ہو گئے اور اس تمام سامان کو ان کی موجودگی میں باقی صندوقوں میں رکھ کر ان کو تالہ لگا دیا گیا یہ ان کو گھوڑے پر رکھ گئے جب میں اس صندوق میں بند ہو کر رہ گیا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا مجھے میرے نفس نے صرف ایک شہوت کی وجہ سے قتل کر دیا ہے اس لئے کبھی تو میں اس کو ملامت کرتا تھا اور کبھی اس کو ہمت دلاتا تھا اور جان بچ جانے کی نذر میں مانتا تھا اور کبھی اپنے قتل ہو جانے کا یقین ہو جاتا تھا یہاں تک کہ ہم محل تک پہنچ گئے اور نوکروں نے صندوق اٹھائے اور میرا صندوق اس نوکرنے اٹھایا جو اصل واقعہ کو جانتا تھا اور میرا صندوق باقی صندوقوں سے آگے کر دیا اور وہ عورت میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور باقی صندوق اٹھا کر اس عورت کے پیچھے پیچھے آرے تھے پس جب بھی وہ عورت نوکروں اور دربانوں کے کسی طبقہ کے پاس سے گزرتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اس صندوق کی تلاشی لیں گے تو وہ ان کو ڈانت دیتی اور کہتی کہ ہمارے ساتھ یہ طریقہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تو وہ رک جاتے اس دوران میری تو جان ہی نکلی جا رہی تھی یہاں تک کہ ہم ایک خاص ملازم کے پاس جا پہنچے جس کو اس عورت نے استاد کے لقب سے مخاطب کیا تھا اور میں نے اسی سے جانا تھا کہ یہ تمام ملازموں میں سب سے بڑے عہدہ پر فائز ہے اس ملازم خاص نے کہا جو صندوق آپ کے ساتھ ہے اس کی تفتیش بہت ضروری ہے تو عورت نے بڑی منت و سماجت کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اس سے میں یہی سمجھا یہ عورت اس کے سامنے کسی حیلہ بہانے کی خاطر ہی عاجزی دکھار رہی ہے بس اسی دوران مجھ پر غشی سی چڑھائی اور صندوق اٹا را گیا تاکہ اس کو چیک کیا جائے تو میری حالت آپ سے باہر ہو گئی اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پیشाब نکل گیا اور (اس لکڑی کے) صندوق کے شگافوں سے بہنے لگا تو عورت نے کہا اے استاد! آپ نے ہمارا پانچ ہزار اشرفیوں (اڑھائی کروڑ) کا سامان رنگیں کپڑوں اور عرق گلاب کو بر باد کر دیا ہے یہ عرق گلاب کپڑوں پر الٹ گیا ہے جس سے سب رنگ دار کپڑے خراب ہو کر رہ گئے اب تو میں سیدہ

(مقدار بادشاہ کی ماں) کے ہاتھوں ماری جاؤں گی تو خادم خاص نے کہا چل اس کو لے جاتم پر اور اس صندوق پر خدا کی لعنت ہو تو وہ عورت خادموں پر چلائی کہ اس صندوق کو جلدی سے اٹھاؤ تو اس طرح سے میں محل میں پہنچ گیا اور جان میں جان آئی پھر ہم اسی طرح سے چل رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی ہے ہم تباہ ہو گئے اللہ کی قسم مقتدر باللہ آرہے ہیں اب تو مجھ پر پہلے سے بھی بڑی مصیبت ثوٹ پڑی اور نوکروں اور لوئندیوں کے درمیان سے میں نے مقتدر باللہ کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا اے فلاںی تو تباہ ہو جائے تیرے صندوق میں کیا ہے؟ مجھے چیک کراو تو اس نے کہا اے آقا سیدہ (آپ کی والدہ) کے ملبوسات ہیں میں ابھی آپ کے اور سیدہ کے سامنے کھولتی ہوں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں پھر اس نے نوکروں سے کہا تم تباہ ہو جاؤ جلدی کرو تو انہوں نے جلدی کی اور مجھے ایک کمرہ میں لے گئے اور عورت نے مجھے جھنجوڑ کر کہا تم اس سینہ پکے ذریعہ بالاخانہ پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ پھر اس نے جلدی سے صندوقوں کھولا تو گیا اور سب صندوقوں کوتالے لگادیئے گئے اور مقتدر باللہ تشریف لائے اور کہا صندوق کھولو تو اس نے صندوق کھلوادیا تو جب اس میں کچھ نظر نہ آیا تو چلے گئے اور یہ عورت بالاخانہ میں میرے پاس آگئی اور مجھے چونمنے اور بو سے دینے لگی تو میری جان میں جان آگئی اور جو کچھ بیٹی تھی سب بھول گیا پھر وہ مجھے چھوڑ کر سارے دن کے لئے اس کمرہ کو تالا لگا کر چلی گئی پھر رات کے وقت آئی مجھے کھانا کھلایا پانی پلایا اور چلی گئی جب صح بھوئی تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی سیدہ ابھی آئی ہیں تم سوچ سمجھو لو کہ تم ان سے کیسے مخاطب ہو گے پھر وہ سیدہ کے ساتھ آئی اور کہا اتر آؤ تو میں اتر آیا تو میں نے دیکھا سیدہ کری پر رونق افروز ہے اور اس کے پاس خادماں میں اور ایک میرے والی تھی تو میں نے زمین کو بوسہ دیا پھر سیدہ کے حضور کھڑا ہو گیا تو اس نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو سیدہ کا غلام اور نوکر ہوں میرا یہ مرتبہ کہا کہ آپ کی موجودگی میں بیٹھنے کی جسارت کروں تو اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی اے فلاںی تو نے خوبصورت اور با ادب شخص کو پسند کیا

ہے پھر وہ سیدہ چلی گئی اور میرے والی ایک گھڑی کے بعد واپس آئی اور کہا تم خوش ہو جاؤ اللہ کی قسم سیدہ نے مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے لیکن ابھی تمہارے واپس جانے کا دشوار گزار لمحہ باقی ہے میں نے کہا اللہ حفاظت کریں گے۔

پس جب صبح ہوئی اس نے مجھے پھر صندوق میں اٹھایا اور ایک دوسرے چکر اور حیله کے ساتھ نکلی اس طرح سے میں مسجد میں پہنچ گیا اور اپنے گھر لوٹ کر صدقة خیرات کیا اور زندہ سلامت بیچ جانے پر اللہ کی حمد و شنا بجا لایا پھر کئی دن بعد ایک خادم جس کے پاس خالص سونے کی تین ہزار اشرفیاں (ڈیڑھ کروڑ روپے کی) تمہیں میرے پاس آیا اور کہا مجھے سیدہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں یہ رقم اس کے مال سے لے کر آپ تک پہنچا دوں اور اس نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ آپ اس سے لباس سواریاں نو کر چاکرا اور ظاہری ٹھانٹھ بائٹھ کے لئے جو کچھ درکار ہو سب خرید لو اور جب (بادشاہ کے سامنے کھلی پکھری میں) لوگ آتے ہیں تم بھی باب العامہ کے پاس آ جانا اور اس وقت تک وہیں رہنا جب تک تمہیں بلا یا نہ جائے کیونکہ خلیفہ وقت (متقدربالہ) نے اس کو تسلیم فرمایا ہے کہ وہ آپ کی شادی اپنی موجودگی میں کرائیں اور جو رقعہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا میں نے اس کا جواب لکھ دیا اور مال وصول کرایا اور انہوں نے جو کچھ خریدے کو کہا تھا میں نے بہت کم خریدا اور آخر مال اپنے پاس بچا کر رکھ لیا اور باب العامہ کی طرف مقررہ دن میں خواصورت انداز میں سوار ہو گیا اور لوگ آتے رہے اور خلیفہ کے پاس داخل ہوتے رہے اور میں باہر رکارہا یہاں تک کہ مجھے بلا یا اور میں بھی داخل ہو گیا میں نے دیکھی متقدربالہ تشریف فرمائی اور حقیقت افسران اور شاہی خاندان کے عظیم لوگ پاس بیٹھے ہیں۔ میں یہ مجلس دیکھ رکھرا آیا تھا مجھے بتایا گیا کہ بادشاہ کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے پہنچنے میں نے اس طریقہ سے سلام کیا بعض بھی حضرات جو وہاں پر موجود تھے خلیفہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور مجھے سے ایجاد و قبول کرایا اور شاہی کمر اور گنجائی پہنچنے میں انہیں مدد کیا۔

سے باہر آیا اور باب العامہ کی ایک دہلیز کے قریب پہنچا تو مجھے ایک بڑے گھر کی طرف لے گئے جس میں بیش بہا قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے وہاں ضروریات کا سامان بھی مہیا تھا اور خدمت گار اور فرنچر بھی میں نے ایسا خوبصورت سماں بھی نہ دیکھا تھا جب مجھے وہاں بٹھا دیا گیا اور اکیلا چھوڑ دیا گیا جو مجھے وہاں لایا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا میں وہاں ایک دن رہا اور کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا جس کو میں جانتا تھا اور میں وہاں سے کہیں نہ گیا سوائے نماز ادا کرنے کی جگہ کے۔ اور نوکر چاکر تھے جو آج رہے تھے اور کھانے کا بہت بڑا انتظام تھا جو چتنا جارہا تھا اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور میری والی کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ آج فلاں کپڑے کے تاجر کے ساتھ فلاں عورت کی شب زفاف ہے اور میں خوشی کے مارے ان کی تصدیق نہیں کر پا رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو بھوک نے مجھے مذہل کر دیا دروازوں پر تالے پڑھ کے تھے اور میں اس لوئڈی سے نا امید ہو چکا تھا اسی دوران میں گھر میں چکر کاٹنے لگا اتنے میں میری نگاہ باور پی خانہ پر پڑھنی میں نے وہاں پر باور چیزوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو ان سے کھانا مانگا انہوں نے مجھے نہ پہنچاتے ہوئے کسی منتظم کے سپرد کر دیا اور میر پاس اتنے عظیم کھانوں میں سے صرف دو روپیاں لے آئے جن کو میں نے کھالیا اور اپنے ہاتھ اس اشنان سے دھوڑا لے جو باور پی خانہ میں موجود تھی اور میں یہی سمجھا کہ ہاتھ صاف ہو گئے ہیں اور میں اپنی جگد لوت آیا جب رات ہو چکی تو اچانک طبلوں، بنسروں کی اوپنجی اوپنجی آوازیں سنائی دیں دروازے کھول دیئے گئے اور میرے والی مجھے پیش کر دی گئی یہ اسی کوئے کر میرے پاس آئے تھے انہوں نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا میں خوشی کے مارے اس کو خواب سمجھ رہا تھا چنانچہ اس کو وہ لوگ میرے پاس چھوڑ کر سب رخصت ہو گئے۔

جب ہم اکیلے ہوئے تو میں آگے بڑھا اور اس کو بوسہ دیا اس نے مجھے بوسہ دیا اور میری ڈاڑھی کو سونگھا تو دھکا دے کر جلد عروی سے نیچے گرا دیا اور کہنے لگی میں نہیں سمجھتی تھی اے گھٹیا شخص کہ تو کامیاب ہو جائے گا پھر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی

تو میں بھی انھے کھڑا ہوا اور اس کو لپٹ گیا اس کے پاؤں چوئے زمین چونی اور پوچھے مجھے میرا گناہ تو بتلا و پھر جو چاہو کرو؟ تو اس نے کہا تو تباہ ہو دجائے تم نے کھانا تو کھایا مگر ہاتھ نہیں دھوئے تو میں نے اس کے سامنے اپنا سارا قصہ کہہ سایا جب قسم کے آخر میں پہنچا تو میں نے کہا مجھے یہ قسم اور یہ قسم پھر میں نے اس کی طلاق کا حصہ اٹھایا اور ہر اس عورت کی طلاق کا حلف اٹھایا جس سے نکاح کر دیں اور اپنے مال کے صدقہ کرنے کا اور اس مال کا بھی جس کا میں بھی مالک ہوں اور پیدل حج کرنے کا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا حلف اٹھایا اور ہر وہ قسم اٹھائی جو مسلمان اٹھایا مرد ہیں کہ میں اب کے بعد دیکریکہ (کھانے کی قسم) نہیں کھاؤں گا اگر کھاؤں گا تو چالیس مرتبہ اپنے ہاتھ دھوؤں گا تو اس کو حیا آگیا اور مسکرا کر زور سے بولی:

اے لوئڈ یو! تو دس کے قریب لوئڈ یاں اور خادم اُمیں حاضر ہو گئیں تو اس نے کہا کچھ لا وہم کھانا کھائیں گے تو میرے سامنے بہت خوبصورت شکلوں کے کھانے اور شاہی طعام پیش کئے گئے ہم نے ان کو کھایا اور ہاتھ دھوئے پھر اس نے پینے کی چیزیں طلب کیں تو ہم نے پیا پھر ان خادماؤں نے نہایت خوبصورت اور پاکیزہ انداز و لہجہ میں گانا گایا پھر ہم پلنگ پر چلے گئے میں نے یہ رات بادشاہوں کی رات کی طرح گزاری اور ایک ہفتہ تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہفتہ کے دن مرعوب کن ولیمہ ہوا جس میں بہت سی (شاہی) لوئڈ یاں جمع ہوئیں جب ولیمہ کی کل ہوتی تو میرے والی (بیوی) نے کہا کہ دارالخلافہ اس سے زیادہ کی برداشت نہیں رکھتا کہ ہم اس سے زیادہ عرصہ تک یہاں تک قیام کریں اب ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت لئی چاہئے چنانچہ بڑی منت سماجت سے میری بیوی نے اجازت حاصل کی اور بتایا کہ سیدہ نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جو پہلے کسی لوئڈ کے ساتھ نہیں کیا تھا لیونکہ سیدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب سیدہ کا عطا کیا ہوا ہے اس نے مجھے خالص سونے کی پچاس ہزار اشرفیاں (تقریباً چھیس کروڑ روپے) اور چاندی جواہرات اور محل کے باہر کے کئی ذخیرہ بخشنے اور مزید بھی کئی قسم کی اشیاء، مصالح

کی تھیں میری بیوی نے کہا کہ اب یہ سب تمہیں دیا ہے تم اپنے گھر جاؤ اور یہ مال بھی لے جاؤ اور ایک شاندار وسیع صحن کا مکان خریدو جس میں بہت بڑا باغ ہو۔ بہت سے کمرے ہوں شاندار محل و قوع ہو تم اس میں منتقل ہو جاؤ اور مجھے اس کی اطلاع کر دینا تاکہ میں بھی وہاں آ جاؤں گی پھر اس نے مجھے دس ہزار اشرفیاں (تقریباً پانچ کروڑ روپے) دیئے جس کو میرے ساتھ ایک نوکراٹھا کر لے گیا چنانچہ میں نے ایک مکان خریدا اور اطلاع لکھ کر روانہ کر دی تو وہ تمام نعمت اٹھا کر میرے پاس لے آئی یہ جتنی رونق اور آب و تاب تم دیکھ رہے ہو سب اسی کی طرف سے ہے وہ میرے پاس اتنے سال زندہ رہی اور میں اس کے ساتھ بادشاہوں جیسے عیش میں رہا لیکن میں اس کے باوجود تجارت بھی کرتا رہا اس طرح سے میرا مال بڑھ گیا اور عظمت بلند ہو گئی اور حالات باوقار ہو گئے اس نے میرے پاس یہ بچے بھی بننے پھر اس نے اپنی اولاد کی طرف اشارہ کیا۔۔۔ پھر وہ فوت ہو گئی لیکن دیکریکہ کی تختی باقی رہی جس کی وجہ سے تم نے (چالیس مرتبہ ہاتھ دھونے کا مشاہدہ کیا ہے)۔

حکایت نصیر

عاشق زندہ دفن کر دیا گیا

وضاح المین (یمن کے ملک کا نہایت خوبصورت آدمی) اور ام البنین دونوں بچپن میں اکٹھے پرداں چڑھے تھے وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اس سے محبت کرتی تھی یہ جوان اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تھا جب یہڑکی بالغ ہوئی تو اس کو پرده کر دیا گیا (اور یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے) اس نے ان پر بہت بڑی بلاٹوٹ پڑی جب ولید بن عبد الملک نے حج کیا تو اس کو ام البنین کے حسن کی رعنائیوں اور حسن ادب کی خبر پہنچی تو ولید نے اس سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ ملک شام میں لے گیا اور وضاحت کی عقل ماری گئی یہ اس کے صدمہ سے روز بروز گھلتا رہا جب صیبت انتہا کو پہنچی تو اس نے ملک شام کا سفر کیا اور ولید بن الملک کے محل کے ارد

گر دروزانہ چکر کا نے لگا اس کو کوئی حیلہ نہیں ملتا تھا اس نے ایک دن پلے رنگ کی ایک لوٹی کو دیکھا تو اس سے انس پیدا کیا اور اس سے پوچھا تم ام البنین کو جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کیا تم میری مالکن کے بارہ میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس جوان نے کہا ہاں وہ میری چیخا زاد ہے وہ میرے یہاں پہنچنے پر بہت خوش ہو گی اگر تم اس کو اطلاع کر دو۔ تو اس لوٹی نے کہا میں اس کو ضرور اطلاع کروں گی چنانچہ وہ لوٹی چلی گئی اور ام البنین کو اطلاع کر دی تو ام البنین نے پوچھا اری تو تباہ ہو جائے کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تو ام البنین نے کہا اس کو کہو کہ تم اپنی جگہ پر رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا قاصد نہ آجائے میں تمہارے لئے کوئی تدبیر کرتی ہوں تو اس نے حیلہ کر کے اس کو اپنے پاس منگوا لیا اور صندوق میں بند کر دیا جب خطرہ مل گیا تو اس کو نکالا اور اپنے پاس بٹھایا اور جب محافظ کی جاسوسی کا دھڑ کا لگا اس کو صندوق میں بند کر دیا ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک بادشاہ کو ایک قیمتی جوہر ہدیہ میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنے اپنے ایک نوکر سے کہایا جو ہر لو اور ام المؤمنین (ام البنین) کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ ام المؤمنین کو ہدیہ کیا گیا ہے۔

چنانچہ جب وہ اسکو لے کر چلا اور بغیر اجازت داخل ہوا اور وضاح کو ام البنین کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو ایک طرف ہو گیا مگر ام البنین کو معلوم نہ ہو سکا اور وضاح صندوق میں جا کر چھپ گیا اور خادم نے ام البنین کو پیغام پہنچایا اور کہا آپ جو ہر مجھے عطا کر دیں تو ام البنین نے کہا تمہیں کیوں دوں تم اس کا کیا کرو گے؟

تو وہ غلام خادم جب باہر گیا تو ام البنین پر سخت غصہ میں تھا اور ولید کے پاس آ کر سارا واقعہ سنادیا اور جس صندوق میں وضاح کو چھپایا ہوا دیکھا تھا اس کی نشانی بھی بتا دی تو ولید نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو میں تم پر اعتماد نہیں کرتا پھر ولید جلدی سے انھا اور ام البنین کے پاس پہنچا جب وہ گھر پر ہی ٹھی اور اس گھر میں بہت سے صندوق رکھے ہوئے تھے تو یہ آ کر اسی صندوق پر بیٹھ گیا جس کے متعلق خادم نے بتایا تھا اور کہا اے ام البنین یہ صندوق مجھے ہدیہ کر دو؟ تو اس نے کہا اے امیر

ام و منین یہ بھی اور میں آپ کے ہیں تو ولید نے کہا نہیں بس مجھے تو بھی صندوق چاہئے جو میرے نیچے ہے اس نے کہا اے امیر المؤمنین اس میں عورتوں والی کچھ مخصوص چیزیں ہیں ولید نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہئے تو امام البنین نے کہا یہ آپ کا ہے تو ولید نے حکم کیا اور اس صندوق کو انٹھالیا گیا اور دونوں گاووں کو بلا کر ایک کنوں کھدا یا جب کنوں پانی تک کھدایا تو اپنا منہ صندوق پر رکھ کر کہا اے صندوق ہمیں تمہارے متعلق کوئی خبر پہنچی ہے اگر پتچ ہے تو ہم تمہاری خبر کو فن کرتے ہیں اور تیرے بعد کے لوگوں و سبق سکھاتے ہیں اور اگر خبر جھوٹی ہے تو لکڑی کے کسی صندوق کو فن کرنے کا ہمیں ولی گناہ نہیں ہے پھر اس نے اس کو حکم کیا اور اس کو گڑھے میں پھینک دیا گیا اور اس خادم کے بارہ میں حکم کیا اور اس کو بھی اس کے اوپر پھینک دیا گیا اور پھر ان دونوں کے اوپر منی ڈلواہی گئی اور امام البنین اپنے محل میں روئی ہوئی پائی گئی یہاں تک کہ وہ بھی ایک دن منہ کے بل گر کر مری ہوئی پائی گئی۔

(فائدہ) یہ حکایت معافی بن زکریا کی روایت میں خلیفہ یزید بن عبدالمک کے متعلق بھی بیان کی گئی ہے۔ (منہ)

حکایت نصر

مقصد تک پہنچنے والا چال باز عاشق

حضرت شعیؑ بیان کرتے ہیں کہ لقمان بن عاد بن عادیا جس نے سات صد یاں عمر پائی تھی عورتوں کے عشق میں بتلا رہتا تھا وہ جس عورت سے بھی شادی کرتا وہی عورت اس کی عزت کے معاملہ میں خیانت کرتی تھی یہاں تک کہ اس نے ایسی کم سن لڑکی سے شادی کی جس نے مردوں سے شناسائی نہیں کی تھی اس نے اس کے لئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر کھدا یا اور پھر زنجیر کی سیڑھی بنوائی اور اسی کے ذریعہ اس کے پاس چڑھ کر جاتا اور اترتا تھا جب یہ واپس لوٹا تھا تو وہ سیڑھی ہٹا دی جاتی یہاں تک کہ اس لڑکی تک عماقۃ قوم کا ایک طاقتور جوان پہنچ گیا اور وہ لڑکی اس کے

دل میں اتر گئی تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس آیا اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک جنگ میں پھسانا چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو انہوں نے کہا کیا بات ہے لقمان بن عاد کی بیوی مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہم اس تک تمہارے پہنچنے کا کیا حیلہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا تم اپنی تلواروں کو جمع کرلو اور مجھے ان کے درمیان رکھ کر ان کا ایک بڑا گھڑ بنا لو پھر ہم نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور اپنے والپس لوٹنے تک اپنی تلواریں آپ کے پاس امانت کے طور رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں اس کو اپنی والپسی کی تاریخ بھی بتا دینا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور تلواریں اٹھالائے اور ان کو لقمان کے پاس رکھ دیا اس نے ان تلواروں کو اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھوادیا جب لقمان چلا گیا تو جوان نے حرکت کی اور لڑکی نے اس کو کھولا یا اس طرح سے وہ جوان لڑکی کے پاس جاتا رہا جب لڑکی محسوس کرتی کہ لقمان آنے والا ہے تو اس کو تلواروں کے درمیان چھپا دیتی اس طرح سے کئی دن گذر گئے پھر وہ لوگ آئے اور اپنی تلواریں والپس لے گئے اس کے بعد ایک دن لقمان نے اپنا سر اٹھایا تو اس کو چھپت کے ساتھ کھنکار چھپا ہوا تھا تو اس نے بیوی سے پوچھایا کہ کس نے تھوکا ہے؟ اس نے کہا میں نے۔ تو لقمان نے کہا تو تم تھوکو جب اس نے تھوکا تو اس کا کھنکار وہاں تک نہ پہنچ سکا تو اس نے کہا ہائے تباہی مجھے تلواروں نے دھوکہ میں ڈال دیا پھر اس عورت کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینکا اور وہ نیچے پہنچ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی پھر وہ غصہ ہو کر نیچے اتر ا تو اس کی صحر نامی بیٹی تھی وہ سامنے آئی اور اس نے پوچھا ابابان کیا بات ہے (آپ اتنا غصہ میں کیوں ہیں) تو اس نے جواب میں کہا تو بھی بورتوں میں سے ہے پھر اس کے سر کو بھی چٹان پر مارا اور قتل کر دیا تو اس وقت سے عرب میں یہ کہاوت چل نکلی۔

ما اذنب الاذنب صحر

(ترجمہ) اس عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر صحر والا گناہ کیا ہے۔

لیلیِ مجنوں کے حالاتِ عشق

جو لوگ عشق کے میدان میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ان میں زیادہ مشہور لیلی کا مجنوں (۹۸) ہے اس کے حالات بھی بہت ہیں اور اشعار بھی بہت ہیں ہم کچھ مختصر کر کے اس کے حالات نقل کرتے ہیں۔

نام و نسب مجنوں

علماء انساب نے اس کا نام و نسب میں اختلاف کیا ہے رباح عامر کہتے ہیں اس کا نام و نسب یہ ہے قیس بن الملوح بن مزاحم۔ اور ابو عبیدہ بخثہ کہتے ہیں کہ یہ نجتری بن جعدی ہے اور بعض اولاد علی سے منقول ہے کہ یہ قیس بن معاذ عقیلی ہے اور ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرع بن معاذ ہے۔ قاسم بن سوید حرمی فرماتے ہیں کہ بنو عامر میں تین مجنوں گذرے ہیں۔ (۱) لیلی کا معاذ یہ معاذ بن کلیب ہے۔ (۲) قیس بن معاذ (۳) مہدی بن ملوح جعدی۔

(۹۸) قال الذهبي في السير: أنكر بعضهم ليلى والمجنوون، وهذا دفع بالصدر، فما من إيم يعلم حجحة على من عنده علم، ولا أثبتت كالناسفي، لكن إذا كان المثبت لشيء شبه خرافه، والنافي ليس عرضه دفع الحق فهنا النافي مقدم، وهذا نوع المكابرة وتسكب العبرة. توفي في حدود عام (٦٥) هجري. انظر السير ٤، ٧٠٥/٤، تاريخ الإسلام ٦٤/٣، وكتاب الأغاني ١/٢، فما بعدها حيث ذكر أغلب الفصوص والأشعار التي سيدركها المصنف.

لیلی کا نام و نسب

اس میں بھی نسب دانوں نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں اس کا نام لیلی بنت مہدی ہے بعض کہتے ہیں لیلی بنت ورد از قبیلہ بنی ربعہ نیز اس کی کنیت میں بھی دو قول ہیں۔ (۱) ام مالک اور اس کی کنیت کے ساتھ مجنوں نے اس کو اپنے اشعار میں مخاطب کیا ہے۔ (۲) ام الخلیل۔

حکایت نصبرا:

عشق کیسے پروان چڑھا؟

بنو عامر قبیلہ میں ایک عورت تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل تھی اور یہ عقل مند اور با ادب بھی تھی اس کا نام لیلی بنت مہدی تھا مجنوں کو جب اس کی اور اس کے جمال و داشمندی کی اطلاع ہوئی چونکہ یہ عورتوں سے میل ملاپ کا دلدادہ تھا اس لئے اس نے بہت خوبصورت پوشاک پہنی اور جانے کے لئے تیار ہوا جب اس کے پاس بیٹھا اور آمنے سامنے بات کی توجیہ ان کر کے اس کے دل میں اتر گئی چنانچہ مجنوں اس سے اور وہ مجنوں سے تمام دن با تین کرتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور مجنوں گھر لوٹ آیا اور وہ رات کا شنا طویل ہو گئی حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو پھر اسی کی طرف چل دیا اور شام تک اس کے پاس رہا پھر لوٹ آیا اور یہ رات گذشتہ شب سے بھی زیادہ طویل ہو گئی نیند کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا پھر وہ ہر روز اس کے دیدار کو جاتا اور اپنے پاس ہر آنے جانے والے کو چھوڑ دیا اس طرح سے لیلی کے دل میں بھی مجنوں کی محبت بیٹھ گئی جیسے مجنوں کے دل میں لیلی کی محبت بیٹھ گئی تھی پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجنوں اس سے بات کرتا تھا مگر وہ اپنا منہ پھیر لیتی تھی اور دوسرا طرف کر لیتی تھی اس کا مقصد (مجنوں کا امتحان کرنا تھا) لیلی کا یہ رو یہ دیکھا تو بہت گراں ہوا اور چاگیا جب لیلی کو اس کے ناراض ہو جانے کا ذرہ ہوا تو اس نے مجنوں کی طرف متوجہ

ہو کر کہا

کلانا مظہر للناس بغضا
و كل عند صاحبہ مکین

(ترجمہ) ہم دونوں میں سے ہر ایک لوگوں کے بعض کو پیدا کر رہا ہے جبکہ ہم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے دل میں اتر چکا ہے۔

تب جا کر مجنوں کو مسرت ہوئی اور یلیٰ نے کہا میں نے تمہارا امتحان کرنا چاہا تھا ورنہ تیرے دل میں جتنا میری محبت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے تم سے محبت ہے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتی ہوں کہ اگر اب کے بعد میں تیرے سوا کسی اور شخص کے پاس بیٹھوں تو مرجاوں ہاں اگر مجھے مجبور اور بے بس کر دیا جائے تو اور بات ہے تو مجنوں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو کر واپس لوٹ گیا۔

حکایت نمبر ۴:

مجنوں کو یلیٰ سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی کیونکہ یہ دونوں بچپن میں اپنی قوم کی بکریاں اکٹھے چرایا کرتے تھے اس لئے ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے معلق ہو گئے تھے لیکن مجنوں یلیٰ سے عشق میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا تھا یہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے حتیٰ کہ جوان ہو گئے جب قبیلہ والوں کو ان کی آپس کی چاہت کا علم ہوا تو یلیٰ کو پرده کرا دیا گیا جس سے مجنوں کی عقل جاتی رہی۔

حکایت نمبر ۵:

مجنوں طواف میں کیا دعا کر رہا تھا؟

جب مجنوں کے وہ حالات ظاہر ہوئے جن کو سب جانتے ہیں اور لوگوں نے اس کو عشق میں بمتلا دیکھا تو اس کے باپ کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے تمہارا بیٹا جس

مصیبت میں بتلا ہو گیا اس کو تو تم نے دیکھا ہی بے آرتم اس کو مکہ شریف میں لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا مانگو اور آنحضرتؐ رونخہ اقدس کی زیارت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو ہمیں امید ہے کہ اس کی عتل لوٹ آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا کریں گے تو اس کا باپ (مجنوں کو لے کر) مکہ پہنچا اور طواف شروع کر کے مجنوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا رہا اور مجنوں (طواف کرتے ہوئے) یہ دعا کر رہا تھا۔

دعا المحرمون اللہ یستغفرونہ

بمکہ وہنا ان ستمحی ذنبها

ونادیت ان یارب اول سولتی

لنفسی لیلی ثم انت حسیبها

فان اعط لیلی فی حیاتی لا یتب

الى الله خلق توبہ لا اتوبها

(ترجمہ)

(۱) محرم حضرات مکہ میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کردیجئے جائیں۔

(۲) اور میری التجاء یہ ہے کہ اے میرے پروردگار! میرا پہلا سوال میرے نفر کے لئے لیلی کا ہے تو اس کا نگران و محافظ ہے۔

(۳) اگر مجھے میری زندگی میں لیلی عطا کر دی جائے تو چاہے باقی مخلوق اللہ تعالیٰ سے (گناہوں کی) توبہ نہ کرے میں (ضرور) توبہ کرلوں گا۔

حتیٰ کہ جب مجنوں منی میں پہنچا تو کسی نے وہاں کے خیموں سے آواز دی۔ لیلی تو مجنوں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کے چہرہ:

پانی چھڑ کا جبکہ اس کا باپ اس کے سرہانے میں رو رہا تھا پھر جب مجنوں کو افاقہ ہوا تو اس نے کہا۔

و داع دعا اذن حن بالخیف من منی
فهیج اطراف الفواد و ما یدری

دعا باسم لیلی غیر هاف کانما
اطار بليلی طائرًا كان في صدرى

(ترجمہ)

(۱) جب ہم منی میں مسجد خیف کے پاس تھے تو کسی نے پکارا اور میرے دل کی دھڑکنوں کو لا شعوری میں تیز کر دیا۔

(۲) اس نے کسی اور لیلی کو پکارا تھا لیکن جس لیلی کا پچھی میرے سینے میں تھا اس کو بیدار کر دیا۔

حکایت نسبت:

حج کے دوران مجنوں کا جنون

بعض مشائخ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لئے حاضر ہوا جب منی میں پہنچا تو رہاں کے ایک پہاڑ پر ایک جماعت کو دیکھا تو میں بھی ان کے پاس چلا گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے خوبصورت چہرہ والا رنگ اس کا پیلا پڑ چکا ہے اور بدن گھل چکا ہے اور لوگوں نے اس کو تحام رکھا ہے میں نے ان سے اس کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی قیس ہے جس کو لوگ مجنوں کہتے ہیں اس کا والد اس کو بیت اللہ شریف اور روضہ اقدس کی حاضری کے لئے لے کر آیا ہے شاید کہ اللہ غالی اس کو شفاء عطا کر دیں میں نے پوچھا تم نے اس کو پکڑ کیوں رکھا ہے؟ انہوں

نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ یہ اپنی دیوانگی میں کوئی حرکت کر کے اپنی جان نہ کھو بیٹھے جبکہ مجنوں ان کو کہہ رہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو میں خجد کی نیم صبا کھانا چاہتا ہوں ان میں سے ایک شخص نے مجھے کہا یہ مجنوں آپ کو نہیں جانتا اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ کہیں کہ میں خجد سے آیا ہوں اور پھر لیلی کا حال بتاتا ہوں تو میں نے اس بات کو منظور کر لیا اور اس کے قریب ہو گیا تو لوگوں نے کہا اے قیس یہ شخص خجد سے آیا ہے تو مجنوں نے ایک آہ بھری میں نے تم جھا کہ شاید اس کا جگر پارہ پارہ ہو گیا پھر اس نے مجھ سے ایک ایک جگہ اور ایک ایک وادی کا پوچھا اور میں نے اس کو بتایا اور وہ روتا رہا پھر اس نے چند اشعار کہے (جن کو ہم نے اختصار کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیا۔)

حکایت ناصرہ:

مجنوں کی دیوانگی کا سبب

جب مجنوں کا لیلی سے عشق شروع ہوا اور محبت نے شہرت پکڑی تو مجنوں کے پاس لیلی کے گھروالے آئے اور اس کو لیلی سے بات چیت کرنے اور اس کو دیکھنے سے منع کیا اور اس کو قتل کر دینے کی دھمکی دی تو اس کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی جو اس کو لیلی کی خبر دیا کرتی تھی تو انہوں نے اس عورت کو بھی اس سے روک دیا تو پھر مجنوں خودرات کے اندر ہیروں میں قبیلہ والوں سے چھپ کر جاتا رہا جب اس طرز سے اس کا آنا جانا بہت ہوا تو لیلی کا باپ اپنی قوم کے چند افراد کو ساتھ لے کر خلیف وقت مروان بن الحکم کے پاس گیا اور اس سے مجنوں کی شکایت کی اور اس سے مطالب کیا کہ آپ ہمیں ہمارے علاقہ کے افسر کے نام فرمان لکھ دیں تاکہ وہ مجنوں کو لیلی سے بات چیت کرنے سے روک دے تو مروان نے اپنے افسر کے نام ان لوگوں کا فرمان لکھ کر دیا کہ وہ قیس (مجنوں) کو بلوا کر اس کو لیلی سے ملاقات کرنے سے روک دے اور اگر پھر بھی مجنوں بازنہ آئے تو ان کو مجنوں کا خون معاف ہے جب یہ فرمائیں اس کے افسر کے پاس پہنچا تو اس نے کارندے روانہ کر کے قیس اور اس کے باپ ا

اور اس کے گھروالوں کو بلا کر جمع کیا اور بیان کے سامنے مراد ان کا فرمائیا۔ پڑھ کر سنایا اور قیس سے کہا تم خدا سے ذرا اپنے خون کو ضائع نہ کرو لیکن قیس یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔

الاحجت لیلی وآلی امیرها
علی یمینا جاہدًا الا ازورها

وا وعدنی فیهَا جَالِ ابُوهُم
ابی و ابُوها خشنٰت لی صدورها

علی غیر شیء غیر انبی احباها
وان فوادی عند لیلی اسیرها

(ترجمہ)

(۱) ہائے مجھ سے لیلی کو چھپا دیا گیا اور اس کے افرنے مجھے مضبوط قسم دی ہے کہ میں اس سے نہ ملا کروں۔

(۲) لیلی کے متعلق بہت سے جوانوں نے مجھے دھمکی دی ہے ان میں ان کا باپ بھی ہے جو میرا بھی باپ ہے اور لیلی کا بھی ان سب کے میرے لئے سینے تنگ ہو گئے ہیں۔

(۳) وہ کسی اور چیز پر مجھے مجبور کرتے ہیں لیکن میں تو لیلی کو چاہتا ہوں اور میرا دل لیلی کے پاس اسیر ہے

جب مجنوں لیلی (کی ملاقات اور گفتگو) سے مایوس ہوا اور یقین ہو گیا کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو وہ مبہوت العقل جیسا ہو گیا اور تہائی پسند ہو گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ گیا پھر اس کا معاملہ اس سے بھی بڑھ گیا حتیٰ کہ اس کی عقل جاتی رہی اور کنکریوں اور منٹی سے کھیلنے لگ گیا اور لیلی کے ذکر کے علاوہ اور اس

کے حق میں شعر کہنے کے علاوہ پچھنہ میں جانتا تھا جب لیلی کو مجنوں کی دیوانگی کی یہ خبر پہنچی تو اس کی جدائی سے غم اور بے صبری کا پیان بھی لبریز ہو گیا۔

حکایت نصیر^۶:

مجنوں اپنا گوشت کھانے لگا

(خلیفہ) مروان بن حکم نے ایک آدمی کو بنو عامر کے قبیلہ کے واجبات وصول کے لئے مقرر کیا جب اس نے مجنوں کی خبر سنی تو اس کو پیش کرنے کا حکم دیا جب اس کو پیش کیا گیا تو اس سے حال پوچھا اور اشعار سنانے کی فرمانش کی تو مجنوں نے (اپنے عمدہ) اشعار سنائے (جن کو سن کرو وہ) والی نہایت حیران ہوا اور مجنوں سے کہا تم میرے پاس رہو میں تمہارے لئے لیلی سے ملاقات کا کوئی حلیہ ڈھونڈتا ہوں چنانچہ مجنوں اس کے پاس جاتا رہا اور اس سے گپ شپ لگا تارہا بنو عامر ہر سال ایک میلہ لگایا کرتے تھے اور وقت کا موجودہ حکمران ان کے ساتھ میلہ میں شرکت کرتا تھا تاکہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو چنانچہ میلہ کا وقت آیا اور مجنوں نے اس حکمران سے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس میلہ میں شریک ہو سکوں؟ تو اس حکمران نے اس کو اجازت دے دی جب والی نے میلہ میں نکلنے کی تیاری کر لی تو مجنوں کے قبیلہ کی ایک جماعت والی کے پاس آئی اور اس کو کہا اس مجنوں نے آپ کے ساتھ نکلنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ لیلی کو دیکھ سکے اور اس سے باتمیں کر سکے جبکہ لیلی کے گھر کے لوگ اس کی تاک میں ہیں اور خلیفہ وقت نے ان کو مجنوں کا خون معاف کر دیا ہے اگر یہ ان کے سامنے یہ ق..... جب ان لوگوں نے والی وقت کو یہ اطلاع دی تو والی نے مجنوں کو اپنے ساتھ نکلنے سے منع کر دیا اور اس کے لئے صدقہ کی کئی امتیازوں کی پیش کش کی مگر مجنوں نے ان سب کو ٹھکر دیا اور یہ شعر کہے ۔

رددت قلائق القرشى لما
بدالى النقض منه للعهود

سعواللجمع ذاك و خلفونى
الى حزن اعالجه شديد

(ترجمہ)

- (۱) جب میرے سامنے قرشی کی عہد شکنی ظہر ہوئی تو میں نے اس کو لمبی مانگوں
والی اوہنیاں واپس کر دیں
- (۲) یہ خود تو میلہ میں چلے گئے اور مجھے غم سہنے کے لئے پچھے چھوڑ گئے جس کا مداوا
بہت مشکل ہے۔

جب مجنوں نے یقین کر لیا کہ اس کو ملاقات سے روک دیا گیا اور اس سے
ملاقات کا کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کی عقل جاتی رہی وہ جو کپڑا بھی پہنتا اسکو پھاڑ دیتا
اور اپنے رخ پر نگا چلا جاتا تھا بات چیت تک کرنے کی کوئی عقل نہ رہی اور نماز پڑھنا
بھی چھوڑ دیا جب اس کے باپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی کیا حالت بنارکھی ہے تو
اس کے تلف ہو جانے سے ڈر گیا اور اس کو کپڑا کر قید کر دیا تو مجنوں نے اپنا گوشت
چبانا اور خود کو زمین پر مارنا شروع کر دیا جب اس کے باپ نے اس کی یہ حالت
دیکھی تو اس کو کھول کر آزاد کر دیا تو مجنوں نے جنگلوں میں عریاں پھرنا اور مٹی سے لکھیسا
شروع کر دیا مجنوں کی ایک دائی تھی جس کے علاوہ اور کسی سے وہ منوس نہیں ہوتا تھا
یہی اس کے پاس روٹی اور پانی لے جاتی اور اس کے پاس رکھتی تھی کبھی تو مجنوں کھا
لیت تھا اور کبھی چھوڑ دیتا تھا۔

حکایت نصرت:

مجنوں کی خاطر لیلی کی تڑپ

ایک شخص نے تلاش معاشر کے لئے سفر کیا اور ایک خیمہ کے پاس جا پہنچا جو
نصب شدہ تھا یہ شخص بارش میں گھر پکا تھا اس لئے اس خیمہ کی طرف رخ کیا اور پاس
جا کر کھنکارا تو ایک عورت نے اس کو جواب میں کہا کہ اتر آؤ تو وہ شخص اتر آیا اور اس
خیمہ والوں کے اونٹ اور بکریاں بھی شام کو واپس آ گئیں ان کے یہ جانور بہت تعداد
میں تھے اور چردا ہے بھی بہت تھے اس عورت نے کسی ایک غلام کو کہا تم اس جوان
سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے؟

تو میں نے کہا یمامہ اور نجد کی طرف سے۔

تو اس نے پوچھا نجد کے کون سے شہر اور علاقے تم نے دیکھے ہیں؟
میں نے کہا سب علاقے دیکھے ہیں۔

اس نے کہا تم وہاں کس کے پاس تھے تھے؟

میں نے کہا قبیلہ بنو عامر میں تو اس نے ایک درد بھری آہ تپنی اور پوچھا بنو عامر
کے کس قبیلہ کے پاس؟

میں نے کہا بنو حریث کے پاس تو اس کے آنسو ائم آئے پوچھا کیا تم نے اس
جوان کا ذکر کرنا ہے جس کا نام قیس ہے اور لقب مجنوں ہے؟

میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے والد کے پاس ہی مہمان ہوا تھا اور میں
مجنوں کے پاس بھی گیا تھا تاکہ اس کو دیکھوں وہ بے چارہ جنگلوں میں وحشی جانوروں
کے ساتھ پر پیشان حال تھا تو اس کو کچھ عقل تھی نہ سمجھ بس جب اس کے سامنے لیلی کا
ذکر کیا جاتا تھا تو روتا تھا اور اس کے حق میں اشعار کہتا تھا وہ جوان کہتا ہے کہ اس
عورت نے اپنے اور میرے درمیان سے پردہ ہٹا دیا اس کی شکل ایسی تھی جیسے چاند کا
ملکہ اس کی مثل میری آنکھ نے کوئی (حسین) نہیں دیکھا پھر وہ رونے لگ گئی حتیٰ کہ

لہبے لمبے سانس لے کر زور سے روٹی رہی میں نے تو یہی سمجھا کہ اللہ کی قسم اس کا دل
مکڑے مکڑے ہو گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا اے عورت تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو
میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی لیکن وہ بہت دری تک اسی حالت میں روٹی اور چلاتی
رہی پھر اس نے یہ شعر کہے ۔

الآلیت شعری والخطوب کثیرة
متى رحل قيس مستقل فراجع

بنفسی من لا يستقل بر حلته
ومن هو ان لم يحفظ الله ضائع

(ترجمہ)

(۱) کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ زمانہ کے حوالوں کے حوالوں بہت ہیں قیس کا قافلہ تیار ہو کر
کب لوٹنے والا ہے۔

(۲) میری جان قربان ہواں (مجنوں) پر جس کا قافلہ روانہ نہیں ہو رہا جس کی
اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد وہ پھر رونے لگی حتیٰ کہ غشی چھائی جب افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا
اے اللہ کی بندی! تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہی وہ منہوس لیلی ہوں جو اس کی یاری نہ
کر سکی۔

حکایت نمبر ۸:

مجنوں کی لیلی کے خاوند سے ملاقات

ایک مرتبہ مجنوں لیلی کے خاوند کے پاس سے گذر اجکہ اس کا خاوند سردی کے
دن میں آگ تاپ رہا تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجنوں نے کہا ۔

بربک هل ضممت الیک لیلی
قبیل الصبح او قبلت فاہما

وهل رفت علیک قرون لیلی
رفیف الاقحوانہ فی نداها

(ترجمہ)

(۱) تجھے تیرے پروردگار کی قسم کیا تو نے لیلی کو گلے لگایا ہے صبح سے پہلے یا اس کا منہ چوما ہے۔

(۲) اور کیا لیلی کے بال تجھ پر لہلہتا ہے ہیں جس طرح کہ گل بابونہ اپنے کھیت میں لہلہتا ہے۔

تو لیلی کے خاوند نے کہا اب جبکہ تو نے مجھے قسم دے کر کے پوچھا ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہاں۔ تو مجنوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انگاروں کو دبوچ لیا اور ان کو نہ چھوڑا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور انگارہ اس کی ہتھیلوں سمیت گر گیا۔

حکایت نمبر ۹:

لیلی کی قبر چوتے چوتے مر گیا

کیشیر کہتا ہے کہ میں مجنوں کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا اے قیس میں تم سے تعزیت کرتا ہوں اس نے پوچھا کس کے نام کی؟ کہا لیلی کی تو وہ اسی وقت اپنے اونٹ کی طرف اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی اپنے اونٹ کی طرف اٹھ گیا پھر ہم اس کے قبیلہ کی طرف آئے اور ہمیں اس کی قبر کا پتہ بتایا گیا تو مجنوں آگے بڑھا اور اس کو چومنے لگا، اس سے چمٹنے لگا، اس کی خاک سو گنگھنے لگا اور شعر کہنے لگا پھر ایک چیخ ماری اور جان دے دی اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔

عاشقوں کا انجام

(از مترجم)

قارئین کرام نے دنیا کے مشہور ترین عاشق لیلی اور مجنوں کے حالات عشق ملاحظہ فرمائیں اور انہیں کے حالات پر دوسرے عاشقوں کو قیاس کر لیں اور کچھ غور فرمائیں کہ اس فضول عشق کا کیا انجام ہوا اس عشق نے مجنوں اور لیلی کو دنیا میں کیا دیا سوائے حسرت، تباہی جنگلوں میں آوارہ مارے مارے پھرنا اور آخرت کا انجام بھی خود سوچ لیں کہ ان کا حشر کیا ہو گا اگر عشق کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے کریں جو دنیا میں نیک نام کرے اور آخرت میں بھی اللہ اور رسول ﷺ بلکہ تمام مخلوقات کے سامنے سرخرو کرے۔

وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون.

اشتہار مشاہیر علماء اسلام صفحات 500

مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، خراسان اور مصر کے اکابر علماء صحابہ تا بعین تبع تابع تبع تابعین کے مختصر جامع حالات (تصنیف)، محدث زمانہ امام ابن حبان (ترجمہ) مولانا مفتی امداد اللہ انور۔

باب 43

عاشقی کے پیچھے کافر بننے والوں کی حکایات

تین سو سالہ عبارت گذار کی حکایت

(حدیث) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کان رجل يعبد الله بساحل البحر ثلاثة عشر سنة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم انه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشيقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عزوجل ثم استدر كه الله بعض ما كان منه فتاب عليه.

(ترجمہ) ایک شخص (بنی اسرائیل کی قوم کا) سمندر کے ساحل پر تین سو سال تک عبادت کرتا رہا یہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو نفل پڑھتا تھا اس کے بعد اس نے ایک عورت کے عشق کی خاطر اللہ جل شانہ سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا تھا سب چھوڑ دی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی گناہ کی بنا پر عذاب میں مبتلا کیا پھر اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔

(فائدہ-۱) سابقہ امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں اب کے زمانہ میں اوسط عمر سانحستہ برس ہوتی ہے۔

(فائدہ-۲) یہ حدیث احرقر مترجم کو حدیث کی کتب میں نہیں ملی علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں اپنی سند سے ذکر کیا ہے کسی دوسری کتاب کا حوالہ نہیں دیا

اور یہ سند کمزور ہے۔..... (مترجم)

عاشق کا فر ہو گیا، معشوقہ مسلمان ہو گئی

ابوالحسن بن علی بن عبید اللہ زاغونی حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک عیسائی عورت کے دروازہ سے گذراتو اس کو دیکھ کر اسی وقت لٹو ہو گیا اور اس کا عشق اتنا بڑھا کہ عقل پر غالب آگیا تو اس کو مارستان لے گئے اس کا ایک دوست تھا جو اس کے پاس آتا جاتا تھا اور ان دونوں (عاشق و معشوق) کے درمیان خط و کتابت کیا کرتا تھا پھر عاشق کی حالت اس سے بھی گرگئی تو اس کی ماں نے اس کے دوست سے کہا کہ میں اس کے پاس آ کر اس سے باتمیں کرتی ہوں مگر یہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو تو وہ اس کے ساتھ آئی اور اس دوست نے عاشق سے کہا کہ تیری والی نے تیرے پاس ایک پیغام بھیجا ہے اس نے پوچھا کیا پیغام؟ اس نے کہا یہ تیری ماں ہے اس کا پیغام یہ سنائے گی تو اس کی ماں اس سے جھوٹ موبہ کی باتمیں کرتی رہی جب اس کا معاملہ تیز ہوا اور موت کا وقت قریب ہو گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اجل پہنچ گیا اور وقت آگیا ہے میں اپنی دوست سے دنیا میں تو نہیں مل سکا اب میرا ارادہ ہے کہ اس کو آخرت میں ملوں گا تو اس کے دوست نے پوچھا وہ کیسے؟۔ کہا میں محمد ﷺ کے دین سے پھر کر عیسیٰ ابن مریم اور صلیبِ اعظم کا قائل ہوتا ہوں (کیونکہ میری دوست بھی اسی مذہب کی ہے) اور یہ کہ مر گیا۔

تو اس کا دوست اس عورت کے پاس گیا تو اس کو بھی یہاں پایا تو اس کے پاس جا کر اس سے بات چیت شروع کی تو عورت نے کہا کہ میں اپنے دوست کو دنیا میں تو نہیں مل سکی لیکن اب اس کو (مسلمان ہو کر) آخرت میں ملوں گی (کیونکہ وہ مسلمان ہے) اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں عیسائی مذہب سے بیزار ہوئی تو

اس کا باپ کھڑا ہوا اور اس آدمی سے کہا تم اس کو لے جاؤ کیونکہ یہ اب تم مسلمانوں میں سے ہو گئی ہے تو وہ شخص جانے کے لئے انھ کھڑا ہوا لیکن عورت نے کہا کہ تم کچھ دیر پھرہ و تو وہ پھر گیا اور وہ اسی وقت مر گئی۔

(فائدہ) قارئین ملاحظہ کریں کہ عشق کے پیچھے مسلمان کافر ہو گیا اور عیسائی عورت مسلمان ہو گئی اللہ کی تقسیم ہے اور بندوں کی شامت اعمال ہے اور اس عورت کی خوش بخشی ہے مگر اس مرد کا خام خیال تھا کہ میں عیسائی بن کر عیسائی عورت سے قیامت کے دن ملاقات کروں گا حالانکہ اگر یہ دونوں عیسائی ہوتے تو یہ دونوں دوزخ میں جلتے اور دوزخ راحت کی جگہ نہیں اتنا سخت عذاب کا مقام ہے جو انسان کے وہم و گمان اور شعور سے بھی بالاتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق پرستی سے اور اس کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

بے دین عاشق کی لاش گندگی کے ڈھیر پر

امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کی حکایت معلوم ہوئی ہے جو بغداد میں رہتا تھا نام اس کا صالح تھا اس نے چالیس سال تک اذان دی تھی اور یہ نیک نامی میں بھی بہت مشہور تھا یہ ایک اذان دینے کے لئے منارہ پر چڑھا اور مسجد کے پہلو میں ایک عیسائی کے گھر میں اسی کی بیٹی کو دیکھا اور اس کے فتنہ میں بتلا ہو گیا اور (اتر) کر اس کے دروازہ پر آیا اور اس کے دروازہ کو کھٹکھٹایا۔ تو اس کی لڑکی نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں صالح موذن ہوں تو اس نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا تو اس موذن نے اس کو فوراً اپنے ساتھ چھٹا لیا تو لڑکی نے کہا تم مسلمان تو بڑی دیانت امانت والے ہو پھر یہ خیانت کیسی؟ تو موذن نے جواب دیا اگر میری بات مانتی ہو تو نحیک ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا لڑکی نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہاں اگر تم اپنادین چھوڑ دو تو۔ تو موذن نے کہا میں اسلام سے بری ہوں اور اس سے بھی جو محمد ﷺ لے کر معبوث ہوئے ہیں پھر وہ اس کے قریب ہوا تو لڑکی نے کہا تم نے تو

یہ اس لئے کہا کہ اپنا مقصد پورا کرو پھر اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ اب میری شرط ہے کہ تم خنزیر کا گوشت کھاؤ تو اس نے اس کو کھایا پھر لڑکی نے کہا اب شراب بھی پیو تو اس نے شراب بھی پی لی جب اس پر شراب نے اثر کیا تو لڑکی کے قریب ہو گیا تو لڑکی نے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کندھی رگالی تو اس نے کہا تم چھت پر چڑھ جاؤ حتیٰ کہ میرا والد آجائے اور میرا تیرا نکاح کر دے تو وہ چھت پر چڑھ گیا اور پھر اس سے گر کر مر گیا پھر وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلی اور اس کو کپڑے میں لپیٹا یہاں تک کہ اس کا باپ بھی آگیا تھا تو اس نے اس کو سارا قصہ سنایا تو اس نے اس کورات کے وقت گھر سے نکال کر ایک گلی میں پھینک دیا اور اس کا قصہ مشہور ہو گیا اور اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔

(نوٹ) یہ ہے عشق بازی کے پچھے دین مصطفیٰ ﷺ چھوڑنے کا انجام اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نخوست سے محفوظ رکھے۔..... (متترجم)

باب 44

عشق کی خاطر لوگوں کو قتل کرنے والے عاشقوں کے واقعات

حقِ مہر میں مقتولوں کے سر پیش کرنے والا

عبد الرحمن بن ملجم ملعون (جس نے حضرت علیؑ کو شہید کیا تھا) نے تم الرباب کی قظام نامی عورت کو دیکھا جو عورتوں میں بہت حسین تھی اور خارجیوں والا ذہن رکھتی تھی اور اس کی قوم اسی رائے کی وجہ سے یوم النہروان میں قتل ہوئی تھی جب ابن ملجم نے اس قظام کو دیکھا تو اس کو عشق ہو گیا اور اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے جواب میں کہا میں تم سے اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک تم (حقِ مہر میں) تین ہزار مسلمانوں کو اور حضرت علیؑ کو قتل نہیں کرو گے تو اس نے اس سے اسی شرط پر شادی کر لی جب وہ شادی کے انتظامات سے فارغ ہوا تو قظام نے اس کو کہا اے ابنِ ملجم اب تم فارغ ہو گئے ہو اب یہ قصہ تمام کر دو چنانچہ اس نے اپنے ہتھیار پہنے اور قظام بھی ساتھ ہی نکلی ابنِ ملجم نے قظام کے لئے مسجد میں ایک قبة بنایا اور حضرت علیؑ نماز نماز پکارتے ہوئے تشریف لائے اور ابنِ ملجم بھی آپ کے پیچھے سے آیا اور آپ کے سر پر تلوار چلا دی (جس وجہ سے آپؐ شہید ہو گئے)۔

دو قاتلوں کا انجام

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ولیدہ نامی ایک عورت رہتی تھی اس کا ایک عاشق تھا جس سے اس نے کہا میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم فلاں شخص کو قتل نہ کرو تو اس نے اس کو قتل کیا اور اس عورت نے قتل میں اس کی مدد کی لیکن یہ مرد اور عورت دونوں گرفتار ہو گئے تو مرد کو اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ اور عورت کو تین مہینہ کی مہلت دے دی گئی جب معلوم ہو گیا کہ اس کو حمل نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔

بیٹی نے باپ کو قتل کر دیا

رقاش نامی ایک عورت قبیلہ ایاد بن نزار سے تعلق رکھتی تھی اس سے اس کا باپ شدید محبت کرتا تھا اس سے شادی کرنے کے لئے اس کی قوم کے ایک آدمی نے پیغام دیا جس کو اس لڑکی نے پسند کیا لیکن لڑکی کے والد نے اس کی شادی سے انکار کر دیا تو لڑکی نے باپ کو زہر دے دیا جب باپ نے موت کو محسوس کیا تو کہا اے رقاش تم نے ایک غیر کے لئے میرا خون لر دیا تمہیں اس کا انجام مختصر ہے چکھنا ہو گا جب اس کا باپ مر چکا تو اس نے اسی شخص سے شادی کر لی لیکن اس کے خاوند نے اس کی پٹائی کرنے میں دیرینہ کی تو اس سے کسی نے کہا کہ اے رقاش کیا تمہیں تمہارے خاوند نے پٹائی ہے؟ تو اس نے کہا جس کے مددگار کم ہوں وہ رسولی ہوتا ہے پھر اس کے خاوند نے دوسری شادی کرنے میں بھی دیرینہ لگائی تو اس کو کہا گیا کہ اے رقاش تیرے خاوند نے تم پر ایک اور بیوی کر لی اگر تم چاہو تو اس سے طلاق لے لو؟ تو رقاش نے کہا میں شر کے ساتھ ایک اور شر کو نہیں ڈھونڈ نا چاہتی ایک شریف عورت کے لئے طلاق جیسی کالک بہت ہوتی ہے۔

(نوٹ) ایسی عورت جو خواہش نفس کو پورا کرنے کے لئے باپ کو مار دے وہ

شریف کہاں ہو سکتی ہے ایسی عورت تو ہمیشہ دوزخ کے لئے جلے گئی آج کے زمانہ میں بھی بہت سی عورتیں اور مرد ایسے ہیں جو شادی کے لئے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار وغیرہ کو قتل کر دیتے ہیں ایسے لوگ دوزخ کی آگ سے عبرت کپڑیں مزید یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ذلیل و رسول اکبر تا اور کسی نہ کسی عذاب میں بتلا کر دیتا ہے۔..... (متترجم)

خطرناک حکایت

ابو احمد حسین بن موسیٰ علوی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا میری خدمت کیا کرتا تھا اس نے قسم کھار کھی تھی کہ وہ کبھی کسی دعوت میں شریک نہ ہو گا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں بصرہ سے بغداد جا رہا تھا میں نے بصرہ کی کسی سڑک پر سفر شروع کر دیا اس پر مجھے ایک شخص ملا اور مجھے میری کنیت کو چھوڑ کر کسی اور کنیت سے مخاطب کیا خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور نگے پاؤں چلنے لگا پھر مجھے سے کچھ ایسے لوگوں کے بارہ میں پوچھنے لگا جن کو میں نہیں جانتا تھا میں پر دیکی تھا کسی نہ کانے کو بھی نہیں جانتا تھا میں نے سوچا کہ آج رات اس کے پاس رہ لوں گا اور کل کوئی مکان ڈھونڈ لوں گا تو میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اس وقت میرے ساتھ ایک نیکی آدمی بھی تھا اور میری تھلی میں بہت سے پیسے بھی تھے جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو مکان کی اچھی حالت دیکھی متوسط قسم کا مکان تھا وہاں دعوت کا انتظام تھا اور لوگ انگور اور کھجور کے جوں نوش کر رہے تھے پھر وہ خود تو کہیں چلا گیا اور مجھے اپنے کسی دوست کے حوالہ کر دیا۔ وہ لوگ جو وہاں موجود تھے ان میں ایک امرد لڑکا بھی تھا جب ہم اپنے اپنے بستر و پرسونے کے لئے چلے گئے تو میں نے اپنے وہاں رہائش کرنے پر افسوس کیا باقی لوگ تو سو گئے جب کافی وقت گز رگیا تو میں نے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے بد فعلی کی پھر واپس اپنی جگہ آگیا اور یہ شخص اس لڑکے کے دوست کے قریب سویا ہوا تھا پھر

لڑکے کا دوست انھا اور اس کو جگایا تو لڑکے نے اس کو کہا اب کیا چاہتے ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم میرے پاس نہیں تھے اور تم نے ایسا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو میرے پاس کچھ دیر پہلے آیا تھا میں نے یہی سمجھا تھا کہ تم ہواں لئے میں نے کوئی حرکت نہیں کی اور میں نہیں مانتا کہ تمہارے سامنے وہی اور ایسی جرات کر سکتا ہے تو وہ جوان حملہ آور ہوا اور اس شخص کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور اتفاق یہ کہ اس نے ایسے خیانتی کو ہی قتل کیا اور میں گھبراہٹ کے مارے کانپ رہا تھا اگر وہ مجھ سے ابتداء کرتا اور مجھے کا نپتے ہوئے دیکھتا تو مجھے قتل کر دیتا اور وہ یہی سمجھتا کہ میں ہی اس کہانی کا کردار ہوں جب اللہ تعالیٰ نے میری زندگی چاہی تھی تو اس نے اس خبیث سے انتقام لے لیا اس نے اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھا تو وہ دھڑک رہا تھا لیکن سونے کی شکل اختیار کر رکھی تھی اس کو امید یہی تھی کہ میں نج جاؤں گا لیکن اس نے اس کے دل پر چھرا رکھا اور منہ بند کر دیا اب وہ شخص تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا اور اس شخص نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور چلا گیا۔

زانی شیطان کو قتل کر کے جلا دیا گیا

قاضی ابوالقاسم بہلوں کہتے ہیں کہ میں بغداد کے ایک پولیس افسر کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے جیل سے کچھ چورنکا لے اور خلیفہ معز الدولہ سے ان کے قتل کرنے اور پل کے پاس سولی چڑھانے کی اجازت طلب کی اس نے اس کو اجازت دی چنانچہ اس نے ان کو عشاء کے وقت لشکار دیا ان چوروں کی تعداد بیس تھی اور ان کی نگرانی کے لئے ایک جماعت قرار کر دی میں بھی ان کی نگرانی میں مقرر ہوا تھا اور ہمارا افسر فلاں آدمی تھا ان لوگوں نے کہا کہ تم باقی دن اور رات ان کو سولی کی لکڑیوں کے پاس گذارو یہاں تک کہ جب صبح ہو گی تو ان کی گرد نیس مار دی جائیں گی۔ تو ہم نے سو کر رات گذاری چنانچہ ایک چور نے رسی کاٹی اور لکڑی سے اتر گیا اور ہم اس کے گرنے اور دوڑنے کی آواز سے جاگ گئے چنانچہ ہمارا افسر اور میں اس کے پیچھے

دوڑے لیکن ہم اس کو نہ پہنچ سکے اور ہمیں یہ ذریحی تھا کہ باقی لوگ بھی تشویش میں بتلا نہ ہوں کہ ان میں سے کوئی اور چور نہ بھاگ جائے اس لئے ہم جلدی سے واپس لوٹ آئے اور غمگین ہو کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں؟ تو ہمارے افسر نے کہا کہ پولیس کا بڑا افسر نہ کوئی لغزش معاف کرتا ہے نہ کوئی عذر قبول کرتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے چور سے کچھ مال لے کر رہا کر دیا ہے پھر وہ اس بات کے اقرار کرانے کیلئے مجھے اتنا مارے گا مگر میں اس کا اقرار نہ کر سکوں گا پھر وہ سوچے گا کہ مجھے کوڑے کوڑے مارے چنانچہ وہ مجھے اتنا مارے گا کہ میں مرنے کے قریب ہو جاؤں گا لیکن جب اس طرح سے اس کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ اس لئے اب کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ہمیں بھاگ جانا چاہئے اس نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کہاں بسر کریں گے؟ میں نے نہ کہا یہ آدمی رات کا وقت ہے اور کسی کو پہنچنیں کیا ہوا ہے اس لئے تم اٹھو ہمیں کوئی نہ کوئی بد بخت مل جائے گا ہم اس کو باندھیں گے اور پھر اس کو لکڑی سے باندھ دیں گے اور ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں میں آدمی پرد کئے گئے تھے اور یہ بیس پورے ہیں اس سے بہتر اور کوئی حیلہ نہیں اس نے کہا ہاں یہ خوب ہے چنانچہ ہم گھونٹے لگے اور پل کے راستے کی طرف چل نکلے تاکہ مغربی کنارہ کی طرف پار ہو جائیں تو ہم نے دہاں جا کر ایک آدمی کو پل کی کرسی کے نیچے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو ہم اس کی طرف لپکے اور اس کو پکڑ لیا تو اس نے چیخ کر کہا اے لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تو ملاح ہوں یہ میری کشتی ہے میں اس سے پیشاب کرنے کے لئے اترا ہوں اس نے اپنی کشتی کی طرف اشارہ بھی کیا اور کہا تمہارے اور میرے درمیان کون سی دشمنی ہے تو ہم نے اس کو مارا اور کہا تو ہی وہ چور ہے جو سولی کی لکڑی سے بھاگا ہے چنانچہ ہم اس کو پکڑ کر لے آئے اور بھاگنے والے کی جگہ پر اسے سولی کی لکڑی پر چڑھا دیا جبکہ وہ لمبی رات تک چیختا اور رو تارہ اور ہمارے دل اس پر ترس کھانے کی وجہ سے نکڑے نکڑے ہو رہے تھے ہم نے کہا بے چارہ مظلوم ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حیلہ بھی تو نہیں تھا جب صبح ہوئی تو پولیس کا افسر بھی آیا اور لوگ بھی

جمع ہو گئے یہ افسر جب سامنے آیا کہ ان چوروں کی گرد نیں مار دے اس وقت وہ ملاج پھر چلایا کہ اے افسر اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ذر و میری بات سنو میں ان چوروں میں سے نہیں ہوں جن کو تو نے نکالا ہے اور رسولی لڑکانے کا حکم دیا ہے۔ میں ایک مظلوم ہوں میرے ساتھ کوئی حیلہ کیا گیا ہے۔ تو اس افسر نے اس کو اتارا اور پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے اپنا قصہ بچ بچ تادیا۔ تو اس افسر نے ہمیں بلا یا اور پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ نے میں آدمی ہمارے پروردگئے تھے اور یہ میں ہی ہیں۔ اس افسر نے کہا کہ تم نے اس چور سے کچھ رقم لے کر اس کو چھوڑ دیا اور ایک غریب شخص کو پکڑ لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا جو چور آپ نے ہمارے پروردگیا تھا یہ وہی ہے۔ چنانچہ سب چوروں کی گرد نیں مار دی گئیں اور ملاج کو چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ تم جیلوں اور نگرانوں کو پیش کرو۔ جب وہ پیش ہو گئے تو اس نے پوچھا یہ شخص ان میں چوروں میں سے ہے جن کو ہم نے (پھانسی کے لئے) نکالا تھا؟ تو انہوں نے غور کر کے بیک زبان ہو کر کہا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔

تو اس نے کچھ سوچ کر اس کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن پھر کہا اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو ہم نے اس کو اس کے سامنے پیش کر دیا تو افسر نے کہا تم اپنا قصہ دو بارہ سناؤ تو اس نے وہی بات دہرا دی۔ تو افسر نے کہا تم آدمی رات کو اس چلکر کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی کشتی ہی میں سو گیا تھا جب مجھے پیشتاب نے زور کیا تو میں پیشتاب کے لئے وہاں اترتا تھا۔ تو افسر نے کچھ دیر سوچ کر کہا تم اپنا حقیقی واقعہ بچ بچ بتا دو تاکہ میں تمہیں رہا کر دوں؟ تم وہاں کیا کر رہے تھے تاکہ میں تمہیں رہا کر دوں لیکن اس نے سابقہ بات کے علاوہ کوئی بات ذکر نہ کی۔

اس افسر کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی سے کسی بات کا اقرار کرانا چاہتا تھا اسی وقت اپنے سامنے کرالیتا تھا اس کے پیچھے ڈنڈا بردار ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ جب یہ اپنے سر کو کھجاتا تھا تو اس جماعت میں سے ایک شخص زور سے ڈنڈا مارتا تھا۔

اور یہ افسر اس مارنے والے سے کہتا خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اے بدکردار
تجھے اس کو مارنے کا کس نے کہا تھا؟ تو نے اس کو کیوں مارا؟ (پھر اس ملزم سے
مخاطب ہو کر کہتا) تم آگے آ جاؤ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی حق کہہ دونجات پاؤں گے۔
اگر وہ اقرار کرتا تھیک درنہ دوسرا اور تیسرا مرتبہ اپنے سر کو کھجاتا تھا اور اسی طرح
سے وہ کرتا رہتا (یعنی سر کو کھجاتا اور ملزم کو مرداتا تھا) یہ تمام جرائم میں اس کی عادت
رہی تھی۔ جب ملاح نے بہت دیر کردی تو اس نے اپنا سر کھجایا تو اس کے آدمیوں
سے ایک نے ایک بہت بڑا ذمہ امارا جس سے یہ بہت چینا۔ لیکن افسر نے پوچھا تم
سے اس کا کس نے حکم دیا تھا؟ اے بدکردار اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے۔ پھر اس
نے ملاح سے کہا تم حق کہہ دونجات کو آزاد کرالو۔

تو اس سے ملاح نے کہا اللہ تم پر گواہ ہے اگر میں اپنی جان اور اعضاء کی امان
پاؤں تو چ کھوں؟ افسر نے کہا ہاں (تو امان میں ہے)۔

تو اس نے کہا کہ میں ایک ملاح آدمی ہوں فلاں پن پر کام کرتا ہوں مجھے
میرے ہمسائے نیک آدمی جانتے ہیں۔ میں نے گذشتہ رات عشاء کے بعد کشتی
چلائی تاکہ چاند کی روشنی میں پہنچ جاؤں۔ تو ایک خادم کسی گھر سے آیا میں اس گھر کو
نہیں جانتا۔ اس نے زور سے کہا اے ملاح! تو میں اس کے پاس گیا اس نے ایک
حسین عورت میرے پر دکی جس کے ساتھ دو پچیاں بھی تھیں اور ایک کھرا درہم بھی
دیا اور رکھا تم ان کو باب شما یہ تک پہنچا دو۔ تو میں ان کو راستہ کے ایک حصہ تک آرام
سے لے گیا پھر اس عورت نے اپنے چہرہ سے پردہ ہٹایا تو وہ انسانوں میں سب سے
زیادہ خوبصورت چہرہ والی عورت تھی جیسے چاند ہوتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کی
اور اپنے چپو قالین پر رکھے اور کشتی کو دریا میں دجلہ کے درمیان میں لے گیا اور عورت
کی طرف بڑھا اور اس کو بہلا یا مگروہ چھیننے چلانے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم!
اگر تو چلائے گی تو میں ابھی تھیں غرق کر دوں گا تو وہ چپ ہو گئی مگر اپنے سے مجھے دور
کرنے لگی تو میں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی مگر قابو نہ کر سکا۔ تو میں نے اس

سے کہا یہ بچیاں کون ہیں؟ اس نے کہا میری بیٹیاں ہیں۔ میں نے پوچھا ان دونوں میں سے کونسا کام پسند ہے کیا تم خود کو میرے پر دکرتی ہو یا میں اس کو غرق کر دوں پھر میں نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ تم جو چاہو کرو میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ چنانچہ میں نے ایک بچی کو پانی میں پھینک دیا تو اس نے اپنا منہ پینا اور اس کے ساتھ ہی ایک چیخ نکال کر کہا اللہ کی قسم میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی چاہے تم مجھے قتل کیوں نہ کر دو اور چاہے کسی کو علم بھی ہو جائے جو رات کے وقت یہاں قریب ہو اور میری چیخیں سن لے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور روتا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو ایک لمحہ کے لئے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا میری بات مان لو ورنہ میں دوسری بچی بھی غرق کر دوں گا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم! میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تو میں نے دوسری بچی بھی انھائی اور اس کو بھی پانی میں پھینک دیا تو اس نے پھر ایک چیخ ماری اور میں بھی اس کے ساتھ ہی گر جا اور اس کو کہا اب اور تو کوئی نہیں بچا اب میں تجھے بھی مار دوں گا ورنہ میری بات مان لو۔ پھر میں نے اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھ انھائے کہ اس کو پانی میں پھینکنے اس وقت اس نے کہا کہ میں مانتی ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو کشتی میں واپس چھوڑا اور اس نے خود کو میرے قابو میں دیا اور میں نے منہ کالا کیا اور پھر چل پڑا تاکہ اس کو پتمن پر اتا ردوں۔ پھر میں نے کہا یہ اسی وقت اپنے گھر میں جائے گی اور مجھے پکڑا کر قتل کرادے گی اس لئے اس کو قتل کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پانی میں پھینک دیا اور وہ بھی غرق ہو گئی۔

پھر میں نے سوچھا جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا تو شرمende ہوا اور میری اس آدمی کی طرح حالت ہو گئی تھی جو نہ میں ہو پھر ہوش آگیا ہو۔ تو میں نے کہا میں اب کیا کروں سوائے اس کے کہ اپنی کشتی کو بصرہ کی طرف چھوڑ دوں اور اس کی نہروں کا غوطہ لگا لوں تاکہ مجھے کوئی نہ پہچان سکے۔ چنانچہ میں نے کشتی کو اس کے رخ پر چھوڑ دیا۔ پھر جب میں پل کے برابر پہنچا تو مجھے میرے پیٹ (کے مردڑ) نے پکڑ لیا تو

میں اس سے اتر آیا تا کہ استخنا، وغیرہ کرلوں اور پھر اپنی کشتی میں واپس لوٹ جاؤں لیکن اس وقت ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔

تو اس پولیس آفیر نے اس سے بطور مذاق کے کہا تیرے اور میرے درمیان ایسا معاملہ کب ہو سکتا ہے تم امن و سلامتی کے ساتھ تشریف لے جاؤ۔ تو اس نے اپنی بے وقوفی سے یہی سمجھ لیا کہ میں واقعی آزاد ہو گیا ہوں پھر وہ پشت پھیر کر جانے لگا۔ تو افر نے چیخ کر کہا اے جوان تم واپس جا رہے ہو اور ہمارا حق بھول رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم قسم اٹھالوکہ اب کے بعد پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گے۔ تو وہ جب لوٹا تو افر نے کہا اس کو گرفتار کرلو۔ تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس افر نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو ملاج نے کہا اے میرے سردار! آپ میرے ہاتھ کاٹ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے امان نہیں دی تھی؟ تو افر نے کہا کہ اے کتے! کیا تیرے جیسوں کو امان ملتی ہے؟ تو نے تین انسان مارڈا لے، زنا کیا اور پھر اپنی خباثت کو چھپایا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے گئے پھر اس کی گردن کاٹ دی گئی اور اسی جگہ پر اس کے جسم کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔

(عبرت) : زنا حرام ہے ہر صورت میں اس کے مرتكب کو زنا کی حد لگتی ہے اگر زانی کو دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں ضرور سزا بھگلتے گا۔ بعض زنا اپنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضی قابل عبرت ہوتی ہے مذکورہ بالا واقعہ کو ملاحظہ کریں کہ اس خبیث انسان نے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کیلئے کس طرح سے تین انسانوں کو قتل کیا۔ مگر اس کے ساتھ ہی اللہ کی لا تھی بے آواز ہے اس شیطان کو اس کا وہم گمان بھی نہیں تھا کہ میں فوراً کیفر کردار تک پہنچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پکڑایا اور کیسے بھیانک انجام تک پہنچایا۔ اس واقعہ کو پڑھ کر آج کے انسان نما شیطان بھی عبرت پکڑیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ اگر فوراً عذاب نہیں آیا تو کسی وقت بھی آسکتا ہے لیکن جب عذاب آتا ہے تو مہلت نہیں ملتی وہ تباہ کر کے ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو اس بدترین گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمين۔ (مترجم)

باب 45

معشوق کو قتل کرنے والے عاشقوں کی حکایات

حکایت سعرا:

دوستی لگانے والی کا انجام

عرب کے ایک شخص نے اپنی بچازاد سے شادی کر رکھی تھی یہ شخص اس کو بہت چاہتا تھا۔ یہ عورت بہت حسین تھی۔ یہ شخص اس کے عشق کی وجہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا کرتا تھا اور کچھ دیر بعد جا کر بیوی کو دیکھ آیا کرتا تھا پھر وہ اپس آ کر دوستوں کے پاس آئیتھا تھا۔ اس عورت کے ایک اور بچازاد نے اس بات کو تاثر لیا اور اس گھر کے پہلو میں ایک گھر کرایہ پر لے لیا اور اس سے پیغام رسانی شروع کر دی جتی کہ اس عورت نے اس کو ہاں کہہ دی اور حیلہ کر کے اس کے گھر کو لئک کر اتر گئی اور خود بھی اپنی عادت کے مطابق اس کو دیکھنے کیا مگر اس کو نہ دیکھا تو اس سے پوچھا فلانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا قضاۓ حاجت کوئی ہو گئی تو اس نے اس جگہ پر جا کر دیکھا تو وہاں بھی نہ ملی بلکہ یہ تو لئک کر گئی ہوئی تھی جس کو اس نے بھی دیکھ لیا اور پوچھا تمہارے پیچھے کیا ہے؟ خدا کی قسم چج بولنا۔ عورت نے کہا اللہ کی قسم! چج بولوں گی ایسی ایسی بات ہے جب اس نے اقرار کیا تو جو ان نے تلوار سوتی اور اس عورت کی گردی پھر اس کی ماں کو قتل کر کے بھاگ گیا۔

حکایت نمبر ۴:

قدرت کا انتقام

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص میری خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے آپس میں کچھ واقعات نائے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک رات ایک مکان میں گزاری جس میں ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو میں اسی وقت آدھی رات میں نکل کھڑا ہوا میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کدھر کارخ کروں اور چوکیدار کا بھی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ مجھے ایک حمام کی بھٹنی نظر آئی جو ابھی تک جلائی نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا جب تک اس کا مالک حمام کو کھولتا نہیں تم اسی میں چھپ جاؤ چنانچہ میں اس بھٹنی کے ایک کونہ میں بیٹھ گیا۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں گذری تھی کہ میں نے پاؤں چلنے کی آواز کی پھر میں نے دیکھا تو ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ایک لڑکی ہے اس نے اس کو بھٹنی میں اتارا پھر اس کو ذبح کیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس عورت کے پاؤں میں چمکدار پازیب دیکھے تو ان کو اس سے اتار لیا پھر کچھ دیر رک کر وہاں سے چل دیا۔ میں اسی طرح سے ناواقف راستہ پر حیران پریشان ہو کر چلتا رہا حتیٰ کہ ایک حمام کے پاس سے گزارا جو کھل چکا تھا تو میں اس میں داخل ہوا اور جو کچھ میرے پاس تھا اس کو میں نے کپڑوں میں چھپایا اور چلا گیا اور راستہ کی پہچان بھی ہو گئی اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ میں نے اپنے دوست کے گھر کے قریب آگیا ہوں چنانچہ میں نے اس کے گھر کو تلاش کر کے اس کا دروازہ کھینکایا تو اس نے میرے لئے دروازہ کھولا اور میرے آنے سے خوش ہوا اور اندر لے گیا۔ تو میں نے اپنے پیسے اور پازیب اس کو دیئے تاکہ ان کو چھپا دے۔ جب اس نے ان پازیبوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم نے یہ پازیب کہاں سے لئے؟ تو میں نے اس کو اس رات کا تمام واقعہ سنادیا۔

اس نے کہا کہ تمہاں شخص کو پہچان لو گے جس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے؟ میں

نے کہا چہرہ سے تو نہیں پہچان سکوں گا کیونکہ اندر ہیرا ہمارے درمیان حاصل تھا لیکن اگر میں اس کی آواز سن لوں تو ضرور پہچان لوں گا۔ پھر اس نے کھانا تیار کرایا اور اس معاملہ میں فکر کرنے لگا۔ پھر وہ باہر نکل گیا جب ایک گھری کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اس نے اس سے تو بات شروع کی مگر مجھے اس کے متعلق آنکھ ماری تو میں نے کہا ہاں یہی وہ شخص ہے۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور شربت پیش کیا گیا اور اس کے سامنے شراب رکھی گیا جس کو اس نے انگوروں کا رس سمجھا جب اس کو اس نے پی لیا تو اس کو نشہ آگیا اور اسی جگہ پر سو گیا۔ تو میرے دوست نے صحن کا دروازہ بند کر کے اس شخص کو ذبح کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ مقتولہ میری بہن تھی اس شخص نے ہمیں خراب کر رکھا تھا۔ بڑی مدت سے اس کی جستجو میں تھا مگر تصدیق نہیں ہو رہی تھی سوائے اس کے کہ میں اپنی بہن کو الگ کر کے اس سے دور ہو گیا تھا اور وہ اس کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کے درمیان کیا مسئلہ ہوا جس پر اس نے میری بہن کو قتل کر دیا۔ میں نے ان دونوں پازیبوں کو پہچان لیا تھا اور ان کے بارہ میں اس کے گھروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص کے پاس ہیں تو میں نے کہا اچھا مجھے کیا اعتراض پھر وہ اس شخص کے پاس گئے تاکہ وہ پازیبہ واپس لے آئیں جب وہ اس کی خبر لینے گئے تو وہ جوان تو تلا ہو گیا۔ اسی وقت میں نے جان لیا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے جیسا کہ تم نے ذکر کیا تھا۔ اس لئے میں نے بھی اس کو قتل کر دیا۔ اب تم انھوتا کہ اس کو دفن کر دیں۔ چنانچہ میں اور وہ شخص دونوں رات کے وقت نکلے اور اس کو دفن کر آئے اور اس کے بعد میں بصرہ سے بھاگ کر بغداد پہنچ گیا اور قسم انھائی کے اب میں کبھی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔

حکایت نمبر ۳:

محبوبے نکڑے نکڑے کر دیئے

ابو علی بن حامد بن ابو بکر بن ابو حامد بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد کے

ایک دوست نے بیان کیا کہ تمہارا دادا بیت المال کا افسر تھا اور دارالخلافۃ میں اس کا آنا جانا تھا۔ جب یہ واپس آتا تھا تو رات کی چوتھائی یا تہائی گزر چکی ہوتی تھی یہ اس وقت اپنی بکھر پر بیٹھ کر لوئتے تھے۔ اور ہمیں ضرورت رہتی تھی کہ ہماری بڑی بڑی ذاتی کشمیاں ہوں۔ چنانچہ جب وہ بکھر میں بیٹھتے تھے تو ہم اپنی کشمیاں پیش کرتے تھے۔ اس میں طویل عرصہ سے میری ایک ملاح کے ساتھ ملاقات تھی۔

چنانچہ ایک رات ایسی آئی جس میں تمہارے دادا کے ساتھ نکلا اور اپنے ملاح کو تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا تو تمہارے دادا کے بعض ساتھیوں نے مجھے اپنی کشتی میں سوار کر لی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اس ملاح کی کچھ خبر نہ ہوئی اور اس طرح سے کئی سال گزر گئے۔ جب کئی سال گزر گئے تو میں نے اس کو طیلان کے علاقہ کرخ میں دیکھا۔ جوتا، جوزا اور چادر پہنے بڑے تاجر دوں کی شکل بنائے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا تم فلاں ہو؟ جب اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا گیا۔ میں نے کہا تو بر باد ہو جائے قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ شکل و انداز کیسا ہے؟ کہا میں نے ملاجی چھوڑ کر تجارت شروع کر دی ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں تجارت کے لئے رقم کہاں سے ملی؟ اس نے کوشش کی کہ نال مشول کر جائے۔ میں نے کہا میرے سامنے کھینچاتا نی مت کرو خدا کی قسم جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے مجھے اس رات کیوں چھوڑا تھا پھر میں نے تجھے اب تک نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ اس شرط پر بتاتا ہوں اگر تم میری بات کو پرداہ میں رکھو گے تو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے سے قسم انہوں تو میں نے قسم انہادی۔

اس نے بتایا کہ تم اس دن دیر سے آئے تھے۔ مجھے پیشاب نے ننگ کیا تو میں دارالخلافۃ سے نہر معلکی کے راستے پر آگیا اور وہاں پر پیشاب کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتراءے اور مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے سوار کر کے لے چلو۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سوار موجود ہے اس کو چھوڑ کر جانا ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ دینار لو اور مجھے لے چلو۔ جب میں نے دینار (سونے کا روپیہ) کا نام سناتا تو مجھے

لاچ ہوئی اور میں نے تمھا کہ یہ یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کہاں لے جاؤ؟ اس نے کہا چھڑا رنگنے والوں کے پاس۔ میں نے کہا کہ آپ کو دہاں نہیں لے جا سکتا۔ تو اس نے کہا دودینار لے لو۔ تو میں نے کہا مجھے دو۔ تو اس نے مجھے دودینار دیئے جن کو میں نے آستین میں رکھ دیا۔

اس آدمی کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ اس نے اس کو کہا تم جاؤ جو تمہارے پاس ہے اس کو لے کر آؤ۔ تو وہ غلام چلا گیا اور کچھ دیر نہ لگائی کہ ایک لوئندی (عورت) ساتھ لے کر آگیا۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرے اور لباس کے اعتبار سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ بہت خوبصورت بڑی ساری نوکری اور میوؤں، برف اور شراب کے طباق تھے۔ یہ چاندنی رات تھی۔ یہ غلام سارنگی بھی لایا تھا جس کو اس لوئندی نے اپنی گود میں رکھ لیا۔

اس طرح کے اچھے وقت نے مجھ پر آسان کر دیا تھا کہ میں تھے چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاؤ۔

اس کے بعد اس نے اس غلام کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ چنانچہ وہ واپس ہو گیا اور مجھے کہا کہ تم بھی چلو تو میں بھی کشتی کو لے کر چل دیا۔ اس لوئندی نے اپنے چہرہ سے پردہ ہٹا دیا اور یہ چودھویں کے چاند سے بھی کافی زیادہ حسین تھی۔ چنانچہ جب میں چمڑہ رنگنے والوں کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور مجھے کہا جہاں میں کہتا ہوں تم وہاں چلے جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو اس کی حاجت نہیں آپ کو جو حکم کریں میں تابعدار ہوں۔ تو اس نے عورت سے کہا تم کچھ کھاؤ گی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے جو کچھ ٹوکری میں تھا اس سے نکالا تو وہ بہت پاکیزہ کھاتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے کھاتا کھایا اور ٹوکری میری طرف پھینک دی۔ پھر اس لوئندی (عورت) نے بسری اٹھائی اور بہت خوبصورت انداز و آواز میں گانا گایا۔ پھر اس نے مجھے کہا اے ملاج! اگر مجھے تمہارے نشہ میں آئے کاڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی شراب پلاتا۔ میں نے کہا اے استاد! میں بیس رطل

(تقریباً دس کلو) پی جاتا ہوں مگر پھر بھی نہ نہیں آتا۔ تو اس نے مجھے ایک برتن دیا جس میں پانچ رطل شراب ہو گی اس نے کہا پیو یہ سب تمہارا ہے۔ تو میں اس کے گانے کے ساتھ ساتھ پیتا رہا اور وہ بھی پیتے رہے یہاں تک کہ وہ اس کے قریب ہوا اس کو بہت دیر بوس و کنار کیا اور خواہش تیز ہوئی تو وہ میرے سامنے اس کے پاس گیا اور پھر اس نے ایسا کہی بار کیا پھر مست و مخمور ہوا پھر کہا اے فلاں تو نے میرے عہد و پیمان کی خیانت کی ہے اور فلاں کے پاس گئی ہے اور اس نے ایسا ایسا کیا ہے پھر اور بھی کئی آدمیوں کے نام لیتا رہا اور اس سے اقرار لیتا رہا۔ مگر وہ کہتی رہی اے میرے آقا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے میں نے فلاں رات کو فلاں گھر میں خود دیکھا تھا تجھے فلاں نے بلا یا تھا اور تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب کیا حیلہ چل سکتا ہے۔ تجھے پتہ ہے میں تجھے یہاں کیوں لا یا ہوں اور یہاں سخت ست کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا تاکہ میں تجھے الوداع کر دوں اور آخری عہد باندھ کر تجھے قتل کر دوں پھر تجھے پانی میں پھینک دوں۔

تو اس لوئڈی نے بہت آہ و فریاد کی پھر پوچھا اے میرے آقا کیا تمہارا دل اس کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پھر وہ اس کے قریب گیا اور اس کا ازار بند نکال کر اس کو باندھا۔ تو میں نے کہا اے میرے آقا اللہ سے ڈرو! ایسے شان و شوکت والے چہرہ سے، تم تو اس سے محبت کرتے ہو اور پھر یہ تم کیوں کر رہے ہو۔

تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسی وقت تم سے ابتداء کرتا ہوں۔ پھر اس نے تکوار نکالی تو میں نے فریاد کی اور چپ ہو گیا۔ تو وہ اس لوئڈی کی طرف بڑھا اور اس کو ذبح کر دیا مگر اس کو کپڑے رکھا حتیٰ کہ اس کا خون بہہ گیا اور مر گئی۔ پھر اس کے زیور اتار کر کشتنی کے درمیان پھینکنے لگا۔ پھر اس کے کپڑے اتارے۔ اس کا پیٹ چاک کیا اور اس کو کپڑے مکروے کر کے دریا میں ڈالتا رہا۔

اس وقت ہم مدان کے قریب پہنچ چکے تھے اور رات کا اکثر حصہ گذر چکا تھا اور

میں نے ایسا منظر بھی نہیں دیکھا تھا اور لگبڑا ہٹ سے مرا جا رہا تھا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ اب مجھے قتل کرے گا تاکہ میں لوگوں کو اس کے جرم کی خبر نہ کر سکوں۔ لیکن مجھے کوئی حیلہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں محفوظ رہا اور اس نے خود کو ایسا گرا یا جیسے کوئی بے ہوش ہو گیا ہو۔ پھر وہ روکر کہنے لگا میں نے دل کی بھڑاس نکال دی اور خود کو قتل کرنا لا۔ پھر خود کو تھپٹ مارنے لگا۔ اور بنسری اور دوسرا سامان میوے اور کھانے پینے کا دریا میں پھینک دیا۔ فجر طلوع ہو کر روشن ہو گئی اور ہمارے اور مدائن شہر کے درمیان صرف چار کلو میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مجھے اس کے سامنے حیلہ سو جھا میں نے اس کو کہا اے میرے آقا صحیح ہو چکی ہے کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ میں نے سوچا یہ تھا کہ یہ کنارہ پر چڑھتے تو میں کشتی کو بھگا کر اس کو اکیلا چھوڑ جاؤں۔ اس نے کہا یا ان مجھے کنارہ پر چڑھا دو تو میں نے کشتی کو کنارہ پر لگایا اور اس کو باہر پھینکا لیکن وہ کشتی سے جبھی ایک ہاتھ اونچا ہوا تھا کہ ایک درندہ نے اس کو دبوچ لیا۔ اللہ کی قسم! میں نے اس کو درندہ کے منہ میں ایسے دیکھا جیسے تنور کے منہ میں چوہا۔ میں اس وقت سے دل کی خوشی کو نہیں بھول سکا جو مجھے اسوقت حاصل ہوئی تھی۔

چنانچہ میں نے کشتی کو ردیا اور جب مدائن کو عبور کیا تو کنارا پر اترنا اور تمام زیور جمع کئے اور ان کو کشتی کے تاقچے میں رکھ دیا اور کپڑوں کے بارہ سوچ کر یہ کیا کہ ان پر جو خون کے اثرات ہیں ان کو دھو کر ان کپڑوں میں بھی چھپا دوں۔ اور بصرہ میں رہنے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے پاس ایک ہزار اشوفیوں (تقریباً سانچھ لائکھ روپے) کے زیور تھے اور لباس بھی جن کو میں نے بہت سی اشوفیوں کے عوض فروخت کیا۔ اور بصرہ میں رہ کر تجارت کرنے لگ گیا اور بغداد واپس جانے سے ڈر گیا تاکہ مجھے وہ غلام نہ دیکھے لے یا مجھے سے اس آدمی کا مطالبہ نہ شروع کر دیا جائے یا مجھے سے اصل ماجرانہ پوچھا جائے۔ اور یہ تجارت کا سامان بڑھتا رہا تو میں نے اس تمام سامان کے بدلے میں بغداد کی تجارت خرید لی۔ اور کئی سال سے اس میں واپس آ گیا حتیٰ کہ تم نے آج مجھے دیکھ لیا۔

(نوٹ) دیکھ لین اس معموم لوٹدی پر الزام لگا کر اس کو ذبح کرنے پھر اس کو ملکہ نگزے کرنے والے کا کیا بھی انگ انجام ہوا اللہ تعالیٰ ایسے مظالم سے محفوظ رکھے اور ظالموں کو ہدایت دے۔ (مترجم)

حکایت نصرت:

حضرت حسین بن موسی علوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے بیان کیا جو میری خدمت کیا کرتا تھا اس نے یہ قسم اٹھار کھی تھی کہ اگر میں کسی کا جنازہ اٹھا کر جاؤں تو میری بیوی کو طلاق ہو۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک دن بغداد میں دوپھر کے وقت گرمی میں کسی ضرورت کے لئے نکلا تو ایک جنازہ میرے سامنے آگیا جسکو دو آدمیوں نے اٹھا کر تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کوئی لاوارث شخص ہے میں بھی چند قدم تک اس جنازہ کو اٹھا کر ثواب کمالوں چنانچہ جب میں جنازہ کے نیچے ہوا اور میں نے اپنی طرف کا جنازہ کا حصہ اپنے کندھے پر رکھا تو وہ اٹھا نے والا گم ہو گیا تو میں نے پکارا اے حمال اے حمال! تو دوسرے نے کہا کیا چاہتے ہو خاموش ہو کر چلتے رہو وہ چلا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں ابھی اس کو پھینکتا ہوں۔ تو دوسرے حمال نے کہا اگر تو ایسے کرے تو اللہ کی قسم میں چلاوں گا (اور لوگوں کو جمع کر لوں گا) تو مجھے حیا آگئی اور میں نے ایذا برداشت کی اور کہا چلو ثواب تو ہو گا چنانچہ میں جنازہ کو دھوپ اور چھاؤں میں شونیز یہ تک اٹھا کر چلتا رہا۔ جب ہم نے جنازہ کو جنازہ گاہ میں رکھا تو دوسرا حمال بھی بھاگ گیا۔ تو میں نے دل میں کہا ان ملعونوں کو کیا ہو گیا۔ اللہ کی قسم میں تمام ثواب کمالوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنی تھیلی سے کچھ رقم نکالی اور زور سے کہا اے گورکن! اس جنازہ والے کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم۔ تو میں نے کہا اس کی قبر کھود۔ تو اس نے مجھ سے دو درهم لئے اور قبر کھودی۔ جب اس نے میت کو دفن کرنے کے لئے اٹھایا تو قبر سے اچھل کر باہر آگیا اور میری گلزاری کو میری گردن

میں ڈال کر چینے لگا اے لوگو! مقتول مقتول۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے تو اس نے کہا یہ شخص سر کشنا ہوا آدمی لایا ہے تاکہ میں اس کو دفن کر دوں، پھر انہیں ہٹایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسا کہ گور کن نے کہا تھا۔ تو میں بہت گھبرا یا اور پریشان ہوا اور عام لوگوں کی طرف سے مجھے اذیت پہنچی قریب تھا کہ میں مر جاتا یہاں تک کہ پولیس کے افسر کو اس کی خبر دی گئی۔ اور مجھے کوزے مارنے کے لئے میری قیص اتاری گئی اور میں حیران خاموش کھڑا رہا۔ اس افسر کا ایک سیکرٹری بھی تھا جب اس نے میری حیرانی دیکھی تو اس کو کہا آپ مجھے مہلت دیدیں حتیٰ کہ میں اس شخص کا قصہ واضح کر لوں میں اس کو مظلوم سمجھتا ہوں۔ تو اس نے مجھے الگ کیا اور مجھے سے پوچھا تو میں نے اپنا واقعہ سنادیا نہ میں نے اس میں کوئی کمی کی نہ زیادتی۔ تو اس نے میت کو چار پائی سے انھوں لیا اور اس کی تفتیش شروع کر دی۔ تو اس چار پائی کے ایک کونہ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں محلہ کی فلاں مسجد کی جنازہ کی چار پائی ہے۔ تو اس کے سیکرٹری نے اپنے ساتھ کچھ آدمی لئے اور مسجد کی طرف چل دیا اور اچانک مسجد میں چھاپ مارا تو وہاں ایک درزی ملا اس سے مسجد کی جنازہ کی چار پائی کا اس طرح سے پوچھا کہ جیسے اس نے اپنی کوئی میت اس پر لے جانی ہو۔ تو درزی نے کہا مسجد کی ایک چار پائی ہے تو سبھی مگر کل ہی کسی میت کے لئے انھائی گئی ہے جو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تو سیکرٹری نے پوچھا کون لے گیا ہے؟ تو اس نے اشارہ کر کے کہا اس گھر والے۔ تو سیکرٹری نے پولیس والوں سمیت ان پر اچانک چھاپ مارا تو اس میں کچھ آدمی ملے اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور افسر کے پاس لے گیا اور ساری بات بتلائی اور ان لوگوں کو پیش کیا اور اقرار کرایا تو یہ مان گئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ایک لڑکے کے پیچھے ہم میں جھگڑا ہوا اور اس کو قتل کر کے اس کا سر الگ کر دیا اور اس کے سر کو ایک کنویں میں دفن کر دیا جس کو گھر میں کھودا تھا اور باقی جسم کو اس صورت میں انھایا گیا۔ اور یہ دونوں جنازہ کو انھائے والے انہیں لوگوں میں سے دو تھے۔ چنانچہ ان سب قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور مجھے آزاد کر دیا گیا۔ پس یہ ہے میری توبہ کا راز کہ میں جنازہ میں

کیوں شریک نہیں ہوتا۔

حکایت نصرت:

بے گناہ کے قاتل کا انجام

ابوالقاسم جہنی بیان کرتے ہیں کہ بغداد کی لڑکیوں میں ایک نہایت پاک دامن خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کا چچازاد بھائی اس کو پسند کرتا تھا کیونکہ دونوں اکٹھے پروان چڑھتے تھے۔ مگر لڑکی کے باپ نے اس کی شادی ایک غریب آدمی سے کر دی لیکن اس کا چچازاد لڑکی کے دروازہ پر طمع کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ جس کو خاوند نے بھی محسوس کر لیا تھا اور بہت احتیاط کرنے لگا تھا۔ ایک دن خاوند باہر گیا اور عورت نے چاہا کہ کچھ ٹھنڈک حاصل کر لے چنا نچہ اس نے کپڑے اتارے اور غسل کرنا شروع کر دیا اور اپنی سونے کی انگوٹھیاں اپنے کپڑوں کے پاس رکھ دیں۔ ان انگوٹھیوں کو کوئے نے انھیاں اور دروازہ کی طرف سے نکلا تو اس کے چچازاد نے بھی کوئے کا چچھا کیا اور اس سے انگوٹھیاں لے کر خود پہن لیں پھر دروازہ پر بیٹھ گیا تاکہ عورت کا خاوند اس کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ اس کی بیوی کے پاس گیا تھا پھر اس کو طلاق دیدے۔ چنا نچہ جب خاوند آیا تو یہ لڑکا اس کو سلام کرنے کے بہانے کھڑا ہو گیا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنے باتھ کی انگوٹھیاں دکھائے۔ چنا نچہ جب خاوند نے ان کو دیکھا تو پہچان گیا۔ پھر جب اندر گیا تو بیوی کو نہاتے دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ضروری غسل کر رہی ہے۔ تو اس نے اپنے پاس موجود لوٹدی کو کہا تم چلی جاؤ تو وہ چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر کے عورت کو ذبح کر دیا اور اس سے کچھ پوچھا تک نہیں۔ جب وہ لوٹدی آئی تو اس نے اس عورت کو قتل کرتے دیکھا تو زور سے چیخ پڑی اور اس شخص کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اور بیوی کے قتل کے بدله میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور چچازاد نے اصل قصہ لوگوں کو کہہ سنایا پھر یہ قتل اس کی توبہ کا سبب بنا اور مرتبے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔

باب 46

عشق کے سبب قتل ہونے والے عاشق

حکایت نصراء

دھوکہ باز کو نیک خاتون نے قتل کر دیا

لیث کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان لڑکا لایا گیا جو کسی راستہ میں قتل ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اس کے بارہ میں بہت کوشش کی مگر اس کے بارہ میں کچھ معلوم نہ ہوا اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مرپر مشکل ہو گئی تو انہوں نے دعا فرمائی:

اللهم اظفرنی بمقاتله.

اے اللہ! مجھے اس کے قاتل تک پہنچنے میں کامیاب کر۔

حتیٰ کہ اس طرح سے تقریباً ایک سال گزر گیا اور اس مقتول کی جگہ ایک نومولود بچہ پڑا پایا گیا۔ جب اس کو حضرت مر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اب میں مقتول کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا انشا اللہ۔

پھر آپ نے وہ بچہ ایک عورت کے سپرد کر دیا اور اس سے فرمایا تم اس کی دلکشی بھال رکھو اور مجھ سے اس کا خرچ .. لے لیا کرنا اور اس کا خیال رکھنا کہ اس کو تم سے کون لیتا ہے پس جب تو کسی عورت کو اسے چوتھا ہوا اور اپنے سینے سے لگاتا ہوا دیکھے تو مجھے اس کی جگہ کا پتہ دینا۔

چنانچہ بچہ کھلینے کو دنے لگ گیا تو ایک لوندی آئی اور اس عورت کو کہا میری مالکن

نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم یہ بچہ بھیج دو اور وہ دلکھ کر تمہیں واپس کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ بہت اچھا اس کو لے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی چنانچہ وہ بچہ کو لے کر چلی اور یہ عورت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی حتیٰ کہ اس کی مالکن کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو اٹھا کر چوما اور اپنے سینے سے لگایا یہ ایک انصاری صحابی کی بیٹی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اس کی خبر حضرت عمرؓ کو دی اور حضرت عمرؓ نے تلوار اٹھائی اور اس کے گھر کو روانہ ہوئے تو اس کے والد کو دیکھا جو اپنے گھر کے دروازہ کی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اے فلاں کے باپ تمہاری فلاں بیٹی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزاۓ خیر عطا کرے وہ تو دوسرے لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے باپ کے حق کو خوب پہچانتی ہے اور اس کے ساتھ وہ دین کی پابندی کے ساتھ نماز روزہ کو بھی عمدہ سلیقہ سے ادا کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر اس کو نیکی کی خوب ترغیب دوں۔ اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزاۓ خیر عطا کرے آپ میرے واپس آنے تک اپنی جگہ پر بھریں۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی اجازت طلب کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو ان کے پاس جتنے لوگ تھے ان سب کو چلنے کا فرمایا وہ سب چلنے گئے اب صرف حضرت عمرؓ اور وہ لڑکی اس کمرہ میں رہ گئے ان کے پاس اور کوئی شخص نہیں تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سوتی اور فرمایا مجھ بجتا دو ورنہ عمر جھوٹ سننے کا عادی نہیں۔ تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین! آہستہ اور اپنے وقار کو قائم رکھیں، اللہ کی قسم! میں مجھ کہوں گی۔

ایک بڑھیا میرے پاس آیا کرتی تھی میں نے اس کو ماں بنارکھا تھا۔ اور وہ میرے کام کر دیا کرتی تھی جو میری والدہ کرتی تھی اور اس طرح سے بیٹی بی بی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس طرح سے کافی عرصہ تک رہتی رہی۔ پھر اس نے کہا اے بیٹی مجھے ایک سفر پر جاتا ہے اور ایک جگہ پر میری ایک بیٹی ہے میں اس کے بارہ میں فکر مند

ہوں وہ کہیں شائع نہ ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے سفر سے واپسی تک اس کو تمہارے پاس اس کو تپھوڑ جاؤں۔ اس کا ارادہ اپنے بیٹے کا تھا جو جوان تھا مگر اس کی داڑھی مونپچھہ نہیں آئی تھی۔ اس کی شفل لڑکی جیسی تھی۔ جب وہ اس کو میرے پاس لائی تو مجھے یقین ہو یا کہ یہ لڑکی ہی ہے اور اس نے میرا وہ جسم کا حصہ بھی دیکھا جس کو ایک عورت دوسرا بی عورت سے دیکھے سکتی ہے حتیٰ کہ اس نے ایک دن مجھے بے فکر پایا جب کہ اس وقت میں سوتی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ میرے اوپر تھا اور مجھ سے مل چکا تھا۔ تو میں نے اپنا ہاتھ چھپری کی طرف بڑھایا جو کہ میرے پہلو میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں نے اس کے بارہ میں حکم دیا تو اس کو وہاں پر ڈالا یا جہاں پر آپ نے دیکھا پھر مجھے یہ بچہ ہوا جب یہ پیدا ہوا میں نے اس کو بھی اس کے باپ کی جگہ پر بچپنک دیا اپس یہ واقعہ بے اللہ کی قسم جو میں نے آپ کو بتانا یا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے حق کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں برکت عطا، فرمائے پھر اس کو وصیت اور نصیحت فرمائی اور اس کے لئے دعا کی اور اس کے والد سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تمہاری بیٹی میں برکت عطا کرے۔ تمہاری بیٹی بہت نیک ہے۔ تو بوڑھے نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھے اور تمہاری رعایا کی طرف سے تمہیں جزاً خیر عطا کرے۔

حکایت نصرت:

ڈنڈا مار کر بھیجا نکال دیا

ایک شخص کسی عورت کو چاہتا تھا جب وہ اس کے پاس گیا تو عورت نے اس سے پہلے دروازہ بند کر دیا تو اس شخص نے اپنا سرد بیٹر سے اندر داخل کر لیا تو عورت نے ایک پھر یا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر کو اسما را کہ بھیجا نکال دیا۔ جب اس واقعہ کو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے خون کو معاف کر دیا تاہے۔

حکایت نصر:

بہادر شہسوار

عبدل کہتا ہے کہ میں دنی کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا جس میں اس نے رومی کتے سے جنگ کی تھی۔ جب دونوں اشکر آئے سامنے کھڑے ہوئے تو رومیوں کا ایک سور ما سامنے آیا اور سات مسلمان مدمقابل بہادروں کو خاک و خون میں ڈھیر کر دیا۔ پھر اپنا نیزہ گھسیتہ ہوئے اور مدمقابل کا مطالبہ کرنے لگا تو اس کے سامنے اور کوئی نہ نکلا۔ جب ہماری یہ طویل حالت ہو گئی اور ہم نے شکست کا خوف کھایا تو ایک روشن چہرے والا نوجوان نکلا جس کا جمال خوب چمک دمک رہا تھا اس کی پشت کی جانب دو مینڈ ہیاں تھیں۔ اس نے اس سور ما کو مقابلہ کے لئے بلا کر چیر پھاڑ دالا۔ پھر اس نوجوان کے مقابلہ میں رومیوں کے دس سورے نکلے تو اس نے ان کا بھی وہی حشر کیا تو رومی شکست کھا کر بھاگ گئے اور اس دن مسلمانوں کے ہاتھوں سات ہزار کافر قتل ہوئے پھر لوگ مال غنیمت کی طرف لوٹ گئے مگر وہ نوجوان رابیہ کی طرف چڑھ گیا اور پھر اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کی باغ ہاتھ میں لی اور اس کے آنسو بارش کی طرح زمین پر گرنے لگے۔

عبدل کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور اس سے پوچھا اے میئے! اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے اسلام اور مسلمانوں پر سے اس عذاب کو دفع کیا، کیا تم کچھ مال غنیمت نہیں لو گے؟ اور تمہاری روئے میں یہ حالت کیوں ہو رہی ہے تم مجھے اپنا واقعہ بتاؤ۔ تو اس نے کچھ دیراپنا سر جھکالیا پھر یہ شعر کہے۔

انسفی امری رشاد

بین غزو و جہاد

بسنی یغزو عذابی

واله وی یغزو فوادی

(ترجمہ)

- (۱) میں اپنے معاملہ میں کامیاب ہوں جنگ میں بھی اور جہاد میں بھی۔
- (۲) میرا بدن دشمن سے جنگ کرتا ہے اور عشق و محبت میرے دل سے۔ پھر وہ چلا گیا نہ تو میں اس کا نام جانتا ہوں نہ اس کا نسب۔

(فائدہ) اس جوان کے ایک قصہ میں اس طرح سے ہے کہ یہ میدان جنگ میں آیا تو اس نے یہی ظاہر کیا کہ میں عشق و محبت سے بھاگا ہوا ہوں (اور خدا کی راہ میں شہید ہونے آیا ہوں) چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والا یہی نوجوان تھا۔ (منہ ولکن باختصار من المتر جم)

حکایت نصرت:

عزت کی حفاظت میں خاتون کی جرات

محمد بن زیاد اعرابی ذکر کرتے ہیں کہ عرب کا ایک شخص قبیلہ بابلہ کی عورت کا مہمان ہوا۔ اس عورت کا خاوند اس کے پاس نہیں تھا اس لئے اس نے خود اس کا بستر بنایا اور خاطر تواضع کی۔ جب اس مرد نے اس عورت کے پاس اور قریب قریب کسی کونہ دیکھا تو اس سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ اس سے ڈر گئی اور اس سے کہا تم کچھ دیر تھبڑو میں تمہارے لئے بستر نہیں کر دوں پھر اس نے جلدی سے جا کر ایک چھری اٹھائی اور اس کو چھپا دیا پھر جب سامنے آئی اور مرد نے اس کو دیکھا تو اچھل کر اس کی طرف پہنچا اور عورت نے وہ چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی لیکن جب اس کا خون دیکھا تو غش کھا کر گئی اور وہ جوان بھی مردہ ہو کر گر گیا جب اس کے گھروالوں میں سے کوئی آیا تو عورت کو اس حالت میں دیکھا تو انہا کر بخدا دیحتی کہ اس کو افاقہ ہو گیا۔

حکایت نصیر

ایسی غیرت مند خواتین بہت ہوئی چاہیں

شیخ ابو عباد کہتا ہے کہ میں اس خادم سے ملا ہوں جو حجاج (خالم) کے سر کے پاس کھڑا ہوتا تھا میں نے اس سے پوچھا تم کوئی ایسی عجیب بات سناؤ جو تم نے حجاج سے دیکھی ہو؟

تو اس نے بیان کیا کہ حجاج کا بھیجا واسط کا گورنر تھا۔ واسط میں ایک عورت تھی کہا جاتا تھا کہ واسط میں اس وقت اس سے زیادہ حسین عورت کوئی نہیں تھی۔ چنانچہ حجاج کے بھتیجے نے اس عورت کو اپنے خادم کے ہاتھوں پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا اگر تم چاہتے ہو تو میرے بھائیوں کو میرے ساتھ شادی کرنے کی بات کرو۔ اس عورت کے چار بھائی تھے لیکن اس گورنر بھتیجے نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے یہ طریقہ منظور نہیں اور اس کو مجبور کیا تو عورت نے بھی اپنی وہی بات دہرا دی اور کہا کہ حرام طریقہ تو ہرگز منظور نہیں۔ لیکن اس نے کہا سوائے حرام کے اور کچھ نہیں پھر اس نے اس کی طرف بدیہی بھیجا جس کو اس عورت نے لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے ہدیہ جمعہ کی شام کو بھیجا تھا چنانچہ اس عورت نے اپنی ماں سے کہا کہ گورنر نے میری طرف یہ پیغام اور ہدیہ بھیجا ہے تو اس نے اس بات کو تسلیم نہ کیا پھر اس کی ماں نے اس کے بھائیوں سے بات کی کہ تمہاری بہن نے ایسا ایسا اگمان کر رکھا ہے تو انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہ کیا بلکہ اس کو جھٹلایا دیا تو عورت نے کہا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس رات کو میرے پاس آئے گا تم دیکھ لینا۔ چنانچہ اس کے بھائی اس عورت کے گھر کے سامنے والے گھر میں بیٹھ گئے بہن کے گھر میں چراغ بھی تھا جس سے وہ اس کے پاس آنے والے شخص کو دیکھ سکتے تھے۔ اس عورت کی ایک لوڈی تھی جو گھر کے دروازہ پر بیٹھ گئی جب وہ آیا اور اپنی سواری سے اترات تو اپنے غلام سے کہا جب اندر ہیرے میں مودن اذان دے اس وقت میرے پاس سواری لے کر آ جانا

پھر وہ اندر چلا گیا اور لوئڈی اس کے سامنے چلتی گئی اور کہتی گئی کہ تشریف لائیے تو وہ اندر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ عورت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی یہ بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گیا پھر اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کہا یہ مالِ مثول کب تک؟ تو عورت نے جواب دیا اے بد کار! اپنا ہاتھ دفع کر دو۔ اتنے میں اس کے بھائی تلواریں لے کر آگئے انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کئے پھر ایک چھڑے میں باندھ کر واسطہ شہر کی ایک گلی میں پھینک دیا پھر غلام سواری لے کر آیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب اس کو صحیح ہونے کا خوف ہوا اور سواری کے پہچانے جانے کا خوف ہوا تو واپس ہو گیا۔

جب صحیح ہوئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی تھا تو اس کی لاش کو جاج کے سامنے پیش کیا گیا اور اس گلی والوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جاج نے پوچھا مجھے اس کا واقعہ بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے بس اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اس کو وہاں پڑا پایا ہے۔ تو جاج سمجھ گیا اور کہا جو شخص اس کا خادم تھا اس کو پیش کرو تو اس خصی کو پیش کیا گیا جو اس کا خادم بن کر آیا تھا لوگوں نے کہا یہ شخص اس کا رازدان ہے جاج نے اس سے کہا مجھے اس کا حال اور قصہ سچ سچ بتاؤ۔ تو اس نے انکار کیا۔ جاج نے کہا اگر تم سچ بولو گے میں تمہاری گردان نہیں اڑاؤں گا اور اگر جھوٹ بولو گے تو میں تمہاری گردان اڑاؤں گا اور ایسی ایسی عبرتناک سزادوں گا۔

تو اس غلام نے سارا واقعہ پوری طرح سے بیان کر دیا تو جاج نے عورت کو اس کی ماں کو اور اس کے سب بھائیوں کو بلا نے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان سب کو پیش کیا تو جاج نے اس عورت کو الگ کر کے پوچھا تو اس نے بھی دیساہی بتایا جس طرح سے اس خصی غلام نے بتایا تھا۔ پھر اس کو الگ کھڑا کیا اور اس کے بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی بتایا اور کہا جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ہم نے کیا ہے تو ان سب کو آزاد کر دیا اور اس مقتول کے غلام، جانور اور مال کا عورت کو مالک بنادیا۔ تو عورت نے کہا میرے پاس اس کا بد یہ بھی ہے جاج نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں

برکت دے اور تیرے جیسی خواتین اور زیادہ کرے یہ سب تیرا ہے اور جو کچھ اس نے
ترکہ چھوڑا وہ بھی تیرا ہے پھر حاجج نے کہا ایسا شخص فن کرنے کے قابل نہیں تھے
کوکتوں کے آگے پھینک دو پھر اس خصی غلام کو بلا یا اور کہا کہ چونکہ میں تمہیں پڑا
ہوں کہ تیری رُدن نہیں اڑاؤں گا اس لئے تجھے درمیانہ درجہ کے کوڑے لگاؤں گا۔

حکایت نمبر ۴:

غیرت مند خاوند

مجھے ابن رشادہ طبیب نے سنایا کہ واسطہ کے شہر میں ایک عیسائی ڈاکٹر رہتا تھا
جو جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی عورتیں اس کے عشق کا دم بھرتی تھیں۔ یہ ایک مرتبہ
ایک کرداری کی بیوی کی خون کی رگ کھولنے آیا۔ جب عورت نے اپنی کلامی کھولی تو وہ
اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا پھر وہ لذت لینے کی خاطر اس کو سہلانے لگ گیا
جس کو عورت نے محسوس کر لیا پھر اس عورت سے کہا آج رگ نہیں کھل رہی تم اس کو
کل تک موخر کھو پھرو وہ چلا گیا جب عورت کا خاوند آیا اس نے اس کو سارا واقعہ بھے
سنایا تو وہ باہر گیا اور اس ڈاکٹر کو بلوایا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس خاوند نے کہا
آپ میرے ساتھ چلیں ایک (اور) مریض کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک ششی
میں سوار ہوئے اور وہ اس کو واڈیوں میں لے گیا اور تلوار کے ساتھ انکوڑے ٹکڑے
کر دیا۔

باب 47

عشق کے مقتول

حکایت نصراء

عشق خاتوان کا دماغ درست کرنے والا عابد

حضرت احمد بن سعید عابد کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوفہ میں ایک جوان عبادت گزار تھا ہر وقت مسجد میں ملتا تھا اس سے باہر نہیں نکلتا تھا شکل و صورت اور قد کا نہ ہے میں خوابصورت اور نیک سیرت تھا۔ ایک مرتبہ اس کو ایک حسینہ اور قیمند عورت نے دیکھ لیا اور اس کے عشق کا دم بھرنے لگی اور ایک مدت تک وہ اس راست میں رہی ایک دن وہ اس نوجوان عابد کے راستہ پر کھڑی ہو گئی اس کا مقصد تماشہ میں (اس کے گھر کی طرف جانے سے) اس کا گھر دیکھ لیں گی۔ اس نے ہمارے جوان! میری چند باتیں سن لو جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں پھر جو چاہو کرو لیں وہ جوان چلا گیا اور اس سے بات تک نہ کل۔ پھر دوسری دفعہ وہ اس کے راستہ پر جا کھڑی ہوئی کہ اس کا گھر دیکھوں گی۔ اس نے پھر کہا اے جوان! میری بات سن میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں تو اس نے کچھ دیر سر جھکایا اور اس سے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے (لوگ سر عالم مجھے تمہارے ساتھ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے) میں محل تہمت بننے سے گھبراتا ہوں کورت نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے حال سے خوب واقف ہوں میں ویسے ہی اس جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی اللہ کی پناہ ہو کہ اللہ کے نیک بندے میرے جیسی عورتوں کی طرف نگاہ انھا میں اللہ کی قسم! مجھے تمہاری ملاقات پر میرے نفس کے

سو اکسی شے نے مجبور نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں اتنا معمولی۔ اعلق بھی لوگون۔ نزدیک بہت برا ہے۔ تم یک لوگ آئینہ کی مثل ہو جن وادیٰ ہی غلطی عیب لکھ دیت ہے میں جو کچھ تم سے کہنا چاہتی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے جسم سے تمام حصہ تیری طرف مشغول ہیں لیکن اللہ میں کہاں اور آپ کہاں۔

لیکن وہ جوان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور نماز پڑھنے کا رادہ یا مدرسہ میں نہ آیا کہ کیسے نماز پڑھے۔ چنانچہ اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پر ایک خط لکھا۔ پھر اپنے گھر سے نکلا تو وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی تھی اس نے اس کی طرف خط پھینیا اور اپنے گھر لوٹ آیا خط میں یہ لکھا ہوا تھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے عورت جان لو! جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ بردباری کرتا ہے۔ پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ کو اوڑھنا پچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس کی ناراضگی کو سب آسمان، زمین، پہاڑ، درخت اور جانور بھی نہیں برداشت کر سکتے پھر اور کس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو برداشت کرے۔

پس اگر تو نے جو کچھ بیان کیا ہے باطل ہے تو میں تمہیں وہ دن یاد دلاتا ہوں جس میں آسمان پکھل جائے گا۔ پہاڑ روئی کی طرح دھن جائیں گے اور سب مخلوقات اللہ جبار عظیم کے غلبہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اللہ کی قسم! میں اپنے نفس کی اصلاح میں کمزور واقع ہوا ہوں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں۔

اور اگر تو نے جو کچھ بیان کیا ہے درست ہے تو میں تمہیں ایسے ڈاٹر کا پڑا دیتا ہوں جو یہاں کن زخموں کے اور توڑ دینے والے دردوں کے لئے زیادہ ایق ہے اور یہ

بِ الْعَالَمِينَ كَيْ ذَاتَ أَغْرَامِيْ بَهْ تَمْ پَجَیْ طَلَبَ کَ سَاتَھَا سَ کَ سَامَنَتَ حَاضِرِی
نِیْ تَمَّتَ بَهْ تَعْلُقَ ہُوں اللَّهُ تَعَالَیٰ کَ اس فَرْمَانَ کَیْ وجَہَ سَ

وَأَنْذِدْ رُهْمٌ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَیْ الْحَنَاجِرِ
كَلْظِيمِينَ: مَا لِلنَّاطِبِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاءُ ۝ يَعْلَمُ خَالِئَةً إِلَّا عَيْنُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

(ترجمہ) اور آپ ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن (یعنی روز قیامت) سے ڈرایئے جس وقت کیجھ منہ کو آئیں گے، (غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے، (اس روز) ظالموں (یعنی کافروں) کا نہ کوئی دلی دوست ہو گا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے، (اور) وہ (ایسا ہے کہ) آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان (باتوں) کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں (جن کو دوسرا نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے تمام محلے اور اچھے اعمال سے باخبر ہے جن پر سزا یا انعام موقوف ہے)۔ (سورۃ مومکن ۱۸-۱۹)

اس لئے اس آیت سے کہاں بھاگا جا سکتا ہے۔

پھر پسند دنوں لے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اس کے راستہ پر کھڑی ہو۔ اب اس جوان نے اس دور سے دیکھا تو اپنے گھر لوٹ جانے کا ارادہ کیا تا اس نہ دیکھے۔ تو عورت نے کہا اے جوان! تم واپس نہ جاؤ اب اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہو گی سو اے اللہ کے سامنے کی ملاقات کے پھر وہ بہت روئی اور ہبے گئی میں اس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں جس کے ہاتھ میں تیرے دل کے اختیارات ہیں کہ مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا وہ اس کو آسان کر دے پھر وہ عورت اس کے پچھے آئی اور کہا مجھے اپنی طرف سے کچھ نصیحت کر کے احسان کرتے جاؤ۔ مجھے

پچھے نصیحت کرو جس پر میں مثل کرتی رہوں۔

تو جوان نے اس سے کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے نفس کو اپنے سے
محفوظ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد کرو

**وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّلُكُمْ يَا لَيْلٌ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ
بِالنَّهَارِ** (سورہ انعام: ۶۰)

(ترجمہ) اور وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے کہ (اکثر) رات میں
(سوئے کے وقت) تمہاری روح (نفسانی) کو (جس سے
احساس و ادراک متعلق ہے) ایک گون قبض کر لیتا ہے (یعنی
معطل کر دیتا ہے) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو (دواماً)
جانتا ہے۔

تو اس عورت نے سر جھکا لیا اور پہلی دفعہ کے روئے سے بھی زیادہ روئی۔ پھر
جب ہوش میں آئی تو اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی اور عبادت شروع کر دی۔ اس کو جب
کبھی نفس ستاتا تو اس کا خط اٹھاتی اور اپنی آنکھوں پر رکھتی تھی جب اس کو کہا جاتا کہ
تمہیں اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ اس کے سوامیرے لئے کوئی اور علاج
بھی ہے؟

جب رات ہوتی تو یہ اپنے محراب میں (عبادت کے لئے) کھڑی ہو جاتی
اور اس کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ اسی صدمہ کو ساتھ لے کر فوت ہو گئی۔

پھر یہ جوان اس عورت کو یاد کر کے اس پر رویا کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا
جاتا کہ تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم نے خود ہی تو اس کو ما یوس کیا تھا؟ تو وہ کہتا میں نے
اپنی طمع کو پہلی مرتبہ ہی سے ذبح کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا (صبر کرنے
کی وجہ سے) ذخیرہ کر لیا تھا پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آ جاتی تھی کہ جو میں نے اس
کے پاس ذخیرہ کر کے رکھا تھا اس کو واپس لے لوں۔

حکایت نمبر ۲:

عشق کا ستمان اس ہو

ابو عبد اللہ، جب شانی صغرا، عملاً قیہ سے عشق کرتا تھا حالانکہ یہ رنگ کی کالی کلوٹی تھی لیکن اس کی محبت میں یہ بیمار پڑ گیا جب مرنے کے قریب ہوا تو اس کے گھروالوں میں سے کسی نے اس عورت کے مالک کو کہا اگر تم اپنی اونڈی صغرا، کو ابو عبد اللہ جب شانی کے پاس بھیج دو تو شاید اس کے ہوش و حواس درست ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے صغرا، کو بھیج دیا جب یہ اس کے سامنے آئی اور پوچھا اے ابو عبد اللہ کیسے ہو؟ اس نے کہا جب تک تم سامنے رہو تو نھیک ہوں۔

صغراء نے پوچھا تمہیں کس شے کی طلب ہے؟
اس نے کہا تیرے قرب کی۔

صغراء نے کہا تمہیں کیا مرض ہے؟
کہا تیرے عشق کی۔

کہا تم کوئی وصیت کرو گے؟

اس نے کہا باں اگر وہ مان لیں تو میں تمہیں چاہتا ہوں۔

صغراء نے کہا اب میں واپس جانا چاہتی ہوں؟ تو اس نے کہا تو پھر جلدی سے میری نماز جنازہ کا ثواب حاصل۔ لیندا پھر وہ انٹھ بھڑی ہوئی اور جب اس نے اس کو منہ پھیسر کر جاتے دیکھا تو ایک درد بھرا سانس لیا اور اسی وقت مر گیا۔

حکایت نمبر ۳:

عشق اور خدا کا خوف

ابراهیم بن عثمان عذری کہتے ہیں (کہ میں نے کوفہ میں) عمر بن میسرہ کو دیکھا جس نے دیوانوں کی شکل بنارکھی تھی اور ایسے نظر آتا تھا جیسے اس کو درس سے رنگ دیا

گیا ہو یہ نہ تو کسی سے بات کرتا تھا نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ لوگ اس کو عاشق سمجھتے تھے اور اس کا واقعہ پوچھتے تھے اور وہ یہ شعر کہہ دیتا تھا۔

یسائلنی ذو اللب عن طول علتنی
وما انا بالمبتدی لذا الناس علتنی

ساکتمها صبرا على حر جمرها
واکتمها اذ كان في السر راحتی

اذا كنت قد ابصرت موضع علتنی
وكان دوائی في مواضع لذتی

صبرت على دائی احتساباً ورغبة
ولم اک احد ثبات اهلى و خلتی

(ترجمہ)

(۱) مجھ سے عقلمند میری طویل بیماری کا پوچھتے ہیں حالانکہ میں لوگوں کے سامنے اپنی بیماری کو ظاہر کرنے والا نہیں ہوں۔

(۲) میں اس کو آگ کے انگارے کی گرمی پر بھی صبر کر کے چھپاؤں گا اور اس کو اس لئے بھی چھپاؤں گا کیوں کہ چھپانے میں ہی راحت ہے۔

(۳) جب مجھے اپنی بیماری کے مقام کا پتہ ہے تو (یہ بھی معلوم ہے کہ) میرا اعلان میرے لذت کے مقامات ہیں۔

(۴) میں اپنی مرض پر صبر کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور اس کے پاس اس کا جوانعام ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے، اور میں اپنے گھروالوں اور دوستوں کے با吞وں میں تماشہ نہیں بننا چاہتا۔

چنانچہ اس نے اپنا معاملہ کسی کے سامنے ظاہرنہ کیا اور نہ کوئی اس کے قصہ سے

واقف ہوا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا مجھے جو مرض تھی وہ میری چچا کی فلاں بیٹی کی وجہ سے تھی اللہ کی قسم مجھے کسی بات نے نہیں روکا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے اگر اب بھی مجھ پر موت طاری نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ بھی نہ بتاتا تم اس کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔

حکایت نصیر:

اگر مرنا ہی ہے تو خاوند کی محبت میں مرو

ایک شخص ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو ایک قبر پر گرے پڑے دیکھا جو یہ شعر کہہ رہی تھی ۔

فیا قبر لَوْ شفعتنِی فِيهِ مَرَةٌ
فَاخْرَجْتَهُ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَاللَّحدُ

فَكُنْتَ ارِی هَلْ غَيْرَ التَّرْبَ وَجْهَهُ
وَهَلْ عَاثَ دُودُ اللَّحدِ فِي ذَلِكَ الْخَدُ

(ترجمہ)

(۱) اے قبر اگر تو میرے (خاوند کے) بارہ میں میری سفارش قبول کرے اور اس کو قبر اور اللحد کے اندر ہیرے سے باہر نکال دے۔

(۲) تاکہ میں دیکھ لوں کیا مٹی نے اس کے چہرہ کو بگاڑ تو نہیں ڈالا اور کیا قبر کے کیڑے اس کے رخساروں میں تو نہیں مچل رہے؟
میں نے اس سے پوچھا یہ قبر والا تمہارا کیا لگتا ہے؟

کہا میرے چچا کا بیٹا ہے اس نے مجھ سے شادی کی تھی وہ مجھ سے سیراب نہیں ہوتا تھا اور میں اس سے حتیٰ کہ پچھلے سال میں ہماری قبیلہ سلیم سے جنگ ہوئی اور

ہمارے قبیلہ میں اس وقت میرے اور میرے اس خاوند کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا چنانچہ یہ دفاع کے لئے انکا اور لڑتے لڑتے قتل ہو گیا۔

میں نے پوچھا اس کی عمر کیا تھی؟ اس نے کہا میں اس سے بڑی ہوں میری عمر انیس سال ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اس گھری سے زیادہ دنیا کی راحت نہیں دیکھی تو میں نے اس کی اس بات کو مذاقِ صحابا۔ لیکن جب میں صبح کو اٹھا تو میں نے ایک جنازہ دیکھا اور اس کے بارہ میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارہ میں تم نے کل اس کے خاوند کے بارہ میں بات کی تھی اللہ کی قسم یہ اپنے خاوند کے پیچھے فوت ہوئی ہے اور اپنی محبت کو سچا ثابت کر کے دکھایا ہے۔

حکایت نمبر ۱۰:

اے عاشقو اس لڑکی سے سبق سیکھو

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے محلہ طائف میں ایک عبادت گزار صاحبِ سخاوت اور تقویٰ والی لڑکی رہتی تھی۔ اور اس کی ماں اس سے بھی زیادہ نیک تھی اور عبادت میں بہت مشہور تھی۔ یہ دونوں لوگوں سے میل جوں کم رکھتی تھیں۔ ان کا طائف کے ایک شخص کے پاس تجارت کا سامان تھا جو ان کے لئے تجارت کرتا تھا اور جو نفع ہوتا اس کو ان عورتوں کے پاس لے جاتا تھا۔

ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو ان کے کسی کام کے لئے ان کے پاس روانہ کر دیا یہ لڑکا خوبصورت بھی تھا اور خود کو صاف سترہ کر کے رکھتا تھا اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس لڑکی کی ماں نے پوچھا کون ہے؟

اس نے کہا میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں۔

اس نے کہا اندر آ جاتو وہ اندر چلا گیا۔

اس کی بیٹی بھی اس کمرہ میں موجود تھی اس کو لڑکے کے آنے کا علم نہ ہوا جب وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا تو اس کی بیٹی بھی آگئی اس نے یہی سمجھا تھا کہ یہ ان کی کوئی

عورت ہے (کیونکہ اس کی داڑھی موچھ بھی نہیں آئی تھی اور مردوں میں بال رکھنے کا روایج بھی عام تھا) حتیٰ کہ اس لڑکے کے سامنے بیٹھ گئی جب اس نے لڑکے کو دیکھا تو فوراً اٹھ گئی لیکن اتنے میں لڑکے نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی تمام عرب میں زیادہ حسین ہے چنانچہ اس کے دل میں لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ وہاں سے نکل گیا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ کہہ رجاء۔ پھر اس نے پکھنا شروع کر دیا اور تہائی پسند ہو گیا اور اتنا فکر میں ڈوبا کہ بے ہوش ہو کر اپنے بستر پر گر گیا اس کے باپ نے ڈاکٹر بلوانے اور ہر ایک اس کی دوا تجویز کرنے لگا جب اس کی بیماری نے طول پکڑا تو اس کے باپ نے قبیلہ کے لڑکے بلوانے اور وہ لوگ بھی جن سے لڑکے کو انس تھا اور ان سے کہا تم اس سے علیحدگی میں پوچھو اس کو کیا مرض ہے؟ شاید کہ یہ تم لوگوں کو اپنی مرض کا بتا دے چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو میں جانتا ہوں اور تم کو بیان کروں تم تھوڑی باتیں کرو یہ لڑکا سمجھدار تھا جب اس کی دھڑکن تیز ہوئی تو اس نے اپنے گھر کی ایک عورت کو بلا یا اور کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتائی اب چونکہ مجھے زندگی سے نا امیدی ہو چلی ہے اس نے تمہیں بتاتا ہوں وہ بھی اس شرط پر کہ اگر تم اس کو چھپانے کی مجھے ضمانت دو تو ورنہ میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملہ میں فیصلہ کر دے اللہ کی قسم میں نے تم سے پہلے کسی کو نہیں بتائی اگر تم یہ ضمانت دو کہ اپنے بعد کسی کو نہیں بتاؤ گی یہ بلا جو مجھ پر نازل ہوئی ہے یقیناً مجھے مار ڈالے گی مجھ پر لازم ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی عزت پر حرف نہ آنے دوں اور اس کے معاملہ میں لوگوں کے بہت طعن و شنیع کرنے سے ذرتا ہوں وہ کہاں اور میں کہاں تو اس راز کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا۔

اس عورت نے کہا اے میرے بچے کہو اللہ کی قسم! میں جب تک زندہ رہوں گی تیرے صدمہ کو چھپا کر رکھوں گی تو اس نے کہا میرا قصہ ایسا ایسا ہے اس نے کہا اے بیٹے تم نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا؟ لڑکے نے کہا میرا کون ہے؟ اس کو حاصل کرنے

کا کیا طریقہ ہے؟ تم تو اس لڑکی کی حالت اور بہت زیادہ عبادت کو خوب جانتی ہو عورت نے کہا اے بیٹی! یہ میرے ذمہ میں تمہارے پاس ایسی خبر لا دل گی جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔

پھر اس عورت نے اپنے (تھے) کپڑے پہننے اور لڑکی کے گھر میں آئی اور اندر جا کر اس کی ماں کو سلام کیا اور فوراً وہ حادثہ کہہ سنایا تو اس کی ماں نے اس لڑکے کا حال اور اس کے اضطراب کا پوچھا تو عورت نے لہا اللہ کی قسم میں نے دکھ درد دیکھے ہیں مگر اس کے درد چمیسا درد کسی میں نہیں دیکھا اور مزید یہ کہ اس کا درد بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ لڑکا اس حال میں صبر کر رہا ہے کسی سے شکوہ نہیں کرتا۔

لڑکی کی ماں نے پوچھا تم نے اس کے لئے ڈاکٹر نہیں بلوائے عورت نے کہا اللہ کی قسم اس کی مرش کو کونی ڈاکٹر ختم نہیں کر سکے۔ پھر یہ عورت اس سے انھ کر لڑکی کے پاس گئی اس کو سلام کیا اور فوراً ہی اس کو سرا حادثہ جہہ سنایا۔ اس لڑکی تک اس سے پہلے بھی خبر پہنچ چکی تھی اس لڑکی نے تمہارا نام یہ مسئلہ میری وجہ سے لھڑا ہوا۔ چنانچہ اس عورت نے لڑکی سے کہا اے بیٹی! تم نے اپنی جوانی بوسیدہ کر دی اور زندگی کے دن اس حال میں گزار دیئے؟ لڑکی نے ہذا اے بیٹی! تم مجھ پر کو نسا بر احوال دیکھتی ہو؟ عورت نے کہا نہیں بیٹی لیکن تمہاری طرح کی عورت دنیا میں خوش رہنا چاہئے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ چھوٹے اس طرح سے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی نعمتیں تمہارے لئے جمع کر دے۔

لڑکی نے کہا اے بیٹی! کیا یہ دنیا کا گھر باقی رہتے، والا ہے جس پر بدن کے اعضا اتکیے کر دیجیں اور آدھا دے دیا جائے اور دنیا کو بھی اس کا آدھا دے دیا جائے یا یہ دنیا کا گھر فنا ہونے والا ہے؟

عورت نے کہا نہیں بلکہ اے بیٹی یہ فنا کا گھر نے یعنی اللہ نے اس میں اپنے بندوں کے لئے کچھ اوقات ایسے بنائے ہیں جو اس طرف سے اپنی جان پر صدقہ

کرنے کے ہیں تم اس سے کچھ حاصل کر سکتی ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ لڑکی نے کہا تم نے حج کہا لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے نفوس میں اطمینان ہے اور وہ عبادت پر صبر کرنے میں راضی ہو گئے ہیں تاکہ ان کو بہت بڑا مرتبہ نصیب ہو۔ تمہارا اس طرح سے میرے ساتھ بات کرنا اس بات کے درستابے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے جس نے تجھے میرے ساتھ اس نظر سے من سرہ کرنے پر اکسایا ہے اللہ کی قسم میں تو آج سے پہلے تمہیں یہ سمجھتی تھی کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور پاکیزہ اعمال کر کے اللہ کے مقرب بننے میں مزید حرص دلاوگی لیکن میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سمجھا تھا تم اس سے بدل گئی ہوتم مجھے بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟ عورت نے کہا اے بیٹی! فلاں لڑکے کا ایسا ایسا حال ہو گیا ہے۔

لڑکی نے کہا میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا تم اس کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اے بھائی! میں نے اپنے آپ کو ایسے مالک کے ہاں ہبہ کیا ہے جو ان سب سے بڑا ہے جو بڑے بڑے انعام و اکرام کرنے والے ہیں۔ اور وہ اس بندہ کا مددگار ہے جو سب سے کٹ کر اسی کا ہور ہے اور اس کی عبادت کرے اب ہبہ ہو جانے کے بعد واپسی کی کوئی سہیل نہیں ہے اب تم محبت کے ساتھ اپنے اللہ کا وسیلہ پکڑو اور جتنے گناہ کر کے اپنے لئے آگے روانہ کر چکے ہو ان کی معافی کے لئے اللہ کے سامنے عاجزی اور زاری کرو اس نیکی کے بدلہ میں جو تم نے اللہ کے حضور پیش نہیں کی یہ پہلا موقعہ ہے جو تجھ پر اللہ سے سوال کرنا لازمی ہے اور میرے سامنے بھی یہ پہلا موقعہ ہے کہ میں تجھے نصیحت کروں۔ جب تو نے اللہ کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کم کرے گا اور دلوں کی شہوات اور سینوں کے خیالات سے تجھے آزادی نصیب ہو گی کیونکہ اس انسان کو زیب نہیں دیتا جو اپنے خدا کا نافرمان ہو اور گناہوں اور معافی مانگنے کو بھول جائے اور دنیاوی خواہشات پوری ہونے کی دعا کرنے لگے۔

اے بھائی! خود کو گناہوں کی کھائیوں سے بچا، اور تو اللہ کے فضل سے مانع نہیں

ہو سکتا اگر وہ تجھے صرف اپنا بنے والا دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے اور مجھے ملا دے لیکن میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے اس کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سمجھ لے آئندہ مجھ سے اس بارہ میں گفتگو نہ کرنا میں تمہیں جواب نہیں دوں گی والسلام۔

اب وہ عورت انھ کھڑی ہوئی اور جا کر کے اس جوان کو سارا جواب سنا دیا تو لڑکا بہت رویا تو عورت نے کہا اللہ کی قسم! اے بیٹے! میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ رہتا ہواں عورت کی طرح۔ اب تم وہی کرو جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کی قسم اس نے نصیحت کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تم خود کو ہلاکت کے کاموں میں مت ڈالو ورنہ اس وقت شرمندگی اٹھاؤ گے جب شرمندگی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اے بیٹے! اگر میں کوئی حیلہ جانتی جس سے تیرا کام بن جاتا تو میں وہ بھی کر گزرتی لیکن میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو بسار کھا ہے۔ اب اس کو دنیا کی زینت کی طرف کون پھیر سکتا ہے اس پر وہ جوان رونے لگ گیا اور کہنے لگا میں وہ کیسے کر سکتا ہوں جس کی اس نے دعوت دیدی ہے۔ اور پتہ نہیں وہ آخرت کا وقت کب آئے گا جب ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے۔

پھر اس کا درود تیز ہو گیا جب اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کچھ آرام اور قرار نہیں تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہوں نے یہی گمان کیا کہ اس کو عشق کا مرض ہے چنانچہ یہ کبھی کبھار آزاد ہو کر گھر سے نکل جاتا اور بچے اس کے ار ڈگر جمع ہو کر کہا کرتے تھے ”عشق سے مر جا، عشق سے مر جا“ تو وہ یہ شعر کہتا تھا۔

افشى اليكم بعض ما قد يهيجنى
ام الصبر اولى بالفتى عند ما يلقى

سلام على من لا اسمى باسمه
ولو صرت مثل الطير فى غيفة ملقي

الا ایہا الصیان لودقتم الھوی
لایقنتم انی محدثکم حقا

احبکم من حبھا و ازاکم
تقولون لی مت یا شجاع بھاعشقا

فلم تصفونی لا ولاھی انصفت
فرفقا رویدا ویحکم بالفتی رفقا

(ترجمہ)

- (۱) کیا میں تمہیں وہ بتا دوں جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے یا صبر کر لوں جو جوان کے لئے ایسے وقت میں بہتر ہے۔
- (۲) اس پر سلام ہو جس کا میں نام نہیں لیتا اگرچہ میں پرندہ کی طرح کسی جنگل میں پھینک دیا جاؤں۔

- (۳) اے بچو! اگر تم عشق کا مزہ چکھ لوتا تم بھی یقین کرلو گے کہ میں بچ کھتا تھا۔
- (۴) میں اس سے محبت کی خاطر تم سے بھی محبت کرتا ہوں حالانکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے (ستانے کیلئے) کہہ رہے ہو کہ اے بہادر! اس کے عشق میں مر جا۔

- (۵) تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا اور نہ اس نے انصاف کیا کچھ تو ترس کھاؤ
بائے تم ہلاک ہو جاؤ مجھ جوان پرختی نہ کرو۔

چنانچہ جب اس کے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ اسے عشق کا مرض ہے تو اس نے اس کا اتفاق پوچھنے لگے لیکن وہ ان کو نہیں بتاتا تھا اور اس بڑھیا نے بھی اس کا قسم چھپا کر رکھا چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑ کر ایک کمرہ میں بند کر دیا اور وہ اسی میں قبیہ ہو کر تھی مر گیا۔

باب 48

خودکشی کرنے والے عاشق

حکایت نصبرا:

پیٹ پھاڑ کر مر گیا

ابو مسکین ذکر کرتے ہیں کہ قبیلہ تمیم کے ایک نوجوان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی یہ اس کو تلاش کرنے کے لئے بنی شیبان کے قبیلہ میں گپا۔ یہ اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی یہ لڑکی حسن و جمال میں سورج کی طرح تھی یہ اسی وقت اس کا عاشق ہو گیا جب یہ اپنی قوم میں واپس لوٹا تو عقل کھو چکا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے قبیلہ میں پہنچ سکے۔ جب رات ہوئی تو اس نے کہا کہ شاید میں اس کو ایک نظر دیکھ کر چین لے سکوں۔ چنانچہ یہ اس لڑکی کے پاس آیا جب کہ یہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بھائی اس کے گرد سوئے ہوئے تھے اس نے لڑکی کو مناسب کر کے کہا اے میری آنکھوں کی شہنڈ ک اللہ کی فتحم! شوق نے میری عقل کو بر باد کر دیا ہے اور زندگی کو بھی تلنخ کر دیا ہے۔ تو لڑکی نے کہا تم ایسی حالت میں واپس ہو جاؤ ورنہ میں اپنے بھائیوں کو جگا دوں گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے لڑکے نے کہا میں جس حالت میں بتلا ہوں اگر اس میں تیرے بھائی مجھے مار دیں تو یہ میرے لئے زیادہ آسان ہے۔

لڑکی نے کہا کیا قتل سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟

لڑکے نے کہا ہم تیری محبت جس میں میں گرفتار ہو چکا ہوں۔

لڑکی نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟

اس نے کہا تم اپنا ہاتھ مجھے پکڑو تو تاکہ میں اس کو اپنے سینے پر رکھ لوں بس اور اس کے ساتھ میں تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد کرتا ہوں کہ واپس چلا جاؤں گا لڑکی نے ایسا کیا اور یہ واپس لوٹ گیا پھر جب اگلی رات آئی تو یہ پھر آیا اور اس لڑکی کو سابقہ حالت پر دیکھا تو لڑکی نے اس سے وہی بات دہرائی تو لڑکے نے کہا تم مجھے اپنے ہونٹ چو سنے دو پھر میں واپس ہو جاؤں گا جب لڑکی نے یہ کیا تو اس کے دل میں آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور یہ ہر رات لڑکے کی طرف متوجہ ہونے لگی جس کو لڑکی کے قبیلہ کے لوگوں نے اور بھائیوں نے برا محسوس کیا اور کہنے لگے اس کتے کو کیا ہو گیا ہے جو اس پہاڑ میں رہتا ہے اور ہمارے پاس آتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک رات اس کو پکڑنے کے لئے بیٹھ گئے تو لڑکی نے اس کو پیغام روانہ کیا کہ لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تم خود کو غفلت سے بچا کے رکھو پھر اس رات خوب بارش ہوئی اور ان دونوں کے درمیان رکاوٹ ہو گئی پھر جب بادل پھٹ گیا اور چاند ظاہر ہو گیا تو لڑکی نے خوشبو لگائی، بال بکھیرے اور خود پسندیدہ نظرؤں سے دیکھ کر خواہش کی میں اس کو اسی حالت میں ملوں۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک ہم جوی سے کہا جو اس کی رازداری اے فلاں تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو۔ چنانچہ یہ دونوں اس کو ملنے کے ارادہ سے نکل کھڑی ہوئیں اس وقت یہ لڑکا تماش کے خوف سے پہاڑ پر چھپا ہوا تھا جب اس نے دو شخصوں کو چاندنی رات میں چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہی سمجھا کہ یہ میرے پکڑنے والوں میں سے ہیں چنانچہ اس نے ایک تیر نکالا اور اپنے والی کاشانہ کر کے سیدھا ٹکا دیا اور وہ خون میں لست پت منہ کے بل گر پڑی (اور عشق کے انجام بدستک پہنچ گئی) اور پھر کچھ کر مر گئی جب اس لڑکے نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ کہا۔

نَعْبُ الْغَرَابَ بِمَا كَرِهَتْ

وَلَا إِذَا لَقِدْرَ

تَكَى وَإِنْتَ قَتْلَتْهَا

فاصبر والا فانتحر

(ترجمہ)

- (۱) جس مصیبت سے ذرتا تھا (اس کے واقع ہونے سے) کو اکامیں کامیں کرنے لگ گیا حالانکہ قضا کا لکھا کوئی نہیں منا سکتا۔
- (۲) اب تو روتا ہے حالانکہ تو نے ہی تو اس کو مارڈا الہ ہے اب یا تو صبر کریا خود بھی مر جا پھر اس نے اپنے تمام تیر جمع کئے اور اپنے پیٹ میں گھسانے لگ گیا حتیٰ کہ خود کو مارڈا الہ

حکایت نصرت:

تو بہ کا انوکھا ڈھنگ

ابو عبد اللہ حسین بن محمد دام غافلی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ فارس کے علاقوں میں ایک بہت بڑا صوفی رہتا تھا وہ کسی لڑکے ٹکی محبت میں بنتا ہو گیا اور اس کا نفس اس کے اختیار میں نہ رہا یہاں تک کہ اس کو گناہ کی دعوت دینے لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی ہمت کرنے پر اس پر شرمندگی نازل فرمائی اس شخص کا گھر کسی اوپنجی جگہ پر تھا جس کی چھپلی سائیڈ میں پانی کا دریا بہتا تھا جب اس کو ندامت نے گھیرا تو یہ اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور وہیں سے خود کو دریا میں پھینک دیا اور یہ آیت پڑھی:

فَتُؤْبُوا إِلَىٰ بَادِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

(ترجمہ) یعنی اپنے رب کے سامنے توبہ کرو اور خود کو قتل کرو

(تب تمہاری توبہ قبول ہو گی)۔ (البقرہ: ۵۳)

(نوٹ) یہ آیت بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے بارہ میں ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد سامری ملعون کے کہنے پر پچھڑے کو خدا مانا اور اس کی عبادت کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس

تشریف لائے تو یہ قوم اس شرک میں بدلنا تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لئے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم خود کو قتل کرو تب تمہارا یہ جرم عظیم معاف ہوگا چنانچہ ان مشرکوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور ان کا یہ شرک گناہ معاف ہوا۔

یاد رہے کہ یہ خود کو قتل کرنے سے توبہ ملنے کا حکم اس امت محمد یہ کے لئے نہیں ہے اب اگر کوئی توبہ کی اس شکل پر عمل کرے گا تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔..... (مترجم)

خودکشی کا عذاب

سورۃ نساء آیت نمبر ۲۹ میں اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

(تم اپنے آپ کو قتل مت کرو)

(حدیث) اور آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من تحسی سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ (بخاری، مسلم)

(ترجمہ) (یعنی) جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو وہ دوزخ کی آگ میں

ہمیشہ ہمیشہ تک زہر کھاتا (اور خودکشی کرتا) رہے گا، اور جس نے خود کو اوابہ کے کسی آلہ بندوق، پستول، تلوار، نیزہ، چہری وغیرہ سے قتل کیا تو اس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس آلہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے خود کو کسی پہاڑ سے گرا یا تو وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ

کے لئے (خود کو) گرا تار ہے گا۔

(نوٹ) یہ خود کشی کرنے والا شخص دوزخ میں ہمیشہ توب سزا پائے گا جب خود کشی کرنے کو حلال جانتا ہو گا کیونکہ خود کشی کو حلال جانتا اور پر کی آیت کا انکار ہے جو کہ کفر ہے اور کفر کی سزا ہمیشہ کی دوزخ ہے اور جو خود کشی کو حلال نہیں سمجھتا اور خود کشی کرتا ہے اس کو بھی دوزخ میں کافی مدت تک سزا ملتی رہے گی کیونکہ یہ زندگی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کو اپنے اختیار سے ختم کرنا حرام ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں آپ ملاحظہ فرمائے ہیں لہذا جو لڑ کے لڑکیاں اس زمانہ میں عشق وغیرہ کی وجہ سے خود کشی کر لیتی ہیں وہ اپنے آخرت کے انعام سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ (متترجم)

خود کشی کا ایک واقعہ

(حدیث) حضرت جندب بن عبد اللہ بھلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کان فیمن قبلکم رجل به جرح فجزع فاخذ سکینا فحز بھایدہ،
فمار قالدم حتی مات فقال اللہ تعالیٰ بادرنی عبدي بنفسه حرمت
علیه الجنتہ۔ (بخاری، مسلم)

(ترجمہ) تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک آدمی کو زخم ہو گیا تھا اس نے اس سے گھبرا کر چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے خون نہ رکا اور یہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے نے اپنے متعلق بہت جلدی کی ہے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔

(نوٹ) قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ خود کشی کتنا بڑا جرم ہے جو لوگ عشق کی ناکامی میں یا کسی کی محبت میں جان دیتے اور خود کشی کرتے ہیں وہ اس بھی انک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ (متترجم)

باب 49

عشق کا علاج

کوتا، ہی نمبرا - اور علاج

ایک خطرناک کوتا ہی جو نفس کو خطرناک حالت تک پہنچا دیتی ہے اجنبی عورتوں سے گفتگو کرنا اران کے ساتھ تہائی میں بیٹھنا ہے عرب کے بہت سے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اس کو عار نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کے باوجود خود پر زنا سے محفوظ رہنے کا اعتماد کرتے تھے یہ صرف ان کو دیکھنے اور بات چیت کرنے پر کفایت کرتے تھے حالانکہ یہ چیز اندر ہی اندر میں کام کرتی ہے جبکہ یہ غافل ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیلی کے ساتھ مجذوب کا بھی یہی قصہ ہوا تھا حتیٰ کہ یہ جنون اور ہلاکت میں جا گرا۔

ان لوگوں کی غلطی دو وجہ سے ہے

۱۔ شریعت کی مخالفت جس نے دیکھنے اور ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔

۲۔ اپنی فطرت کو اس کام کے سامنے پیش کیا جس کی طرف وہ میلان رکھتی ہے پھر اس پر اپنا ذاتی روحان مزید ہے۔ بہر حال طبیعت اور فطرت غالب آ کر رہتی ہے ورنہ کم از کم انسان گناہوں میں تو بتلا ہو ہی جاتا ہے اور اگر یہ اپنی خواہش کو دبادے تو پیاسے کو پانی پینے سے روک کر ضائع کرنے کے متادف ہے۔

چنانچہ اس عشق کے مرض کا ابتدائی علاج اس کے انتہائی علاج کی طرح نہیں ہے اس مرض میں علاج اس مرض کا کیا جاتا ہے جو عشق کی آخری حد کو نہ پہنچا ہو۔

کیونکہ عاشق جب آخری حد تک پہنچتا ہے تو جنون اور ذہول پیدا ہو جاتا ہے۔

کوتاہی نمبر ۲ - اور علاج

عشق کی ابتداء عام طور پر محاسن اور خوبصورتیوں کے دیکھنے سے ہوتی ہے اور اس طرح کا دیکھنا عشق ہو جانے کی علامت ہے وہ اس طرح سے کہ جب نگاہ کسی حسین کی طرف پڑتی ہے تو دل اس کی طرف زبردستی سے مائل ہونا چاہتا ہے اگر انسان اپنی نگاہ کو پھیرے تو دل بے چین ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ دیکھنا شروع کر دے بس یہی عشق ہونے کی علامت ہے جو کبھی بے خطاء نہیں ہوتی۔ حالانکہ بہت سی خواتین نقاب میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں لیکن جب پرداہ ہٹا دیں تو ویسی نہیں ہوتیں۔

حکایت

بصرہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور اس کی بیوی اپنا مقدمہ لے کر کے عراق کے ایک گورنر کے پاس گئے یہ عورت نقاب میں خوبصورت تھی اور کھلے چہرہ میں بد صورت لیکن بولتی بہت اچھے انداز سے تھی چنانچہ جب افسر اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا اور مرد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے ہر انسان ایک عظیم المرتبہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے پھر اس سے بدسلوکی کرتا ہے۔ تو وہ آدمی آگے بڑھا اور اس کے چہرہ سے نقاب الٹ دیا (تو جب عامل نے اس کا چہرہ دیکھا تو (عورت سے) کہا تم پر خدا کی لعنت ہو مظلوم کلام بولتی ہو حالانکہ تمہارا چہرہ ظالموں والا ہے۔

کوتاہی نمبر ۳ - اور اس کا علاج

اور اگر خوب غور اور بار بار کی سے دیکھا جائے تو اس طرح کے بار بار کے دیکھنے سے مرض برداشتا ہے اور اسی سے مضبوط درجہ کا عشق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایسے شخص پر لازم ہے جب وہ کسی خوبصورت کو دیکھنے اور اپنے دل میں اس نظر کی لذت پائے تو اپنی نگاہ کو پھیر لے اور اگر یہ نظر پختہ ہو گئی یا بار بار دیکھا تو یہ شخص شریعت اور عقل دونوں کے اعتبار سے قابل ملامت ہو جائے گا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر پہلی نظر میں ہی عشق ہو جائے تو دیکھنے والے پر ملامت ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب ایک لمحہ میں دیکھا تو اتنے وقت میں عشق نہیں ہو جاتا عشق تو جب ہوتا ہے جب دیکھنے جانے والے کو نظر نکال دیکھتا ہے اور یہ منوع ہے (محض نظر پڑ جانا بے اختیار کام ہے جس پر گناہ نہیں)۔

اس کا علاج یہ ہے کہ انسان نظر کو جھکا کر رکھے اور بری نگاہ سے بچے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھائے ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب جلدی سے یادی سے آگھیرے، نیز بد نظری کے انجمام بد سے اور اس کے خوفناک نتائج سے ڈرے اور نظر کی حفاظت کے لئے اس کو اتنا جھکا کر رکھے جیسے کہ کسی کو مطلوب کے حاصل سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ دواء اس مرض عشق میں کافی وافی ہو گی۔ نظر کی حفاظت کے لئے نگاہ کی حفاظت کا ثواب بھی دیکھ لیا جائے جس کو ہم کتاب کے ایک باب میں لکھا آئے ہیں۔

کوتا، ہی نمبر ۲- اور اس کا علاج

اگر بار بار کے دیکھنے سے محبوب کی شکل دل میں نقش ہو جائے جس کی علامت یہ ہے کہ دل میں محبوب سمایا رہے اور گویا کہ وہ اس کو ہر وقت سینہ میں موجود پاتا ہے اور نیند میں اس کے پاس ہوتا ہے اور خلوت میں اس سے باتیں کرتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ محبوب سے دور رہنے کا پکا عزم کر لے اور اس کو نہ دیکھنے کا پختہ عہد کر لے اور اپنی طمع کو اس سے الگ کر لے اور اپنے دل میں نا امیدی کو بسالے اور ان باتوں پر نظر رکھے جن کو ہم نے خواہشات کی نہ مت میں بیان کیا اور ان سے ڈرایا ہے۔

کوتاہی نمبر ۵ - اور اس کا علاج

اور اگر بار بار کے دیکھنے سے محبوب کی صورت دل نشین ہو گئی ہے اور قوت فکر، شہوت کے اضافہ اور بے چینی کی شدت میں اثر انداز ہو گئی ہے تو اس کا سب طمع کی زیادتی ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محبت ایک درخت کی طرح ہے اور دیکھنا اس پانی کی طرح ہے جو اس درخت کی طرف بہتا ہے پس جب بھی اس کو سینچا جاتا ہے وہ سرکش ہوتا ہے نافرمانی کرتا ہے اور یہ سب آفات نظر کی آزادی سے پیدا ہوتی ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے اسی کی وجہ سے بری خواہشات دل پر غالب ہو میں اور فساد کا سیلا ب بدن میں گھر کر گیا اور کتنے لوگ ایسے مریض ہوئے جن میں اس مرض نے ایسا اثر کیا کہ پھر نہ تو کسی کی ملامت نے اثر کیا اور نہ کسی کی مار پیٹ نے۔

(اس کا علاج یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب وادی کے ندی نالے بند ہو جائیں تو ہوا کے چلنے اور گزرنے سے وہ سب خشک ہو جاتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہاں کوئی ندی نالے نہیں بہتے تھے بالکل اسی طرح سے محبوب سے دائمی طور پر علیحدگی دل میں نقش شدہ صورت کو مٹانے کا عمل کرتی ہے جبکہ اوقات کے گزرنے سے مصیبت کا اثر دل سے مت جاتا ہے۔

کوتاہی نمبر ۶ - اور اس کا علاج

اگر کوئی یہ کہے کہ میرا جرم میرے حق میں بہت ہو گیا ہے میں نے بار بار دیکھا ہے میرے دل میں محبوب کی صورت بیٹھ گئی ہے میں ہر وقت بے چین رہتا ہوں اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مرض نظر کے تکرار سے اور محبوب کے دیدار سے شفایا پاتا ہے لیکن جب میں یہ کرتا ہوں تو میرا معاملہ تیز ہو جاتا ہے اور مجھ میں اتنی قدرت نہیں رہتی کہ میں اپنے حبیب سے ایک لمحہ کا صبر کر لوں کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے کہ میں خود کو ضائع کرنے سے پہلے اس کی تلافی کر سکوں؟

تو جواب یہ ہے کہ میں تمہیں کیسے چھوڑنے کا حکم کروں حالانکہ تو اس سے ایک

لختے کرنے بھی صبر نہیں کر سکتا۔ اور کیسے نہ منع کروں جبکہ تو بلاکت کے کنارہ پر کھڑا ہے اور اپنے بدن اور دین کے ساتھ کھیل چکا ہے اور دو اسی کو بتائی جاتی ہے جو اس کو قبول کرے اور جو اس کی پرداہ نہ کرے اس کو نصیحت کا کیا فائدہ؟ بہر حال اگر تمہارا دوا کو استعمال کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا ہے تو سن میں علاج بتاتا ہوں۔

تمہیں یہ جو خیال آتا ہے کہ بار بار دیکھنا مرض کو کچھ ہلاک کرتا ہے یہ خیال خام ہے اگر تو یہ کہے کہ میں تو اس وقت سکون محسوس کرتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ تم قرب پانے کی وجہ سے اس وقت وجد کی وجہ سے سکون پاتے ہو پھر جب دوری ہو جائے تو شوق کی آگ شعلے بھڑکاتی ہے۔ تیری مثال تو اس پیاسے جیسی ہے جس نے شراب پی لی اس نے پینے کے وقت تو سیرابی محسوس کی پھر جب اس نے اپنے شعلے بھڑکائے تو پیاس اور تیز ہو گئی (اور یہ شراب کئی خراپیوں کی بنیاد بن گئی)۔ چنانچہ اپنے معشوق سے عاشق کا قرب بھی اسی طرح کا ہے جوزخم پر اور زخم لگاتا ہے اور لنگرے کو لنگرا کرتا ہے پس جب بھی ظاہری اسباب میں اضافہ ہوتا ہے اندر وہی اعضاء میں محبت اور مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ قتل گاہ میں زہر کا کام دیتی ہے جبکہ مقتول کو قاتل نظر نہیں آتا پس جب تو نے شیطان کا دھوکہ سمجھ لیا کہ اس کے لحاظ سے محبوب کا قرب دوا ہے اور نظر شفاء ہے جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے اس کی یہ بات محال ہے بلکہ یہ تو یہماری کو اور تیز کرتا ہے اور اس گناہ کے ارتکاب کی جرات دلاتا ہے جس کے عذاب سنبھلنے کی طاقت نہیں اور اس کے عقاب کی قوت نہیں اب تجھے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس مرض کا علاج محبوب سے دور رہنے کے سوا اور کچھ نہیں۔

محبت کیا ہے؟

حضرت اصمیؑ فرماتے ہیں میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا تم کچھ محبت کی حقیقت ذکر کرو؟ تو اس نے کہا

محبت ایک پودا ہے اس کا نیچ دیکھنا ہے اس کا پانی بار بار دیکھنا

ہے اس کی پرورش وصال ہے اس کی کمی علیحدگی ہے اور اس کا نتیجہ گناہ اور خدا کی نافرمانی اور جنون ہے۔

محبوب کے پاس چل کر جانا

محبوب کے پاس قدم قدم چل کر جانا ملاقات کی وجہ سے تکلیف دہ ہے یہ ہر قدم گناہ میں لکھا جائے گا اور تم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔

حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسلمان کوئی قدم اٹھاتا ہے یا تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے یا گناہ (یعنی اگر قدم نیکی کی طرف اٹھائے تو نیکی لکھی جائے گی اگر گناہ کی طرف اٹھائے تو گناہ لکھے جائیں گے)۔

مروان بن حکم نے ایک دن خطبہ میں کہا

اے لوگو! اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کچھ بھی غافل ہوتا تو تمہارے ان قدموں سے غافل ہوتا جس کو ہو امنادیتی ہے

پھر اس نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّا نَحْنُ نُحْكِي الْمُوْتَقَدِّمَاتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمَ الْمُؤْمِنُوْمُ وَأَثَارَهُمْ
 (ترجمہ) ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انہوں نے (اچھے یا بے اعمال) آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑے ہیں (جیسے نشان قدم وغیرہ ان کو بھی لکھ رہے ہیں)۔

محبوب سے باتیں کرنا

تم ذرا یہ بھی سوچو کہ تم محبوب سے جتنی باتیں کرتے ہو ان کے بارہ میں بھی تم سے حساب ہوگا۔

(حدیث) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنائی:

ان العبد يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار بعد ما بين المشرق والمغارب. (بخاری، مسلم)۔ (۹۹)

(ترجمہ) بلاشبہ انسان کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنا دور جا پہلتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

(حدیث) حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عزوجل ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عزوجل بها عليه سخطه الى يوم القيمة. (ترمذی شریف)۔ (۱۰۰)

(ترجمہ) انسان اللہ تعالیٰ کی نارِ اضکل کا کوئی کلمہ ایسا بولتا ہے جس کو وہ برائی میں اتنا برانہیں سمجھتا جتنا کہ وہ برائی میں پہنچا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بولنے والے پر قیامت تک اپنی نارِ اضکل لازم کر دیتے ہیں۔

حضرت ربع بن خشمؓ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ بولتا ہے سب لکھا جاتا ہے۔
حضرت مجاهدؓ فرماتے ہیں کہ انسان کی یماری کی کراہنے کی آواز بھی لکھی جاتی ہے اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتَيْدٌ ①

(ترجمہ) وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس

(۹۹) رواہ البخاری (۶۴۷۷)، و مسلم (۲۹۸۸)، وأحمد فی المسند ۳۷۹/۲

(۱۰۰) حدیث صحیح۔ رواہ الترمذی (۲۳۱۹)، والنمسائی فی کتاب الرقاائق من سننه الکبری، کہا فی تحفة الأشراف (۱۰۳۲، و ابن ماجہ (۳۹۶۹)، و مالک فی الموطأ (۹۸۵/۲)، وأحمد فی المسند ۳۳۴/۲ و ۴۶۹/۳۔

(ق: ۱۸) ایک نگہبان تیار ہے۔

اللہ سے حیاء کرو

اگرنا جائز خواہشات کے اسباب طاقتور ہو جائیں اور تجھے تیرے محبوب کے ساتھ علیحدگی پر اکسائیں تو تو نے خود کو شیر کی جھاڑی میں ڈال دیا اب تیرے جسے کا سلامت رہنا بہت مشکل ہے اس لئے اس سے بھاگ جانے کے سوا اور کہیں نجات نہیں ہے۔

اور اگرنا جائز خواہش نے تجھے قابو کر رکھا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس سے چھڑا لے اس ذات کے خوف سے جو تجھے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کے لئے اپنی طرف دیکھنے سے حیا کرو وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔

(حدیث) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک دن فرمایا:

استحیوا من الله عزوجل حق الحیاء قال: قلنا : يا رسول الله انا نستحیي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن من استحیي من الله حق الحیاء فليحفظ الراس وما حوى والبطن وما وعى ولیذکر الموت والبلی ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحیي من الله حق الحیاء. (۱۰۱)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ سے ایسے حیاء کرو جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم)

(۱۰۱) ابادہ ضعیف: رواہ الترمذی (۲۴۵۸)، وأحمد فی المسند ۳۸۷۱
قال الترمذی: " حدیث إنما عرفه من هذا الوجه، عن الصیاح بن محمد
" - قلت: هو ابن أبي حازم السجّلی الکوفی: ضعیف، أفرط فيه ابن حیان۔
التعریف (۲۸۹۸)۔

نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کا شکر ہے ہم حیاء کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ حیاء نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے ایسا حیاء کرتا چاہتا ہے جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے سر کا اور جو کچھ اس میں خیالات آتے جاتے ہیں ان کی (گناہوں سے) حفاظت کرے، اور پیش کی اور جو کچھ اس میں بھرتا ہے اس کی (حرام سے) حفاظت کرے، اور چاہئے کہ موت کو اور اپنے مٹی ہو جانے کو یاد کرے، اور جو آخرت کے (پورے لطف لینا) چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت (اور آسائش و آرام) چھوڑ دے۔ جس شخص نے یہ کیا اس نے اللہ سے پورا پورا حیاء کیا۔

(حدیث) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

خشیۃ اللہ راس کل حکمة، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصیۃ اللہ اذا خاللم يعبا اللہ بشیء من عمله۔ (۱۰۲)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ سے ذرنا داتائی کی جڑ ہے۔ جو شخص ایسا پر ہیز گا نہیں جس کو اس کی پر ہیز گاری تباہی میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچائی تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی نیک مُل کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے۔

اللہ کے بندے

حضرت یوسف بن حییم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے یہ جان لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لئے اس کے دیکھنے کی وجہ سے انہوں

(۱۰۲) حدیث ضعیف رواه القضاوی في مسند الشهاب (۴۱) مختصراً، وما بين المعموقين زيادة منه. وفيه: سعیدة بنت حکماة، تروي عن أبيها بو اطبل. كما قال ابن الحوزي فيما نقله عنه صاحب كشف الأحوال، كذكر في فتح الوهاب ۱۹۱۱۔

نے حیاء کیا کہ وہ اللہ (کی رضاہ لے اعمال) کے سوا کچھ اور (یعنی بد اعمالیوں کی طرف نہ) دیکھیں۔

قیمتی جو ہر

حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی فکر اس کے ساتھ لگاؤ جس کا نظر سے تم پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس ذات کا شکر ادا کرو جس کی نعمتیں تم سے ختم ہیں ہوتیں۔ اور اس ذات کے سامنے اپنا خشون و خصوص عاجزی اور بندگی ظاہر کرو جس کی ملکیت اور حکومت سے تم نہیں نکل سکتے۔

عشق کا بہترین علاج

تم عشق کی اور محبوب کے نظارہ لی لذت کے وقت موت کی کڑواہٹ کو یاد کر لیا کرو جس کا نام آنحضرت ﷺ نے ”لذت کو شکست دینے والی“ (۱۰۳) رکھا ہے۔ اور حالت نزع کی ختنی کو باہ کر لیا کرو۔ اور ان مردوں کے بارہ میں غور کیا کرو جو اپنے کئے ہوئے اعمال بد کی سزا بھگتے کے لئے قید ہیں ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کسی گناہ کو مٹا سکے اور نہ کوئی ایسا بے جواپن کسی نیکی ہ اضافہ کر سکے پس اے آزادی پسند تو (بھی بے کار راستہ میں) سرگردان نہ ہو۔

مردوں کی تمنا

حضرت ابراہیم بن یزید عبدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ریاح قیسیٰ تشریف لائے اور فرمایا:

اے ابو اسحاق! ہمارے ساتھ آخرت والوں کے پاس چلوتا کہ ہم ان کے پاس

(۱۰۳) حدیث حسن: رواہ الترمذی (۲۳۰۷)، والمسانی ۴/۴، وابن ماجہ (۴۲۵۸)، وقال الترمذی: ”حدیث حسن عربی“

جا کر ایک عبید باندھیں۔

چنانچہ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور وہ قبرستان میں جا پہنچ تو ہم ان میں سے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اے ابو سحاق! تمہارا کیا خیال ہے اگر ان مردوں میں سے کوئی تمنا کرے تو کیا تمنا کرے گا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم وہ یہ تمنا کرے گا کہ اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ اللہ کی اطاعت کی باتیں نے اور اپنی اصلاح کرے۔

پھر فرمایا ہم ابھی اس دنیا میں زندہ موجود ہیں (اللہ کی اطاعت کے مسائل ن کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں) پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عبادت و ریاضت میں خوب مخت و مشقت برداشت کی اور بہت حوز اعرضہ زندہ رہ کرفوت ہو گئے۔

خدا کے سامنے شرمندگی

جب تمہیں نفسانی خواہش بھڑکائے تو خدا کے سامنے اپنی پیشی کا لحاظ کر لیا کرو اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کے عتاب سے اور شرمندہ ہونے کی فکر کر لیا کرو۔

(حدیث) حضرت خیثہ بن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما منکم من احد الا سیکلمه ربہ تبارک و تعالیٰ لیس بینہ و بینہ
ترجمان۔ (بخاری، مسلم)۔ (۱۰۲)

(ترجمہ) تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر عنقریب (قیامت کے دن) اس سے اس کا رب تعالیٰ گفتگو کرے گا جبکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان

(۱۰۴) رواہ البخاری (۱۴۱۳) و (۶۵۳۹) و (۷۴۴۳)، و مسلم (۲۰۱۶)، والترمذی (۲۴۱۵)، و ابن ماجہ (۱۸۴۳)، وأحمد فی المسند ۴: ۲۵۶۔

نہیں ہوگا۔

اللہ کی پرده پوشی

(حدیث) حضرت صفوان بن محز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت ﷺ سے قیامت کے دن (اللہ کے بندے کے ساتھ سرگوشی کے بارہ میں) کیا سا ہے؟

تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے۔
ان اللہ عزوجل یدنی المؤمن فیضع علیه کنفہ ویستہ من الناس
ویقرہ بذنبہ، ويقول له، اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف ذنب کذا؟ حتیٰ
اذا قررہ بذنبہ ورای فی نفسہ انه قدھلک قال: فانی قدسیرتها
علیک فی الدنیا وانا اغفرھا لک الیوم. (بخاری، مسلم)۔ (۱۰۵)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ مومن بندے کو اپنے قریب بلا میں گے اور اس پر اپنا پرده ڈال کر اس کو لوگوں سے چھپا دیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے پوچھیں گے! کیا تم ایسا گناہ جانتے ہو؟ کیا تم ایسا گناہ جانتے ہو؟ یہاں تک کہ جب مومن اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے متعلق سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہارے لئے اس گناہ کی پرده پوشی فرمائی تھی آج میں اس کو تمہاری (خوشی اور راحت) کیلئے معاف کرتا ہوں۔

زمین گناہ گار کے گناہ کی گواہی دے گی

(حدیث) حضرت ابو ہریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

يَوْمَ يُبَدِّلُ الْحَدِيثُ أَخْبَارَهَا

(ترجمہ) قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔

(الزلزال: ۳)

پھر فرمایا:

ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها،
ان تقول عمل كذا و كذا في يوم كذا و كذا، فهو
اخبارها۔ (ترمذی شریف، وقال حدیث حسن صحیح
غريب)۔ (۱۰۶)

(ترجمہ) وہ ہر مرد اور عورت کے بارہ میں ان کے ان اعمال
کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پشت پر کئے تھے وہ کہے
گی اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ یہی اس کی
خبریں ہوں گی۔

خود کو دوزخ میں ڈالنے والا سمجھ کر باز آ جا

جب بھی تجھ سے لغزش ہونے لگے تو خود کو اس کی مثال بنادے کہ تجھے دوزخ

(۱۰۶) رواه الترمذی (۲۴۲۹)، وعزاه السیوطی فی الدر المنشور لأحمد، وعبد بن حمید، والنسائی، وابن حریر، وابن المندز، والحاکم وصححه، وابن مرسد ویہ، والبیهقی فی شعب الإیمان۔ وفي الباب عن أنس وغيره، انظر الدر ۶۴۵-۶۴۶۔

میں داخل ہونے کا حکم کیسے دیا جائے گا جس کے سببے کی کسی مخلوق میں طاقت نہیں۔ اور لذت کے مٹ جانے کا اور عار اور عذاب کے باقی رہنے کا تصور کر۔ ایک شاعر کہتا ہے ۔

تُفْنِي الْلَّذَادَةَ مَمْنَ نَالَ شَهْوَتَهُ
مِنَ الْحَرَامِ وَيَقِنُ الْأَثْمَ وَالْعَارِ

تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ فِي مَغْبِتِهَا
لَا خَيْرٌ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارِ

(ترجمہ)

- (۱) جس نے حرام میں اپنی شہوت کو پورا کیا اس کی لذت تو مٹ جائے گی مگر گناہ اور عار باقی رہیں گے۔
- (۲) انجام کا رخترناک سزا نہیں باقی رہیں گی، (اس لئے) اس لذت میں کوئی خیر (اور نفع) نہیں جس کے (حاصل کرنے کے بعد) دوزخ (میں جلنا) ہو۔

دوزخ کی آگ کی خطرناکی

(حدیث) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَارٌ كَمْ هَذِهِ مَا يُوَقَدُ بِنَوْ أَدَمْ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْئًا مِنْ حَرْجَهُنَّمَ . قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةً . قَالَ إِنَّهَا فَضْلٌ عَلَيْهَا بِتَسْعَةِ وَسَبْعِينَ جُزْءًا كَلِهْنَ مُثْلِ حُرُّهَا . (بخاری، مسلم)۔ (۱۰۷)

(۱۰۷) رواه البخاري (۳۶۵)، ومسلم (۲۸۴۳)، والترمذی (۲۵۸۹)، ومالک في الموطأ ۹۹۴/۲، والدارمي (۲۸۴۷)، وأحمد في المسند ۳۱۳/۲

(ترجمہ) تمہاری یہ آگ جس کو انسان جلاتے ہیں دوزخ کی گرمی (آگ) کا ستر و اس حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی قسم! پھر تو یہ (عذاب دینے کے لئے) بہت کافی ہوگی۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ننانوے درجہ زیادہ تیز ہے اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کی طرح گرم ہے۔

دوزخیوں کے آنسوؤں میں کشمتیاں بہہ سکتی ہیں

حضرت قسامہ بن زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

اے لوگو! دوزخ کے خوف سے رویا کرو اور اگر خون نہیں روتے تو دوسروں کو رلا کرو۔ کیونکہ (جو دنیا میں خوش رہتے ہیں گناہوں پر رویا نہیں کرتے) وہ دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر یہ خون (کے آنسو) روئیں گے حتیٰ کہ اگر ان میں کشمتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل سکیں گی۔

قیامت میں پہاڑوں کی فریاد

حضرت وہب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب (قیامت واقع ہوگی اور) پہاڑوں کو چلا جائے گا اور وہ دوزخ کا ابال، غصہ، شور و شغب سنیں گے تو پہاڑ ایسے واویلا کریں گے جیسے عوامیں واویلا کرتی ہیں۔ پھر ان کے الگے حصہ کے پہاڑ پچھلے پہاڑوں سے نکلا جائیں گے اور ایک دوسرے کو پیس کر کھدیں گے۔

ب سے کم عذاب والا دوزخی

حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخیوں میں سب سے کم مذاب والا دوزخی وہ شخص ہو گا جس کی جو تیاں آگ کی ہوں گی، اس کے (جو تی

کے) تھے آگ کے ہوں گے، اس کی ڈارھیں آگ کی ہوں گی، اس کے کان آگ کے ہوں گے، اس کی آنکھیں کے پردے آگ کے شعلہ کے ہوں گے۔ اس کی گرمی اس کے پیروں سے نکلے گی، جبکہ تمام دوزخی دوزخ میں اس معمولی سے دانہ کی طرح ہوں گے جو بہت سے پانی میں (کھولتا) ہوتا ہے یہ دوزخ ان کے ساتھ (بھی ایسی ہی) کھولتی ہوگی۔

پچاس ہزار سال تک بھوک کے پیاس سے

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پچاس ہزار سال کی مقدار میں کھڑے رہیں گے نہ کھائیں گے نہ پینیں گے حتیٰ کہ پیاس کے مارے ان کے جگر پھٹ جائیں گے اور بھوک کے مارے ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے اور گردنیں تنی رہنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گی اروہا اس عذاب کے ٹلنے کی امید کریں گے جبکہ ان کو دوزخ میں ڈال دینے کا حکم کیا جائے گا۔

عشق کا اصل علاج محبوب سے شادی ہے

اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کی ان باتوں کو تسلیم کرتا ہوں میں نے جان لیا ہے کہ (محبوب سے قطع تعلق کر کے) نامیدی کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب میں نے محبوب کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور حتیٰ طور پر اپنی طمع کو اس سے ہٹا دیا ہے اب اتنی بات تو ضروری باقی ہے کہ میرا دل بے یقین ہے سکون نہیں پاتا۔ اور ایسی جلن ہے جو مٹتی نہیں اور ایسے شعلے بھڑک رہے ہیں جو بجھتے نہیں تو کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟

حوالہ: اگر تمہارا محبوب ایسا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اور تم اس سے نکاح کی قدرت بھی رکھتے ہو جیسے کوئی عورت جس سے تم نکاح کر سکتے ہو تو اس مرض کے لئے

اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کو عشق نے لا چار کر دیا تھا جب ان کو اپنے محبوب سے وصال ہوا تو وہ بہت جلدی صحت یاب ہو گئے کیونکہ نکاح عشق کو زائل کر دیتا ہے۔

(حدیث) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت با برکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس ایک یقین رہتی ہے جس سے نکاح کا پیغام ایک امیر اور ایک غریب نے دیا ہے جبکہ یہ لڑکی و تنگدست کی طرف میلان رہتی ہے اور ہم امیر کی طرف میلان رکھتے ہیں تو پ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لِمْ يَرِ لِلْمُتَحَابِينَ مِثْلُ النِّكَاحِ . (ابن ماجہ، مسند رک حاکم،
جامع صغیر علامہ سیوطی، مترجم)۔

آپس میں جود و محبت کرتے ہیں اور ان کو عشق کا مرض لگ جاتا ہے اس کا علاج ان کے باہمی نکاح کرنے سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں پایا گیا۔

تنہیتی کی وجہ سے محبوب سے شادی نہ ہو تو کیا کرے

اگر شریعت کے لحاظ سے محبوب سے شادی کرنا جائز ہو مگر تنہیتی کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو محبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس معاملہ کی آسانی کی اتجاه کرے اور جس غلط طریقہ سے اس کو روکا گیا ہے اس پر صبر کرے انشاء اللہ اس کی مراد جلد پوری ہو گی۔

حکایت

ایک بزرگ محمد بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لوئڈی رہتی تھی جس کو میں نے فروخت کر دیا لیکن میرا دل اس سے چٹ گیا تو میں نے اس کے مالک کے پاس اپنی جماعت کے احباب کے ساتھ جا کر ملاقات کی اور اس سے

کہا کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان اس معاملہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں اس پر مزید بیس دینار نفع کے بھی دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو میں اس سے (نا کام) واپس آگیا اور خود کو بہت سمجھا لامگر نا کام رہا ارساری رات جاگ کر کافی مجھے کچھ نہیں سو جھتا تھا کہ میں کیا کروں اور وہ شخص بھی ذرگیا کہ میں اس کے پاس دوبارہ نہ پہنچ جاؤں چنانچہ وہ اس لوئڈی کو مدائن (شہر) کی طرف لے گیا۔ جب میں نے اپنی یہ مصیبت دیکھی تو اس کا نام اپنی ہتھیلی پر لکھا اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جب بھی اس کی یادستانی میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف انھا دیتا اور عرض کرتا ہے میرے آقا میری یہ حالت ہے۔

دوسرے دن جب سحری کا وقت ہوا تو ایک شخص نے میرے گھر کا دروازہ کھنکھایا میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں لوئڈی کا مالک ہوں۔ میں اس کے پاس اٹھ کر گیا تو وہ میرے سامنے تھا۔ اس نے کہا یہ لوئڈی لے لو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لئے برکت دے۔ میں نے کہا تم وہ رقم اور منافع لیتے جاؤ۔ اس نے کہا میں تم سے کوئی دینار و درہم (رقم) لینے کا نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا گذشتہ رات ایک شخص خواب میں میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ یہ لوئڈی ابن عبید کو واپس کر دو اس کے بدله میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔

غیبی آواز

حضرت ابو عبد اللہ بن ابی رحمة اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ سے یہ آواز سنی (وہ کہتا تھا) اس شخص پر بھی تعجب ہے جس کی حاجت اس کے مولیٰ کے پاس پوری ہو جائے مگر وہ اس کو بندوں سے پوری کرتا پھرے۔

باب 50

محبوبوں سے شادی حاصل ہو جانے والوں کی حکایات

حضرت علیؑ نے شادی کرادی

ابوالحسنؑ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی ایک لوئڈی تھی اور آپ کا ایک موذن بھی تھا جو رحیم میں رہتا تھا اور صبح اندر ہیرے میں اذان دے دیتا تھا اور یہ لوئڈی آپ کے لئے نہر فرات سے میٹھا پانی لایا کرتی تھی اور جب بھی اس موذن کے پاس سے گذرتی یہ اس کو کہتا تھا کہ اے فلانی! اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بہت دفعہ کیا تو لوئڈی نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی آپؐ نے اس سے فرمایا جب وہ تمہیں یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے کہنا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اب کیا چاہتے ہو؟ تو لوئڈی نے اس سے یوں ہی کہا تو موذن نے کہا ہم صبر کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمادیں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

تو لوئڈی حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپؐ کو یہ عرض کیا تو آپؐ نے لوئڈی سے فرمایا:

تم جاؤ اس کو ساتھ لے کر آؤ جب وہ آپؐ کے پاس حاضر ہو تو آپؐ نے اس کو خوش آمدید کہا اور قریب بٹھایا اور فرمایا اے فلاں کیا تمہیں فلانی سے محبت ہے؟ عرض کیا جی ہاں؟ امیر المؤمنین۔

آپؐ نے پوچھا کیا اس کا کسی اور کو بھی علم ہے؟

عرض کیا اللہ کی قسم اور کسی کو اس کا علم نہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو تین مرتبہ لوگوں سے قسم دے کر پوچھا اور
اس نے قسم کھا کر وہی جواب دیا۔

تو آپ نے فرمایا میں نے یہ لوندی تھے دی تم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، یہ اللہ
ہی کے حکم سے ہے اور اللہ بہتر ہی حکم کرتا ہے۔

حکایت نمبر ۲

حضرت موی بن علقہؑ کی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مکہ
مکرمہ میں ایک آدمی غلاموں اور لوندیوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک
لوندی ایسی تھی جس کے جمال و کمال کی بڑی تعریف کی جاتی تھی یہ تاجر اس کو حج کے
موسم میں سامنے لاتا تھا اور اس کے لئے بڑے بڑے ہدیے اور تخفیف پیش کئے جاتے
مگر یہ اس کو فروخت نہیں کرتا تھا اور بہت زیادہ قیمت مانگتا تھا وہ اسی طرح سے ایک
عرصہ دراز تک کرتا رہا اور اس کا یہ قصہ بہت سے شہروں تک پھیل گیا اور (کنی) لوگ
حج کے بہانہ سے اس لوندی کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔

ہمارے ہاں ایک نوجوان عبادت گزار بھی رہتا تھا جو اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آیا
اور ہمارا پڑوئی بن گیا تھا۔ اس نے بھی لوندی کو اس کی نمائش کے دن ایک مرتبہ دیکھے
لیا اور وہ اس کے دل میں اتر گئی تو یہ اس کی نمائش کے دنوں میں اس کو آ کر دیکھتا تھا
اور لوٹ جاتا تھا جب لوندی کو پرداہ میں بٹھا دیا گیا تو یہ بہت غمگین اور سخت یہاں ہو گیا
اور اس کا جسم پکھلنے لگ گیا چنانچہ یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگا اور اس کی
مصیبت ایام حج تک طول کھینچتی تھی اور جب یہ لوندی نمائش کے لئے باہر نکالی جاتی تو
یہ اس کو دیکھ دیکھ کر سکون پاتا تھا حتیٰ کہ وہ پھر پرداہ میں کر دی جاتی۔

یہ جوان اسی طرح سے کسی سال تک دبلا پتلا ہوتا اور پکھلتا رہتا تھا اور میں اس
سے لگ لپٹ کر وجہ پوچھا کرتا تھا مگر وہ اس کا اظہار نہ کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے

ایک مرتبہ مجھے بتا دیا مگر یہ مطالبہ کیا کہ اس کی بات کو کسی کے سامنے ذکر نہ کروں اور نہ کوئی اور اس بات کو سنے۔

تو میں نے اس پر ترس کھایا کہ یہ بے چارہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس کر کس حالت کو پہنچ گیا ہے تو میں اس لوئڈی کے مالک کے پاس گیا اور اس سے بات چیت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے اس نوجوان کی بات اور اس کی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اب جو اس کی حالت ہو چکی تھی وہ بھی بتائی اور وہ اس وقت موت کی حالت کو پہنچ چکا تھا۔

اس تاجر نے کہا تم میرے ساتھ چلوتا کر میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں چنانچہ ہم دونوں انھ کھڑے ہوئے اور اس کے پاس پہنچے۔ جب اس لوئڈی کا مالک اس کے قریب گیا اور اس کی حالت زار دیکھی تو اپنے گھر واپس لوئنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر تاجر نے خوبصورت اور حسین لباس نکال کر کہا کہ فلاںی لوئڈی کا بناؤ سنگھار کرو اور یہ لباس اس کو پہناؤ اور اس کے ساتھ وہ کرو جو تم حج کے موسم میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے اس لوئڈی کے ساتھ وہی کچھ کیا۔ پھر اس تاجر نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو بازار میں لے گیا اور لوگوں کو پکارا تو وہ سب جمع ہو گئے پھر اس نے کہا اے لوگو! تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی فلاںی لوئڈی اور اس نے جو کچھ پہن رکھا ہے سب اس نوجوان کو ہدیہ میں دی اس کے عوض جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس نوجوان سے کہا تم یہ لوئڈی قبول کرو میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے اس مال اور زیور سمیت جو اس کے پاس ہے یا اس نے پہن رکھا ہے۔

تو لوگ اس کو یہ کہتے ہوئے دور ہونے لگے کہ تم تباہ ہو جاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے حالانکہ تمہارے سامنے اس کے اتنے بڑے بڑے معاوضے پیش کئے جاتے تھے اس وقت اس کو نہیں بیجا اب اس نوجوان کو بخشنوش کر دی۔

تو تاجر نے کہا تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ میں نے (یہ لوئڈی لقہ اجل ہونے والے نوجوان کو ہدیہ کر کے) تمام روئے زمین کے لوگوں کو زندگی دی ہے۔

(کیونکہ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 (ترجمہ) جس نے کسی ایک نفس کی زندگی بچائی اس نے
 تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ (سورۃ مائدۃ ۳۲:۳۲)

ہارون رشید کی ایک شادی کا عجیب واقعہ

بشر بن ولید فرماتے ہیں میں حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں ایک رات اپنے بستر کی شیک لگا کر سونے لگا تھا کہ ایک شخص نے بڑی سختی سے دو دوازہ کھنکھٹایا تو میں نے اوپر کملی اور ڈھنی اور گھر سے باہر نکلا تو ہر شمسہ بن اعین باہر کھڑا تھا میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا آپ کو امیر المؤمنین (ہارون رشید) نے یاد کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اے ابو حاتم! تم تو میری بہت عزت اور قدر کرتے ہو یہ کونسا وقت ہے اس کو تو تم جانتے ہو خطرہ ہے کہ امیر المؤمنین نے مجھے کسی کام کی خاطر نہیں بلا یا۔ اگر تمہاری ہمت میں ہو تو اس حاضری کو صحیح تک موخر کر دو شاید کہ اس کی کوئی اور رائے ہو جائے۔ اس نے کہا اس میں میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ میں نے پوچھا تم کس کام سے آئے ہو اس نے کہا میرے پاس (امیر المؤمنین کا مسرور نامی) خادم خاص آیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو امیر المؤمنین کے خدمت میں پیش کروں۔ میں نے کہا چلو تم مجھے اتنی مہلت تو دیدو کہ میں اپنے اوپر پانی ڈال لوں۔ (یعنی غسل کرلوں) اور خوشبو گالوں۔ پھر اگر کوئی آفت آگئی تو خود کو چست کرلوں گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے عافیت بخشی ہو تو کوئی خطرہ کی بات نہیں۔ تو اس نے مجھے اس کی اجازت دیدی۔

چنانچہ میں حمام میں داخل ہوا، نئے کپڑے پہنے اور جتنا خوشبو گانا مناسب تھی

لگائی پھر ہم نکل کر چلتے رہے حتیٰ کہ امیر المؤمنین ہارون رشید کے محل تک پہنچ گئے تو وہاں پر مسرور کو کھڑا پایا۔ اور ہرثماں نے اس کو کہا کہ میں قاضی صاحب کو لے آیا ہوں۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مسرور سے پوچھا تمہیں میری خدمت اور عزت کا واسطہ! یہ بڑا تنگ وقت ہے تمہیں معلوم ہے کہ مجھے امیر المؤمنین نے کیوں طلب کیا ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے پاس کون ہے کہا عیسیٰ بن جعفر۔ میں نے پوچھا اور کون ہے؟ کہا تمیرا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اب آپ اندر تشریف لے جائیں جب صحن میں پہنچ جائیں تو وہ برآمدہ میں بیٹھے ہوں گے آپ اپنے پاؤں کو زمین (پر مار کر) حرکت دیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہنا کہ میں ہوں۔

تو میں وہاں پہنچا اور ویسا ہی کیا تو امیر المؤمنین نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یعقوب۔ کہا اندر آ جاؤ۔ تو میں اندر چلا گیا تو وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں میں عیسیٰ بن جعفر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا ہمارا خیال ہے کہ ہم نے آپ کو گھبرا دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اور ان کو بھی جو میرے پیچھے (یعنی گھر میں موجود) ہیں۔ کہا تشریف رکھیں تو میں بیٹھ گیا اور میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے یعقوب! تمہیں پتہ ہے ہم نے آپ کو کیوں بلا�ا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا میں نے آپ کو اس لئے بلا�ا ہے کہ آپ کو اس کا گواہ بنادوں۔ اس (عیسیٰ بن جعفر) کے پاس ایک لوٹدی ہے میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کو مجھے ہدیہ کر دے تو اس نے ہدیہ نہیں کی۔ پھر میں نے اس سے کہا تو اس کو حق دے تو بھی انکار کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو یقیناً قتل کر دوں گا۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تمہیں خدا نے اس لوٹدی کے بارہ میں کیا کر دیا ہے جو تو اس کو امیر المؤمنین کو دینے سے روک رہا

ہے؟ اور اتنے بڑے مقام و مرتبہ کا بھی لحاظ نہیں کر رہا؟

اس نے کہا آپ نے میری مجبوری سے بغیر یہ فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی اور تمام غلام آزاد کرنے کی قسم کھارکھی ہے اور میں صدقہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا اس لئے نہ تو میں اس لوندی کو نجع سکتا ہوں اور نہ ہی اس کو ہبہ کر سکتا ہوں (درنہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور میرے غلام اور لوندیاں سب آزاد ہو جائیں گے)۔

ہارون رشید میری طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ (شریعت میں) اس سے خلاصی کا کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے میں نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ لوندی کا آدھا حصہ ہبہ کردے اور آدھا نجع دے اس صورت میں یہ ہو گا کہ نہ تو اس نے لوندی کو بیچا ہے اور نہ ہبہ کیا (بلکہ دونوں کام آدھے آدھے اکٹھے کئے اور اس قسم کی صورت اس قسم میں داخل نہیں اس لئے نہ تو اس کی بیوی کو طلاق ہو گی اور نہ اس کے غلام آزاد ہوں گے)۔

عیسیٰ نے کہا کیا یہ صورت جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے۔ تو عیسیٰ نے کہا پھر آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اس کا نصف ہبہ کر دیا اور باقی نصف ایک لاکھ اشہر فیوں کے بدله میں فروخت کیا۔ پھر اس نے لوندی کو بلا یا تو اس کو زیب وزیست سمیت پیش کیا گیا پھر عیسیٰ نے کہا اے امیر المؤمنین یہ لیس اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس میں برکت فرمائے۔

ہارون رشید نے کہا اے یعقوب تمہارے لئے ایک مشکل اور باقی رہ گئی ہے۔ اس کو بھی حل کرتے جاؤ) میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ لوندی مملوک ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کا استبہ، رحم ہو جائے اور اللہ کی قسم اگر میں اس رات اس کے پاس نہ گیا تو مجھے خطرہ ہے لہ میری روح نہ نکل جائے۔

میں نے کہا اے امیر المؤمنین (اپ یہ لوندی آپ کی ملکیت میں آچکی ہے) آپ اس کو آزاد کر دیں پھر اس سے شادی کر لیں کیونکہ آزاد عورت (سے صحبت)

کے لئے استبرا، رحم (شرط) نہیں ہے۔

ہارون رشید نے کہا کہ میر اس سے کون نکاح کرے گا؟ میں نے کہا میں کروں گا۔ تو اس نے (گواہ کے طور پر) مسرور اور حسن کو بلا یا اور میں نے (نکاح کا) خطبہ پڑھا اور اللہ کی تعریف کی اور میں ہزار اشرفیاں (حق مہر کے عوض میں) شادی کر دی۔

تو ہارون نے مال منگوایا اور لوندی کو (حق مہر) ادا کیا پھر مجھ سے کہا اے یعقوب اب آپ تشریف لے جائیں۔ پھر اس نے اپنا سر مسرور کی طرف اٹھا کر کہا اے مسرور اس نے کہا لیک اے امیر المؤمنین۔ ہارون نے کہا کہ یعقوب کی خدمت میں دولا کھ در ھم اور میں تخت پوشاؤں کے پہنچا دو۔ چنانچہ وہ اس سب ہدیہ کو میرے ساتھ اٹھا لایا۔

بشر بن ولید کہتے ہیں کہ پھر امام ابو یوسف (یعقوب) میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے جو کچھ کیا اس میں تمہیں کوئی غلطی محسوس ہوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تم اس (میرے ہدیہ میں) سے اپنا حق اٹھالو۔ میں نے پوچھا میرا حق کتنا ہے؟ فرمایا دسوال حصہ۔

بشر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور دعا دی۔ جب میں اٹھ کر جانے لگا تو ایک بڑھیا کو داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے آکر کہا اے ابو یوسف! آپ کی بیٹی (یعنی ہارون رشید بادشاہ کی بیوی جس کا آپ نے نکاح کرایا ہے وہ) آپ کو سلام کہہ رہی ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اس رات میں امیر المؤمنین کی طرف سے وہی مہر ہی ملا ہے جس (کی مقدار) کو آپ جانتے ہیں اور اس کا آدھا حصہ (بطور شکرانہ کے) آپ کی خدمت میں بھجو رہی ہوں۔ اور آدھا اپنی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ن فرمایا تم اس کا ہدیہ واپس لے جاؤ اللہ کی قسم میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میں نے تو اس لوندی کو غلامی سن کے ساتھ شادی کر دی ہے اور وہ میرے لئے اتنا سا ہدیہ

پسند کرتی ہے۔

تو میں اور میرے ساتھی آپ پر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اس ہدیہ کو قبول کر ہی لیا اور مجھے اس سے بھی ایک ہزار دینار عطا کئے۔

عشق حرام کے آخری درجہ کا علاج

اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو عشق کا علاج ذکر کیا ہے کہ اگر ایسا معشوق ہو جس سے شادی کرنا جائز ہو تو شادی کرو اور آپ نے یہ بھی امید دلائی کہ یہ ممکن ہے اور ایسا بہت سے افراد کو حاصل ہوا ہے۔ مگر آپ اس عشق کا کیا علاج تجویز کرتے ہیں جس کو حاصل کرنے کی شریعت میں اجازت نہ ہو مثلاً وہ عورت جو خاوند والی ہے یا ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسے قریب بے بلوغ لڑکا۔ کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے جب کہ عاشق کا جسم کمزور ہو چکا ہے اور بے خوابی بہت ہو گئی ہے اور وہ جنوں کی حد کو پہنچ چکا ہے۔

حوالہ: عشق کی تمام امراض میں کامل علاج تو پر ہیز ہی ہے اور یہ پر ہیز محبوب کو مضبوط ارادہ کے ساتھ چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ پر ہیز حاصل ہو گیا تو علاج بہتر ہو گا اور اس وقت یہ ظاہری اور باطنی طور پر مفید ہو گا۔ اس کے لئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت وزاری بھی کرے اور کثرت سے دعائیں کرے کیونکہ یہ مجبور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مجبور کی دعا کو ضرور سنتا ہے جب وہ اس سے فریاد کرے۔ پھر اس کا علاج کیا جائے کیونکہ اسباب اختیار کرنا تو کل اور دعا کے مخالف نہیں ہے۔

ظاہری علاج

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب عاشق کا بدن کمزور ہو جائے تو اس میں حرارت بہت جلد بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کو ترچیزیں استعمال کرائیں، بفشنہ اور نیلوفر (کنول کا پھول) سنگھائیں، ہلکا پھلکا نہلاً میں، نیند زیادہ کرائیں اور مرطوب غذا میں استعمال کرائیں، اور خوبصورت باغ کا صاف سترہ اپانی دکھلائیں، اور ہنسانے والی باتیں سنائیں۔

نیز اس کے علاج میں سے عاشق کو سفر کرانا بھی مفید ہے کیونکہ سفر کی ساتھ محبوب سے دوری حاصل ہوتی ہے اور بدن سے ہر بعید شے دل سے بھی دوری پیدا کرتی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ عاشق ابتداء سفر میں شوق کو دبا کر رکھے جیسے مصیبت زده شخص اپنی ابتدائی مصیبت میں صبر سے کام لیتا ہے۔ اس طرح سے زمانہ کے گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ عشق بھی ہلکا ہو جائے گا۔

اس طرح سے تلاش معاش اور کارنی گری میں مصروف رہنا بھی عاشق کے دل کو تسلی بخشتا ہے۔ کیونکہ عشق کرنا فارغ آدمی کا کام ہے جو فارغ اوقات میں اور تنہائی میں شوق کی بنا پر معاشق کی صورت کو مد نظر رکھتا ہے اور عاشق معاشق کی تمثیل کو اپنے باطن میں جگہ دیتا ہے اس لئے جب غیر محبوب کے ساتھ دل مشغول ہو جائے گا تو محبت کم ہوتی چلی جائے گی اور عشق مبتا جائے گا اور فراموشی حاصل ہو جائے گی۔

اور ایک علاج یہ ہے کہ ایسے شخص کو نکاح کی پیش کشی کی جائے اور جہاں جہاں رشتہ ہو سکے ایسی عورتوں کا اس کے سامنے ذکر کیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس طریقہ سے

اس کے عشق کا علاج کیا جاسکے۔

حسن کا معیار

(حسن کا معیار تو حکماء اور اہل فن کے نزدیک مقرر ہے مگر) محبوب کے نزدیک حسن وہ ہے جو اس کے دل میں اتر جائے اس لئے اس کو نکاح کی غرض سے عورتیں اور لڑکیاں دکھائی جائیں اس طریقہ سے غالب یہ ہے کہ اس کو اس کے حسن کا معیار مل جائے گا۔ اگر نہ ملے تو (گھر کی عورتیں) اس کی تلاش میں رہیں کیونکہ نفس کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا اور عام طور پر بعد کی چیز پہلی بھلا دیتی ہے۔ (اس کی دلیل درج ذیل حکایت ہے)

حکایت

بنو امیہ کے خلام حسین بن علی کے والد کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا جب علاقہ شراۃ میں پہنچا اور رات قریب ہو گئی تھی تو میں نے ایک محل دیکھا اور اس کی طرف چلا گیا وہاں پہنچ کر میں نے محل کے دروازہ پر ایک عورت کو دیکھا جبکہ میں نے اس طرح کی بیبیت اور جلال کی عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دے کر پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا عرب کے بنو امیہ قبیلہ کا ایک شخص ہوں۔ اس نے کہا خوش آمدید اللہ آپ کو زندگی بخشنے (سواری سے) اتر آؤ یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ آپ کو عافیت دے۔ اس نے کہا میں بھی آپ کی قوم کی ایک عورت ہوں۔

چنانچہ اس نے میری رہائش اور مہمان نوازی کا حکم دیا اور میں نے بہت اچھے طریقے سے رات گذاری۔ جب صبح ہوئی تو اس نے قادر روانہ کر کے مجھ سے پوچھا رات کیسی رہی؟ آپ نے کیسی صبح کی؟ میں نے کہا رات بھی خوب گذری ہے اور میں نے آپ سے زیادہ خاطر تواضع کرنے والی خاتون اللہ کی قسم کبھی نہیں دیکھی۔

نہ ہی آپ جیسے عمدہ اخلاق کی خاتون دیکھی ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے آپ یہاں سے چلے جائیں جب آپ اس (سامنے والے) گرجا گھر میں پہنچ جائیں تو میرے چچا زاد سے ملیں وہ میرا خاوند بھی ہے اسی گرجا گھر میں اس پر عیسائیت غالب ہو گئی ہے اس نے مجھے چھوڑ کر وہاں کی رہائش کر لی ہے۔ تم اس کو دیکھو اور اپنے یہاں رات گذار نے کاڑ کرو اور جو میں نے پیغام دیا ہے وہ بھی جا کر کہہ دو۔ تو میں نے کہا میں یہ کام ضرور کروں گا مجھے بھی اس سے خوشی ہو گی۔

چنانچہ میں وہاں سے نکل کر گرجا گھر میں پہنچ گیا۔ وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اس کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت حسین جوان تھا میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تو میں نے اپنے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہ میں نے رات کہاں گذاری ہے اور یہ بھی کہا جو عورت نے پیغام دیا تھا۔ تو اس نے کہا اس عورت نے چج کہا ہے میں آپ کی قوم میں سے قبیلہ حارث بن حکیم کا آدمی ہوں۔ پھر اس نے چیخ کر پکارا اے قسا۔ تو اس کے پاس ایک عیسائی عورت نکل کر آئی جس پر پادریوں کا لباس تھا اور زنار پہن رکھی تھی۔ میں نے اس جیسی حسین نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں۔ اس مرد نے کہا یہ قسطا ہے اور وہ اروی ہے اور میں یہ کہتا ہوں ۔

تبدلت قسا بعد اروی وجہا
کذاک لعمری الحب یذهب بالحب

(ترجمہ)

میں نے اروی اور اس کی محبت کے بعد قسطا سے تباولہ کر لیا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم اسی طرح سے ایک کی محبت دوسری کی محبت کو منادیتی ہے۔

ایک علاج یہ ہے

ظاہری علاج میں ایک کثرت جماع بھی ہے اگرچہ غیر محظوظ (بیوی) سے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرارت کو کم کرتا ہے جس سے عشق پروان چڑھے۔ چنانچہ جب فطری حرارت ضعیف ہوگی تو نفور حاصل ہو گا دل میں ٹھنڈک ہوگی اور عشق کے شعلے ماند پڑ جائیں گے۔

اور ایک علاج یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرے جنازوں کے ساتھ جائے، قبروں کی زیارت کر لے، مردوں کو دیکھئے، موت اور اس کے بعد کے حالات کی فکر کرے یہ سب خواہش کی آگ کو بحادیں گی جیسا کہ گانا سننے سے اور کھیل کو دے اس کو تقویت ہوتی ہے۔

اسی طرح سے مجالس ذکراللہی میں، تارک الدنیا لوگوں کی صحبت میں اور نیک لوگوں کے حالات اور عظوں کے سنبھال سے بھی عشق کا علاج ہوتا ہے۔

باطنی علاج

(۱) باطنی طور پر ایک علاج یہ ہے کہ تم یہ خیال کرو اور جانو کہ تمہارا محبوب ایسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارے دل میں اترا ہوا ہے تم اپنی فکر کو محبوب کے عیبوں میں استعمال کر دیجیں تسلی ہو جائے گی کیونکہ انسان نجاستوں اور گندگیوں میں ملوث ہوتا ہے جبکہ عاشق اپنے معشوق کو حالتِ کمال میں دیکھتا ہے اور اس کی خواہش نفسِ معشوق کا کوئی عیب نہیں دیکھنے دیتی۔ مگر حقائقِ اعتدال اور میانہ روی سے واضح ہوتے ہیں جبکہ خواہش نفس ایسا ظالم حکمران ہے جو عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ اس وجہ سے عاشقِ معشوق کی برا نیوں کو بھی اچھا جانتا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت اصمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا

۱۔ مشق کی تعریف اور پہنچان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب معاشوں کے پیاز کی خوشبو عاشق کے نزدیک ستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ معلوم ہو۔

(۲) حکما، فرماتے ہیں کہ خواہش کی آنکھ کافی ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان اپنی بیوی سے منہ پھیر کر اس پر اپنی عورت کو ترجیح دیتا ہے چاہے اس کی بیوی زیادہ خوبصورت بھی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی عورت کے عیب اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے اور بیوی کے ظاہر ہوتے ہیں میل جوں کی وجہ سے۔ اسی لئے جب وہ اس جدید محظوظ سے اختلاط کرتا ہے اور اس اختلاط سے اس کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا دل بھر جاتا ہے اور پھر دوسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور پھر اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

(۳) مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں اور اس کی گندگی اور برا کیوں کو جن کو لباس نے چھپا رکھا ہے اگر فکر میں استعمال کرے تو عشق نہنڈا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے تو تم اس کی آلاتشوں اور گندگیوں کی فکر کرو۔

(۴) اس بنا پر عاشقوں کی بہت سی جماعت نے معاشوں کی شکایت کی اور ان سے دور ہو گئے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی جب ان سے اختلاط ہوا تو انسانی عیوب ظاہر ہوئے اور ان سے نفرت ہو گئی اور پریشان ہوئے۔

(۵) کبھی تو ایسے طریقہ سے انسان کو تسلی ہوتی ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے محبت کرتا ہے پھر جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اور رشتہ داری تو میرے فلاں دوست کے ساتھ ہے تو باز آ جاتا ہے اور عشق نہنڈا ہو جاتا۔

عشق چھوڑ کر صبر کرنے کا انعام

جو آدمی اپنے اعضاء کو گناہ سے روکے، عشق کو دبائے اور خود کو پاکدا من رکھے گناہ کی حرکات نہ کرے، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ اے الہی تنا ہمت مجھ میں تھی میں نے کر لی، اب جو میری طاقت میں نہیں اس سے تو مجھے ظن نہ رکھنا۔

اگر کوئی شخص ان حالات میں ایسا کرے تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:
ان الله عزوجل تجاوز لامتى عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم
ه او تعمل به۔ (بخاری، مسلم)۔ (۱۰۸)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے معاف کیا میری امت میں سے ان (گناہ کی خواہشات و ارادہ) کو جن کے بارہ میں نفس گفتگو کرتا ہے جب تاک کہ انسان اس کا کلام نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے۔

حضرت جنید بغدادی

سید الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

جو کچھ انسان کے دل میں آتا ہے اس کی وجہ سے انسان پر عیب
نہیں لگایا جاتا بلکہ اس وقت عیب لگایا جاتا ہے جب اس پر عمل
درآمد کرے جو اس کی طبیعت میں آئے۔

(۱۰۸) رواہ البخاری (۶۶۶۴)، و مسلم (۱۲۷)، و أبو داود (۲۲۰۹)، والترمذی (۱۱۸۳)، والنمسائی ۱۵۶/۶-۱۵۷، و ابن ماجہ (۲۰۴۰) و (۲۰۴۴)، وأحمد فی المسند ۳۹۸/۲، ۴۲۵، ۴۷۴، ۴۸۱، ۴۹۱، والبیهقی فی سننہ الکبری ۲۹۸/۷، و ابن حبان فی صحيحہ (۴۳۳۴-۴۳۳۵)۔

مجھے ضرور پڑھیں

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ارشاد

حضرت صحابی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

کہاں ہیں وہ خوبصورت لوگ جن کے چہرے چمکتے دمکتے تھے،
کہاں ہیں وہ جن کی جوانی پر لوگ رشک کھاتے تھے؟ کہاں
ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر آباد کئے اور فصیلوں کے ساتھ ان
کی حفاظت کی؟ کہاں ہیں وہ جن کو جنگ کے میدانوں میں
غلبہ حاصل ہوتا تھا؟

ان کو زمانہ نے پیس کر رکھ دیا اور انجام کاریہ قبر کے اندر ہیرے میں جا پڑے
(اور اب وہ یہ فریاد کرتے ہیں) ہائے آگ، ہائے آگ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔

حضرت ابن مسعودؓ کا ارشاد

آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو!

تم رات دن کی گذرگاہ میں ہو۔ تمہاری زندگیاں کم ہو رہی ہیں،
تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک
آنے والی ہے۔ پس جو شخص تم سے اچھائی کی کاشت کرے گا وہ
(قیامت میں) اس کو خوشی خوشی کاٹے گا اور جو برائی کی کاشت
کرے گا وہ اس کو عنقریب شرمندگی سے کاٹے گا، ہر کاشتکار کو
وہی ملتا ہے جس کی وہ کاشت کرتا ہے۔

پھر پر کندہ عبرت

ابو زکریا قسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ بیت اللہ شریف میں موجود تھے اس وقت ایک کندہ کیا ہوا پھر پیش کیا گیا تو سلیمان نے اس کے پڑھنے والے کو طلب کیا تو حضرت وہب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے اس کو پڑھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا:

اے انسان! اگر تو دیکھ لے کہ تیری موت کتنا قریب ہو چکی ہے
تو تو اپنی طویل امید سے دنیا میں کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اور
جسے شرمندگی ہو اگر تیرا قدم پھسل جائے تو تیرے رشتہ دار اور
نوکر چاکر بھی ساتھ چھوڑ دیں اور تیرا باپ اور قربی رشتہ دار
الگ ہو جائیں اور بیٹا اور کنبہ بھی الگ ہو جائے۔ اب تو دوبارہ
دنیا میں لوٹنے والا نہیں، اور نہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔
اس لئے قیامت کے دن کے لئے حسرت اور ندامت سے پہلے
نیک عمل کرنے۔

امام اوزاعیؓ کی نصیحت

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو سلام کے بعد لکھا کہ
تم ہر طرف سے (شریعت کی) جکڑ بندیوں میں (یعنی شریعت
کے احکام کے) مکلف ہو۔ یاد رکھو تم روزانہ رات دن
(قیامت کی طرف) ہنکائے جا رہے ہو، لہذا تم اللہ سے اور اس
کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو اور جب تمہارا آخری سانس
نکل رہا ہو تو تم اسی حالت (ایمان) پر ثابت قدم ہو۔ والسلام

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔

تو آپ نے اس کو یہ تحریر فرمایا:

اما بعد! تم دنیا کو اس طرح بنالو جس میں تم نے اپنی خواہشات پوری نہ کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی افطاری موت سے کرو (اور یہ سمجھ لو کہ موت آہی چلی ہے اور ابھی افطار کرلوں گا)
والسلام

تو اس شخص نے آپ کو لکھا کہ آپ مجھے اور نصیحت کریں۔ تو آپ نے لکھا
اما بعد! اپنے دین کو صحیح سالم رکھ کر دنیا سے معمولی چیز پر کفایت کر لے جس طرح سے بہت سے لوگ دین گنو اکر بہت سی دنیا حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ والسلام

جاننے والا انجمان کی طرح نہیں

حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی تھی کہ
میرا انتقام اس شخص پر ایسا نہیں ہے جو مجھے جانتا ہے اور میرے سامنے نافرمانی کی جرات کرتا ہے اس شخص کے مقابلہ میں جو مجھے نہیں جانتا۔

اصل سرمایہ کو تباہ کرنے والا

محمد بن حاتم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دل اور تمہارا وقت ہیں جبکہ تو نے ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں میں پھسادیا ہے اور اپنے اوقات کو ان گناہوں میں ضائع کر دیا ہے جو کرنے کے نہیں تھے۔ وہ شخص کب نفع کما سکتا ہے جس کا راس المال (اصل سرمایہ) ہی خسارہ میں ہو۔

بدن گھل رہے ہیں عمر فنا ہورہی ہے

حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو یوسف فسوی ملک شام کے ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک آدمی کو دکران کے سامنے آیا اور ان کو سلام کیا پھر کہا اے ابو یوسف مجھے ایسی نصیحت کرو جس کو میں آپ کی جانب سے یاد رکھوں تو آپ روپڑے پھر فرمایا:

اے بھائی! رات دن کا اختلاف اور ان کا بیت جانا دونوں تیرے بدن کو گرانے اور تیری عمر کرفا کرنے اور تیرے اجل کو پورا کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ اس لئے تجھے ضروری ہے اے میرے بھائی! تم اطمینان سے نہ بیٹھو حتیٰ کے یہ جان لو کہ تمہارا ٹھکانا اور مقام کیا ہو گا؟ اور تیرا پروردگار تجھ پر تیرے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کی وجہ سے تجھ سے راضی ہے۔ اے ضعیف انسان تو کل کونطفہ تھا اور (اگلی) کل (یعنی موت کے بعد) سڑے ہوئے مردار کی

طرح ہوگا۔ اگر تجھے اپنا گلنا سڑنا بدبودار ہونا پسند نہیں ہے تو گناہوں سے باز آ جا اور جان لے کہ تجھے اس وقت شرمندگی نہ ہو جب تجھے شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔


پھر حضرت ابو یوسف رونے لگے اور وہ شخص بھی رونے لگا اور میں بھی ان کے رونے کی وجہ سے رورہا تھا اور وہ دونوں بے ہوش کر گر گئے تھے۔

تیرے سانس گن کرنے کے پورے کے جارہے ہیں

ایک دیہاتی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کیا تجھے زمانہ نصیحت نہیں کرتا (زندگی کے) دن تجھے خبردار نہیں کرتے؟ حالانکہ تیرے لمحے شمار ہو رہے ہیں اور سانس گنے جارہے ہیں اور تیرا حال یہ ہے کہ تیرے نزدیک یہ دونوں تیرے سامنے تکلیف دہ بن کر سامنے آئیں گے (اور تجھے اس وقت تنبیہ ہوگی کہ ہائے میں نے ان کو کہاں خراب کیا)۔

ایک فیلسوف نے اپنے بھائی کو لکھا:

دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری ہے ان کے درمیان موت کا پل ہے لیکن ہم جھوٹے خوابوں میں گھرے ہوئے والسلام ہیں۔



الحمد لله محدث عظيم، مؤرخ اسلام، خطيب
عظيم، داعي كبير، امام ابن جوزي قدس اللہ سره کی مایہ ناز
کتاب "ذم الھوی" کا انتخاب اور اردو ترجمہ بنام "عشق
مجازی کی تباہ کاریاں" خداوند تعالیٰ شانہ و عم نوالہ کی توفیق ممیق سے اور
احسان عظیم سے مکمل ہوا۔ اللہ کریم اب کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے
اور سید المرسلین، حبیب رب العالمین، شفیع المذاہبین، خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لئے اس کتاب کو دنیاوی
عاشقوں کو عشق بازیوں سے اور عورتوں، لڑکوں اور مردوں کو خرابیوں اور بدکاریوں
اور بدمعاشیوں سے بچانے کا شاندار ذریعہ نجات اور سعادت بنائے۔

فقط مسکین پر تقصیر

مفہی امداد اللہ انور کان اللہ لہ و کان ہو اللہ

دارالمعارف ملتان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| میزان الاعتدال | للذهبی | تلخیص استدرک للذهبی | للذهبی |
| كتاب العقل وفضله | لابن أبي الدنيا | الامثال | للعتسکري |
| الكامل | لابن عدي | جموع الحمام | للسجوطي |
| الأوسط | للطبراني | الجامع الصحيح | للسخاري |
| السن | للدارقطني | الجامع الصحيح | لمسلم |
| شعب الإيمان | للبيهقي | تاریخ بغداد | للحطیب البغدادی |
| الضعفاء | للعقيلي | كتاب الزهد | للسجیقی |
| زوائد الزهد | لعبد الله بن أحمد بن حنبل | مسند الفاروق | للحافظ ابن كثير |
| الموضوعات | لابن الجوزي | الزهد | لابن المبارك |
| تلخیص الموضوعات للذهبی | لابن الجوزي | المستدرک | للحاکم |
| الفوائد المجموعة | للسوكانی | السن | لاسی داود |
| الموضوعات | للصفاغی | السن | للسانی |
| التذكرة | للفتنی | السر | للدادرمي |
| المنار المنیف | لابن القیم | السن الكبری | للسجیقی |
| اللالی المصنوعة | للسجوطي | حلیۃ الأولیاء | لابن نعیم |
| كشف الخفاء | للغلوینی | الصحيح | لابن حبان |
| مجمع الزوائد | للبیشمی | السن الكبری | للسانی |
| روضۃ العقاء | لابن حبان | تحفة الأشرف | للام المزرا |
| الدر المنشور | للسجوطي | عمل اليوم والليلة | للسانی |
| فتح القدیر | للسوكانی | تفسير حامی البیان | لابن حریر الطبری |
| الترغیب | لالأصبھانی | تفسير | لعبد بن حمید |
| المسند | للام احمد | تفسير | لابن المنذر |
| المسند | للبزار | المعجم الكبير | للطبرانی |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| لابن أبي حاتم | التفصیر | للسيوطی | الجامع الصغير |
| للإمام أحمد | كتاب الزهد | للطرازی | الأوسط |
| لابن مردویہ | التفصیر | للمناوی | فیض القدیر |
| سیر اعلام البلاء | للذهبی | لأبی الشیخ | التوبیخ |
| المغنى عن حمل الاسفار | للحافظ العراقي | عشرة النساء من سنن الکبری | للسناني |
| مسند ابی داود | للطیالسی | للترمذی | السن |
| روضة المحبین | لابن القیم | لابن ماجه | السن |
| أحكام النظر إلى المحرمات | لابن حبیب العامری | للحاکم | المستدرک |
| للحافظ العسکلانی | فتح الباری | لابن الجوزی | تلبیس إبلیس |
| لابن حبان | موارد الظمآن | لابن عدی | الکامل |
| لابن قدامة المقدسی | كتاب التوابین | لابن خلکان | وفیات الأعیان |
| لأبی یعلی | المسند | للصفدی | الوافی بالوفیات |
| للكفوی | الکلیات | لابن القیم | الحوالہ الکافی |
| للاماء الذهبی | دیوان محسوس نسی | لمنوری | شرح صحيح مسلم |
| للاعسہانی | شرح الاسلام | للفضاعی | مسند الشهاب |
| لابن مردویہ | كتاب لاعدی | للإمام مالک | الموطا |
| | التفصیر | للحمرانطی | اعتلال القلوب |
| | | لعبد الرزاق | المصنف |

صفحات 272

الصرف الجميل

اشتہار

علم صرف کے قواعد اور ابواب پر مشتمل جامع اور مختصر تالیف از حضرت
مولانا محمد ریاض صادق مدظلہ۔

فہرست تصانیف و تراجم مفتی امداد اللہ انور

| کتاب | تایپ | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| اسرار کائنات | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| امم اعظم | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| اکابر کا مقام عبادت | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| جنت کے حسین مناظر | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| فضائل حفظ القرآن | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| لذیت مناجات | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| مناجاة الصالحین (عربی) | مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | |
| نام کتاب | مترجم | مصنف | عربی |
| آنسوؤں کا سمندر | امداد اللہ انور | امام ابن الجوزی | بحر الدمع |
| استغفارات حضرت حسن بصری | امداد اللہ انور | حضرت حسن بصری | الاستغفارات |
| او صاف ولایت | امداد اللہ انور | ابوعبد الرحمن سلمی | طبقات الصوفیہ |
| باوشاہوں کے واقعات | امداد اللہ انور | امام غزالی | الترمسوک |
| تاریخ جنات و شیاطین | امداد اللہ انور | امام جلال الدین سیوطی | لقط المرجان |
| فتاویٰ جدید فقیہی مسائل | امداد اللہ انور | مفتي محمود گنڈوہی | فتاویٰ محمودیہ (اردو) |
| جو اہر الاحادیث | امداد اللہ انور | محمد عبد الرؤوف المناوی | كنوز الحقائق |
| جہنم کے خوفناک مناظر | امداد اللہ انور | امام ابن رجب حنبلی | التخویف من النار |
| رحمت کے خزانے | امداد اللہ انور | امام دمیاطی | المتجر الرابع |
| عشق مجازی کی تجاه کاریاں | امداد اللہ انور | امام ابن الجوزی | ذم الهوى |
| فضائل شادی | امداد اللہ انور | ابن حجر عسکری | الافصاح |
| فرشتوں کے عجیب حالات | امداد اللہ انور | امام سیوطی | الجبانک |
| قیامت کے ہولناک مناظر | امداد اللہ انور | امام سیوطی | البدور السافرة |

زیر طبع تصانیف و تراجم

| کتاب | مؤلف |
|------|------|
|------|------|

| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | ادعیہ الصحابہ (عربی) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | اسماء النبی الکریم | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | اسلاف کے آخری لمحات | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | اکابر کی مجرب دعائیں | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | تاریخ علم اکابر | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | قصاویر مدینہ | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | جنت البقیع میں مدفون صحابہ | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | حکایات علم و علماء | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | خدمت والدین | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | خشوع نماز | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | شرح و خواص اسماء حسنی | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | صحابہ کرام کی دعائیں | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | فضائل تلاوت قرآن | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | گنہگاروں کی مغفرت | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | مستند نماز حسنی | |
| مولانا مفتی امداد اللہ انور مدظلہ | | معارف الاحادیث | |
| مترجم | مصنف | ترجمہ | کتاب |
| امداد اللہ انور | | = | ترجمہ قرآن پاک |
| امداد اللہ انور | ابن ابی الدنیا | المتنین | اکابر کی تمنا میں |
| امداد اللہ انور | ابن ابی الدنیا | العقوبات | امتوں پر عذاب الہی کے واقعات |
| امداد اللہ انور | مولانا عبد اللہ | = | تیسیر المنشق |
| امداد اللہ انور | علی بن ابی طلحہ | صحیفہ علی بن ابی طلحہ | تفیر ابن عباس |
| امداد اللہ انور | دکتور سعود | مروریات ام المؤمنین | تفیر عائشہ الصدیقہ |
| امداد اللہ انور | امام غزالی | بداية الهدایہ | عبدات سے ولایت تک |
| امداد اللہ انور | خطیب بغدادی | افتضاء العلم العمل | علم پر عمل کے تقاضے |
| امداد اللہ انور | ابن ابی الدنیا | الشکر لله عز و جل | فضائل شکر |
| امداد اللہ انور | علامہ سیوطی | ابواب السعادة | فضائل شہادت |

| | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| امداد اللہ انور | ابن ابن الدینیا | الصبر و الشواب علی | فضائل صبر |
| امداد اللہ انور | ابن ابن الدینیا | الجوع | فضائل غربت |
| امداد اللہ انور | ابن ابن حبان | مشاهیر علماء الامصار | مشاهیر علماء اسلام |

ویگر علماء کے مطبوعہ تراجم

| کتاب | عربی | متن ترجمہ یا مولف | اصلاح و ترمیم |
|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| صلقال بعض الناس | بعض الناس | ? / عبد الجبید انور | امداد اللہ انور |
| خواص القرآن الکریم | الدر النظیم | امام یافعی / | امداد اللہ انور |
| سانحہ طوم | حدائق الانوار | امام رازی / الحمد بن خش | امداد اللہ انور |
| سیالا ب مفتخرت | کتاب التوابین | ابن قدامة ارشاد سادق | امداد اللہ انور |
| الصف الجميل | = | مولانا ناریاض صادق | امداد اللہ انور |
| سیل براء - جملی معرے | فتح الشام | امام افتمی / شیخ احمد | امداد اللہ انور |
| قبرے بہت ناک مناظر | شرح الصدور | امام سیوطی / محمد مسی | امداد اللہ انور |
| گرامات اہلیہ | ردض الرباحین | امام یافعی / جعفر علی | امداد اللہ انور |
| محبوب کاسن و بھال | = | محمد سیمان منصور پوری | امداد اللہ انور |
| میحرات رسول آم | الکلام المیس | مفتی عنایت احمد | امداد اللہ انور |
| پیس پھول | صید الحاطر | ابن جوزی / عبد الجبید انور | امداد اللہ انور |

ویگر علماء کے غیر مطبوعہ تراجم

| کتاب | مصنف | مترجم | تسهیل و ترمیم |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| آثار السنن | محمد بن علی شوق نیوی | فضل الرحمن و حرم کوئی | امداد اللہ انور |
| الادب المفرد | امام بخاری | مولانا ناریاض صادق | امداد اللہ انور |
| سنن دارمی | امام دارمی | | امداد اللہ انور |
| ہدیہ در دروس اسلام | یوسف بن اسماعیل نیہانی | مفتی ابو سالم زکریا | امداد اللہ انور |